

محققین، خطباء اور اہل علم حضرات کے لئے عظیم تحفہ

مقالہ شریف

(جلد اول)



آسمان تحقیق کے نیرتاباں

علامہ ابوالرضا

مجردی چشتی
حفظہ اللہ تعالیٰ

اللہ بخش نیر

تحریک
مولانا
سعید احمد چشتی

انجمن تحقیقات اہل سنت نزد ڈگری کالج ملتان روڈ کبیر والا

0300-7892820 0344-7340410 0321-6875512

محققین، خطباء اور اہل علم حضرات کے لئے عظیم تحفہ

مقالہ شہیر

(جلد اول)

آسمان تحقیق کے نیرتاباں علامہ ابوالرضا

اللہ بخش نیر
مجدوی چشتی
حفظہ اللہ تعالیٰ

تصحیح و تحشیہ

ابو الجلیل محمد خلیل خان فیضی

باہتمام

محمد صفدر علی صابر، محمد شمس الحق چشتی، ملک صفدر عباس

ادارہ تحقیقات اہل سنت
نزد ڈگری کالج ملتان روڈ کبیر والا
0300-7892820 0344-7340410

111195

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب _____ مقالات میر جلد اول

مصنف _____ علامہ اللہ بخش نیر مجدی

تصحیح و تخریج _____ مولانا ابوالجلیل محمد خلیل خان فیضی

تحریک _____ مولانا سعید احمد کبری

باہتمام _____ محمد صفدر علی صابر، محمد شمش الحق چشتی، ملک صفدر عباس

صفدر صابر پرنٹنگ اینڈ کمپوزنگ پوائنٹ نزد ڈگری کالج کبیر والا (خانپول)

اشاعت اول _____ مئی 2008ء

ہدیہ _____ 200.00 روپے

منے کے لیے

انجمن تحقیقات اہل سنت نزد ڈگری کالج ملتان روڈ کبیر والا

احمد بک کارپوریشن، عالم بزنس سنٹر اقبال روڈ نزد کمیٹی چوک راول پنڈی

مکتبہ غوثیہ ہول سیل پرانی سبزی منڈی نزد عسکری پارک کراچی

مسلم کتابوی داتا مارکیٹ لاہور، مکتبہ نوریہ رضویہ گلبرگ اے فیصل آباد

مکتبہ ضیاء القرآن داتا مارکیٹ لاہور، مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی مسجد بہاول پور

شبیر برادرز لاہور، فرید بک شال لاہور، مکتبہ مہریہ کاظمیہ نزد انوار العلوم نیو ملتان

آستانہ عالیہ نقشبندیہ ڈاکٹر عبدالمعتم صاحب ۱۲ بلاک ڈیرہ غازی خان

مکتبہ حاجی نیاز احمد بوہڑ گیٹ ملتان، تالیفات اویسیہ بہاول پور

مکتبہ اہل سنت جامعہ عنایتیہ روڈ خانپول 0300-7892574

۷	نیر صداقت نصرت القادر فی
۱۰۷	مسئلة الحاضر والناظر القول الصحيح
۱۶۱	فی حیات المسیح
۲۱۱	صحاب ستہ اور فقہ حنفیہ
۲۲۲	ناجی فرقہ بریروی، دیوبندی اختلافات ختم کرنے کی نئی تجویز
۲۶۶	قول متین در بارہ غنیۃ الطالبین
۲۸۳	مسئلہ علم غیب
۲۸۹	از بعین نیر
۳۰۲	داڑھی کی شرعی حیثیت
۳۱۹	

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

ابتدائے آفرینش سے اس عالم رنگ و بو میں کئی مرتبہ بہار آئی اور کئی مرتبہ چمن اجڑا اسلام کے لہلہاتے گلشن کو بہتوں نے سیراب کیا اور بے شمار فتنہ پردازوں نے اسے اجاڑنے کی ناکام کوشش کی ہر دور میں نئے نئے فتنے پیدا ہوئے اور حق کے آگے تہ تیغ ہوتے رہے حق و باطل کا یہ معرکہ جو چودہ سو سال سے زائد عرصہ کو محیط ہے دور حاضر تک جاری ہے۔

خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان جنگ اور محاذ آرائی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے انگریز کے پاک و ہند پر مسلط ہونے کے دور میں یہاں ایک خاص منصوبے کے تحت اتنے فرقے کھڑے کئے گئے کہ آپ کو دوسرے ممالک میں اتنے فرقے نہیں ملیں گے ماضی قریب میں بھی امت مسلمہ کے اندر ایک عظیم انتشار پیدا ہوا اور قلیل عرصے میں پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئی اس انتشار کے پیچھے کون سے عوامل کا اثر انداز تھے اس موضوع پر ہماری گفتگو نہیں ہماری تحریک احقاق حق اور ابطال باطل میں معین (مددگار) ہونے کے حوالہ سے ہے۔

اہل سنت پر امن ہیں متحارب کی حرب نے دو پہر کو شام میں بدلنے کی سازش کے جال بنے تو وہ گھڑیاں ”امن گاہ“ یہ قیامت بن کر ٹوٹیں قیامت سماں میں حضرت علامہ اللہ بخش نیر صاحب مدظلہ العالی کا ”انقلاب آفرین“ اعلان ”قیام سپاہ مصطفیٰ“ نیرتاباں بن کر طلوع ہوتے ہی ضعیف جذبوں کو جوانی عطا کر گیا۔

اور تحریر کے انداز میں محرفین نے تحریف کا طریقہ اپنایا تو حضرت نیر صاحب مدظلہ العالی نے بروقت لا جواب و بے مثال تحقیق کا حق ادا کیا۔

نہایت افسوس کی بات ہے کہ جس عقیدہ توحید پر امت مسلمہ کو مجتمع کیا گیا تھا جہالت اور عدم واقفیت کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس عقیدہ توحید کے اندر اپنی خود ساختہ

اور من پسند تعریفات و مباحث ایجاد کر کے اس کی حقیقی صورت کو مسخ کر دیا اور ملت اسلامیہ میں ایسا انتشار پیدا کر دیا کہ امت مسلمہ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو گئی۔

آج توحید کے برائے نام داعی مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنے میں ذرہ برابر عار محسوس نہیں کرتے اور امت محمدیہ کا شیرازہ بکھیرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورا کفر، دین اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے لیکن یہ لوگ مسلمانوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگا کر کفار کے ناپاک عزائم کو تقویت دے کر دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔

مصطفیٰ کریم ﷺ کی زبان حق ترجمان کا یہ ارشاد کہ:-

وَاللّٰهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۱۷۹، ۵۰۸، جلد دوم ۵۷۸، ۹۷۵ مسلم شریف جلد دوم صفحہ ۲۵۰)

”بے شک مجھے یہ خطرہ نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے“

اور مزید کہ:- ”حضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو تم پر کچھ اس قسم کا اندیشہ ہے جیسے وہ آدمی جو قرآن کا علم رکھتا تھا قرآن کی برکت اور رونق اس کے چہرے سے ظاہر تھی، اسلامی شان تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بدبختی نے اس کو آگھیرا اسلام کے احکام اس نے پس پشت ڈال دیے وہ اپنے پڑوسی پر تلوار لے دوڑا یہ الزام لگا کر کہ اس نے شرک کیا ہے۔ حضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ الزام لگانے والا خطا کار تھا یا جس پر الزام لگا گیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ خطا کار الزام لگانے والا تھا۔

(تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۳۵ جلد دوم طبع حدیث اکیڈمی لاہور جنوری ۲۰۰۱ء)

ان عظیم فرامین مقدسہ کے اثر سے کتنے اذہان اور قلوب محروم رہنے کا ثبوت دینے کے عادی

مجرم بنے تو اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت نیر صاحب مدظلہ نے حق حقیقت اور حقائق کے ساتھ ساتھ منافقت کو پردہ اخفاء سے طشت ازبام کر دیا۔

علامہ سعید احمد کریمی صاحب مہتمم جامعہ ضیاء القرآن ملتان نے حضرت نیر صاحب مدظلہ کے مسودہ جات اور آپ کے شائع شدہ مقالہ جات کو نہایت محنت شاقہ سے جمع فرمایا۔

علامہ محمد شیر خان طاہر پرنسپل جامعہ تعلیم القرآن ۵ کسی نے ہمت بندھائی اور برادر م علامہ محمد شمس الحق چشتی صاحب صدر مدرس جامعہ تعلیم القرآن ۵ کسی کبیر والا نے افادہ عام کے لیے کمپوز کر کے مشکل کو آسان بنا دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ ایک موقع پہ محقق اہل سنت

علامہ بخش نیر صاحب جامعہ غوثیہ کبیر والا میں تشریف فرما تھے تو میں نے عرض کیا کہ حضور اپنے مسودہ جات میں کمپوزنگ کی خدمت کے لیے راقم کو یاد فرمایا کریں اگرچہ اس وقت بات آئی گئی ہوگئی مگر قدرت کو یہ منظور تھا کہ فقط مقالہ جات ہی نہیں بلکہ ”تفسیر نیر العرفان“ بھی کمپوزنگ کے ساتھ ساتھ جملہ حقوق محفوظ بحق ناشر کی سعادت بھی حاصل ہوگئی۔

ترجمہ قرآن ”نیر العرفان“ کی اشاعت کی سعادت مخدوم اہل سنت حضرت ڈاکٹر عبدالمنعم نقشبندی صاحب مدظلہ العالی آف ڈیرہ غازی خان کے حصہ میں آئی۔ جو کہ عنقریب قارئین کی نذر ہوگا۔ انشاء اللہ

ان آسان مراحل کے ساتھ ایک مشکل مرحلہ پروف ریڈنگ کے ہمراہ تخریج کا تھا جس کے لیے اللہ بھلا کرے محقق اہل سنت حضرت علامہ محمد خلیل خان فیضی صاحب مدظلہ کا جنہوں نے امامت و خطابت کے فرائض نبھانے کے ساتھ ساتھ مسودہ جات پہ تخریج کا کام مکمل کیا۔

محمد صفدر علی صابر

خطیب جامع مسجد محمدی مخدوم پورہ ہوڑاں تحصیل ضلع خانیوال

ممبر ”ادارہ تحقیقات اہل سنت“ کبیر والا



نیر صداقت

بجواب

برائے اہل سنت



مولوی دوست محمد قریشی (دیوبندی) کوٹ ادوکی کتاب کا جواب

سنت و بدعت کی بحث

براہین اہل سنت کے صفحہ ۲ سے ۱۳ تک مولوی دوست محمد قریشی نے اہل سنت کی تعریف اور اہل بدعت کی مذمت میں چند حوالے درج کر کے بحث کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اب ہم چند مزید حوالے درج کر کے فیصلہ اہل فہم حضرات پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بدعتی کون ہیں؟

۱۔ احکام الاحکام صفحہ ۵۱ جلد ۱۔ بہت سی بدعات کے متعلق یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مکروہ بھی نہیں ہیں اور جب ہم نے ان بدعات کو دیکھا جو فرعی احکام سے متعلق ہیں تو وہ ان بدعات کے مساوی نہیں جو بدعات اصول عقائد سے متعلق ہیں۔

۲۔ فتاویٰ رشیدیہ میں ہے جس بدعت میں ایسی شدید وعید ہے وہ بدعت فی العقائد ہے جیسا کہ روافض خوارج کی بدعت۔

۳۔ اصول عقائد کے بدعتی: اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ از شاہ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ ۲۰۸ جلد ۲ میں ہے: شفاعت کا انکار بدعت اور گمراہی ہے۔

۴۔ فتاویٰ عبدالحق کامل مطبوعہ لاہور صفحہ ۲ جلد ۳: انکار شفاعت بدعت و ضلالت ہے چنانچہ خارجی اور بعض معتزلہ انکار کی طرف گئے ہیں۔

۵۔ فتاویٰ عبدالحق کامل صفحہ ۸ جلد ۱: خوارج سب سے زیادہ بدعتی ہیں۔

۶۔ فتاویٰ عبدالحق صفحہ ۶ جلد ۱: جو شخص جس فرقے کا کام کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ فرقہ وہابین کو معتزلہ کہتے ہیں۔ اب تفصیل فرقوں اور بیان ہر ایک کی بدعت کا موجب طول ہے۔

۷۔ ترجمہ فتاویٰ عالمگیری اردو مطبوعہ لاہور صفحہ ۱۵۲ جلد ۱ حاشیہ ۲: نہیں جائز ہے نماز ایسے بدعتی کے پیچھے جو شفاعت کا منکر ہو۔

۸۔ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری صفحہ ۹۵: کرامات اولیاء حق ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے معتزلہ، اور اہل بدعت منکر ہیں۔

۹۔ شرح عقائد نسفی صفحہ ۱۲۳: مردوں کے لیے زندوں کی دعا اور صدقات و خیرات نفع بخش ہے۔ معتزلہ (اہل بدعت) اس کے خلاف ہیں۔ (معلوم ہوا ذعا بعد نماز جنازہ، جمعرات، تیجہ، دسواں، چہلم اور عرس وغیرہ کے منکر معتزلی اور بدعتی ہیں)

۱۰۔ شرح عقائد نسفی صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷: کرامات اولیاء مثلاً حضرت آصف کا پلک جھپکنے سے قبل بلقیس کا تخت مسافت بعیدہ سے لے آنا، بی بی مریم کے لیے محراب میں طعام کا آنا، جمادو بے زبانوں کا کلام کرنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منبر پر مدینہ منورہ میں اپنے لشکر کو دیکھ کر امیر لشکر کو یاساری الجبل الجبل پکارنا اور ساریہ کا دور سے آپ کے کلام کو سن لینا اور خالد بن ولید کا زہر پی لینا اور اثر نہ ہونا اور حضرت عمر کے خط کو دیکھ کر دریائے نیل کا جاری ہو جانا وغیرہ حق ہے اور معتزلہ (بدعتی) کرامات اولیاء کے منکر ہیں۔

۱۱۔ شرح فقہ اکبر صفحہ ۱۶۹: اللہ تعالیٰ کو ظلم وغیرہ (جملہ عیوب و نقائص کذب وغیرہ پر قادر ہونا نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ مجال تحت قدرت داخل نہیں اور معتزلہ (بدعتیوں) دیوبندیوں اور تنظیموں وغیرہ) کے نزدیک قادر ہے کرتا نہیں۔

قریشی صاحب (اب اس کے تبعین) اس شیشے میں اپنا منہ دیکھیں اور ہمیں بتائیں بدعتی کون ہے؟

۱۲۔ مظاہر حق شرح مشکوٰۃ صفحہ ۲۱۱ جلد ۲:- انکار شفاعت بدعت و گمراہی ہے جیسا کہ خوارج اور بعض معتزلہ نے اختیار کیا ہے۔

۱۳۔ اسی کتاب کے صفحہ ۵۲۲ جلد ۲ میں ہے:- معراج کا منکر گمراہ اور بدعتی ہے۔ صفحہ ۲۳۵ جلد ۲ میں ہے: معتزلہ منکرین شفاعت و کرامات و قائلین امکان کذب باری تعالیٰ ایک جماعت ہے اہل بدعت سے۔

۱۴۔ رد المحتار باب البغاة میں اور المنہد علی المفند عقائد علمائے دیوبند میں ہے:- ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کے ماننے والے خارجی (بدعتی) ہیں اور صدر دیوبند نے الشہاب الثاقب میں ان کو یہود و نصاریٰ، ہندو مجوس سے بدتر لکھا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا خارجی بدعتیوں کی نشانی لکھی۔

(۲۶۲۱۵) مظاہر حق شرح مشکوٰۃ صفحہ ۶۹ جلد ۱ میں ہے:- (حدیث من احدث فی

امرنا هذا ماليس منه فهورد) میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نکالنا اس چیز کا مخالف کتاب و سنت کے نہ ہو برائیں ہے۔ جو بدعت سیدہ ہے وہ سبب گمراہی کی

ہے۔ جاننا چاہیے کہ جو چیز حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی

وہ بدعت ہے اس میں سے جو موافق اصول اور قواعد سنت ان کی کے ہو اس کو بدعت

حسنہ کہتے ہیں۔ (منکرین تقسیم بدعت مثلاً امام ربانی کے نزدیک یہ نیا کام سنت کہلائے گا)

اور جو مخالف اس کے ہو بدعت ضلالہ اور سیدہ یعنی بری بدعت کہتے ہیں۔ چنانچہ مراد

کل بدعة ضلالة سے یہی ہوتی ہے اور بعضے بدعت واجب ہے مانند تعلیم نحو کے

واسطے سمجھنے کلام اللہ وغیرہ کے اور بعضے حرام ہے مثلاً مذاہب جبریہ، قدریہ (معتزلہ،

خوارج، وہابیہ نجدیہ وغیرہ) وغیرہ کے اور رد ان (مذاہب باطلہ) کا کرنا بدعت واجبہ

سے ہے اور بعضے بدعت مستحب جیسے مدرسہ، خانقاہ بنانے اور جتنے اچھے کام (محفل میلاد، عرس بزرگان دین، دینی اخبار و رسائل نکالنا، تراجم قرآن) حضرت کے زمانے میں نہ تھے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جو بات نئی نکالے اور وہ مخالف کتاب یا سنت یا قول صحابہ یا اجماع کے وہی بدعت ضلالت ہے اور جو ایسی نہ ہو وہ بری نہیں۔ (وہ بدعت حسنہ ہے اس کے قریب قریب عبارت۔ ۱۶۔ فتح الباری شرح بخاری صفحہ ۲۱۹ جلد ۲، ۱۷۔ عمدۃ القاری صفحہ ۳۵۲ جلد ۵۔ ۱۸۔ صریح المعقول یصح المنقول لابن تیمیہ۔ ۱۹۔ منهاج السنہ صفحہ ۱۳۸ جلد ۱۔ ۲۰۔ حاشیہ ترمذی صفحہ ۱۰۸ جلد ۲۔ ۲۱۔ انجاء الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ صفحہ ۳ و ۵۔ ۲۲۔ مصباح الزجاجہ حاشیہ ابن ماجہ از امام سیوطی صفحہ ۶۔ ۲۳۔ اشعۃ اللمعات صفحہ ۱۲۵ جلد ۱۔ ۲۴۔ رد المحتار صفحہ ۵۲۳ جلد ۱ صفحہ ۵۲ جلد ۱۔ ۲۵۔ ارشاد الساری شرح بخاری صفحہ ۳۲۲ جلد ۳، ۲۶، نووی شرح مسلم صفحہ ۲۸۵ جلد ۱۔ ۲۷۔ مدخل ابن الحاج صفحہ ۲۵۷ جلد ۲ وغیرہ میں ہے۔

۲۸۔ احیاء العلوم للغزالی صفحہ ۲۷۷ جلد ۱۔ کسی کام کے نئے ہونے کی وجہ سے اس سے منع نہ کیا جائے گا کیونکہ بہت سے نئے کام ایسے ہیں جو اچھے ہیں جیسا کہ تراویح کی جماعت قائم کرنے کے متعلق کہا گیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نئی ایجاد ہے اور وہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت مذمومہ فقط وہی ہے جو سنت قدیمہ کے مخالف ہو۔

۲۹۔ احیاء العلوم صفحہ ۲۵۵ جلد ۲۔ بدعت مذمومہ فقط وہی ہے جو سنت ثابتہ کے

متضاد ہو۔

۳۰۔ مانہ مسائل صفحہ ۱۰۰۔ بدعت حسنہ کسی خاص وقت (قرون ثلاثہ وغیرہ) تک

محدود نہیں بلکہ حدیث پاک من سن فی الاسلام سنة حسنة کی رو سے تا قیام قیامت غیر محدود ہے۔ یعنی قیامت تک ایسے نئے کام ایجاد کرنا جائز اور بدعت حسنة ہے جو سنت ثابتہ کے متضاد و مخالف نہ ہوں۔

☆..... محفل میلاد اور اس میں قیام کر کے سلام پڑھنا قائلین کے نزدیک بدعت حسنة اور منکرین تقسیم بدعت کے نزدیک سنت ہے اور اس کا عامل بدعتی اور گمراہ ہرگز نہیں۔
ملاحظہ فرمائیے:

☆..... مواہب اللدنیہ از امام قسطلانی شارح بخاری صفحہ ۲۷ جلد ۱۔

☆..... تفسیر روح البیان صفحہ ۵۶ جلد ۹۔

☆..... سیرت حلبیہ صفحہ ۹۹ جلد ۱۔

☆..... سیرة النبویہ طبع مصر صفحہ ۲۲ جلد ۱۔

☆..... شام امدادیہ۔

☆..... فیصلہ ہفت مسئلہ از مرشد علمائے دیوبند۔

☆..... مزارات اولیاء پر عمارات و گنبد بنانا اور چادریں و عمامے ان پر رکھنا بدعت ضلالہ نہیں بلکہ جائز اور مقصود شرع کے موافق ہے۔ اس لیے ان کاموں کا عامل سنی ہے بدعتی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے:

تفسیر روح البیان صفحہ ۸۷۹ جلد ۱، رد المحتار صفحہ ۸۳۹ جلد ۱، مرقاة شرح

مشکوٰۃ، در مختار، طحطاوی صفحہ ۳۷۰، المیزان الكبرى صفحہ ۲۲۸ جلد ۱

مجمع البحار الانوار صفحہ ۱۸۷ جلد ۲، شرح سفر السعادة اور تحقیق الحق

البین رد مسائل اربعین مصنفہ شاہ احمد سعید مجددی (دوست مجر قریشی کے پیران پیر)

خدا جانے قریشی صاحب اور ان کے مرید اپنے پیران پیر کو کیا کہتے ہیں؟

☆.....قبر پر اذان دینا بدعت ضلالہ نہیں بلکہ اس کی اصل سنت سے ثابت ہے اس کا عامل سنی ہے بدعتی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے: ردالمحتار صفحہ ۳۵۸ جلد ۱، بوادر النواور صفحہ ۱۷۸۔ مصنفہ تھانوی۔ (۵۲ تا ۴۷)

☆.....قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھانے والے اور مزاراتِ اولیاء پر چراغاں کرنے والے بدعتی نہیں بلکہ سنی ہیں: ملاحظہ فرمائیے: طحطاوی، شامی، روح البیان حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ صفحہ ۲۲۹ جلد ۲، کشف النور، عالم گیری۔

☆.....عرس بزرگان کی اصل سنت سے ثابت ہے۔ لہذا اس کے عامل بدعتی نہیں بلکہ خالص سنی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے: شائم امدادیہ، فیصلہ مفت مسئلہ، مائت بالنسۃ، فتاویٰ عزیز و غیرہ۔

☆.....نماز جنازہ کے بعد بیٹھ کر یا صفیں توڑ کر دعا مانگنا آیاتِ قرآنیہ سے اشارۃً اور احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت ہے۔ اسے بدعتی کہنے والا خود بدعتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ المسبوط از امام سرخسی، بدائع الصنائع وغیرہ۔

ان المسبوط صفحہ ۱۰۷ جلد دوم، بدائع الصنائع صفحہ ۳۳۷، ۳۳۸ نیز مفتی محمد کفایت اللہ دیوبندی نے دلیل الخیرات صفحہ ۵۱ میں لکھا کہ صفیں توڑ کر دعا مانگنا جائز ہے۔ شمس الحق افغانی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو جواب استفتاء دربارہ مسائل متنازعہ صفحہ ۲۹، ۳۰ طبع پشاور۔ ۲۱ جید علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر دعا مانگنا جائز ہے۔ ملاحظہ ہو البواقیت والجواهر یعنی اقوال الاکابر کی تحقیق مسائل العصر الحاضر طبع پشاور۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

☆..... جنازہ کے آگے نعت یا کلمہ پڑھنا جائز ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: خلیفہ ندیہ

شرح طریقہ محمدیہ صفحہ ۴۰۸ جلد دوم، لوائح الانوار وغیرہ۔

☆..... کفی یا الفی لکھنا شرعاً جائز ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: درمختار صفحہ ۱۲۶ جلد اول،

نوادر الاصول صفحہ ۲۱۷، اخبار الاخیار۔

☆..... اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا ارشاد رسول ﷺ کی تعمیل ہے اور اذان سے

پہلے صلاۃ و سلام صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا کے حکم عمومی کی تعمیل ہے۔ ملاحظہ ہو: صحیح

مسلم، نسائی، ابو داؤد، مشکوٰۃ، تبلیغی نصاب، تنویر الحوالک، شرح مؤطا

امام مالک، مدارج النبوت، رد المحتار، درمختار، کشف الغمہ از امام

شعرانی، نہر الفائق شرح کنز الدقائق، سیرت حلبیہ وغیرہ۔

☆..... انگوٹھے چومنا مستحب بلکہ سنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و حضرت آدم علیہ

السلام ہے۔ ملاحظہ ہو: تفسیر روح البیان صفحہ ۲۱۰ جلد دوم، حاشیہ جلالین صفحہ

۲۵۷ مطبوعہ اصح المطابع، رد المحتار صفحہ ۲۷۰ جلد اول، طحطاوی علی

مراقی الفلاح صفحہ ۱۲۲، علم الفقہ صفحہ ۱۸ جلد دوم از علامہ عبدالشکور لکھنوی استاذ

مولوی عبدالستار تونسوی صدر تنظیم اہل سنت دیوبند، ارشاد الطالبین صفحہ ۳۹۴ مصنفہ

حضرت درویشہ تنکنہاری، بوادر النواذر صفحہ ۴۰۹، از تھانوی وغیرہ۔

الحمد للہ! اہل سنت و جماعت کے کسی کام کو کوئی بد مذہب بدعت ضلالہ ثابت نہیں

کر سکتا۔ اگر کوئی نیا کلیہ ان کاموں کو بدعت ضلالہ ثابت کرنے کے لیے ایجاد کیا

جائے گا تو اس موجد کے ہزاروں نئے کام اس کلمے کی زد میں آکر بدعت و ضلالت

ٹھہریں گے۔ ان معتبر حوالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مولوی دوست محمد

اور اس کی پارٹی کے علماء دیوبند ابن عبدالوہاب نجدی خارجی عقائد کو عمدہ بتانے والے اہل بدعت خارجی اور معتزلی ہیں۔

اور تمام الفاظ جو مولوی دوست محمد نے اہل بدعت کی مذمت میں درج کئے ہیں خود ان کی ذات گرامی اور ان کی بدعتی جماعت پر پوری طرح منطبق ہو گئے۔ مثلاً بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ خواہش پرست لوگ ہوں گے، ٹھگ باز ہوں گے، لوگوں سے کہیں گے ہم علماء ہیں اور پیر و مرشد ہیں ہم تم کو دین کی طرف بلاتے ہیں حالانکہ وہ اس میں جھوٹے ہوں گے۔ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے یعنی جھوٹی حدیثیں اور ردی اعتقاد بیان کریں گے بس ان سے دور رہنا۔ اسی طرح مجدد الف ثانی کے یہ الفاظ بھی قریشی صاحب اور ان کی بدعتی جماعت کے لیے ہیں کہ بدعتی کی صحبت سے پرہیز کرنا۔ بدعتی (تنظیموں) مودودیوں، نجدیوں، وہابیوں کی صحبت کا نقصان روحانی طور پر کافر کی صحبت کے نقصان سے زیادہ ہے اور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان بھی مولوی دوست محمد کی جماعت کے لیے ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے ان کے قریب تک نہ پھٹکے ان پر سلام نہ کہے۔

خدا تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان بدعتی (دیوبندیوں) کی صحبت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

علمائے ملت کی فہرست

قریشی صاحب نے صفحہ ۱۳، ۱۵، ۱۶ پر چودہ صدیوں کے علمائے حق کی ایک فہرست پیش کی ہے جس کو دیکھ کر ادنیٰ سمجھ کا انسان بھی حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ عہد

صحابہ کے بعد آج تک صرف ۳۶ علماء کا نام لینا اور باقی حضرات ائمہ کرام علماء و بزرگان کا نام چھپانا مسلمان قوم کے ساتھ غدا ری نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم علمائے ملت کے اسمائے گرامی جمع کریں تو براہین سے چار گنا بڑی کتاب میں محض ان کے اسماء نہ سما سکیں گے اور اس نا سمجھ مصنف نے محض اڑھائی صفحات میں پہلی صدی سے لے کر چودھویں صدی تک کے علماء کرام کے نام جمع کر دیئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



دوسرا باب

عبادت کا مفہوم

مصنف براہین نے صفحہ ۱۷ تا ۲۳ لفظ عبادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے تفاسیر کی ادھوری عبارات درج کر کے قلابازیاں کھائی ہیں اور مسلمان قوم کو بہت دھوکہ دیا ہے۔ مثلاً صفحہ ۲۱ پر لکھتے ہیں: عبادت بمعنی اتباع بھی آتی ہے۔ حالانکہ محض اطاعت اور اتباع ہرگز ہرگز عبادت نہیں، عبادت، اطاعت، تعظیم ان تینوں میں نہایت لطیف فرق ہے، عبادت کے لغوی معنی ہے بندہ بننا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا۔

اقصى غاية الخضوع والتدلل اور انتہائی تعظیم جو عبادت کی تعریف بیان کی گئی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عبادت کی یہ لازمی شرط ہے کہ بندگی کرنے والا معبود کو اللہ (لائق عبادت) اور اپنے کو اس کا بندہ (عبادت گزار) سمجھے۔ یہ سمجھ کر جو تعظیم بھی اس کی کرے گا وہ اس کی عبادت ہوگی۔ اگر اسے اللہ (لائق عبادت) نہیں سمجھتا بلکہ نبی ولی باپ، استاذ، پیر وغیرہ سمجھ کر تعظیم کرے تو اس کا نام اطاعت ہوگا، توقیر، تعظیم وغیرہ ہوگا۔ عبادت نہ ہوگا۔ غرضیکہ اطاعت، اتباع و تعظیم و توقیر تو خدا اور محبوبان خدا سب کی جائز ہے۔ لیکن عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

☆..... أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللَّهُ فِي طَاعَتِهِ كَرَامَةٌ لِّلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی اطاعت کرو۔

☆..... قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي أُوذِيَ اللَّهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

تو میری اتباع کرو۔

☆..... وَتَعَزُّوهُ وَتُقِرُّوهُ اور میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔

☆..... مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اسی نے ہی خدا کی اطاعت کی۔

☆..... فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَزَّرُوا پس جو رسول پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی۔

☆..... وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی۔

☆..... فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔

ان قرآنی آیات سے معلوم ہوا کہ ہر اتباع و تعظیم عبادت نہیں اور اسی طرح جو قریشی صاحب نے عبادت کا معنی دعا صفحہ ۲۱ پر لکھا ہے وہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ ہر دعا عبادت نہیں بلکہ محض وہی دعا عبادت ہے جو کسی کو معبود (اللہ) سمجھ کر کی جائے۔

قرآنی دلائل ملاحظہ ہوں

☆..... اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔

☆..... وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ اور رسول تم کو پیچھے پکارتے تھے۔

☆..... لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا رسول کے پکارنے کو بعض کو بعض

کے پکارنے کی طرح نہ بناؤ۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں ان آیات میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکارنے کا حکم ہے اور یہ حکم بعد وصال بھی باقی ہے۔ (صاوی علی الجلالین)

☆..... اَدْعُرَالِي سَبِيلِ رَبِّكَ اپنے رب کے راستہ کی طرف بلائیے۔

☆..... وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ أَوْ تَمَّ فِيهِ جَمَاعَةٌ أَيْسَى هُونِي
چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے۔

☆..... ثُمَّ ادْعُهُنَّ (اے ابراہیم) پھر تم ان مردہ پرندوں کو پکارو۔

عارف باللہ امام یوسف بیہانی اپنی معرکہ الآراء تصنیف (جو کہ محض یار رسول اللہ پکارنے کے جواز میں ہے) شواہد الحق صفحہ ۱۳۸ مطبوعہ مصر میں لکھتے ہیں: ہر ندا اور پکار عبادت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر ندا مطلقاً ممنوع ہوتی حالانکہ ایسا نہیں۔ محض وہی ندا اور پکار عبادت ہے جو کسی کو مستحق عبادت سمجھ کر کی جائے اور اس کی الوہیت کے اعتقاد کے ساتھ کی جائے اور مجرد ندا جس میں الوہیت کا اعتقاد نہ ہو وہ ہرگز عبادت نہیں۔ خواہ وہ ندائیت کو ہو یا غائب کو یا جماد کو اور ایسی ندا احادیث صحیحہ اور آثار صریحہ میں موجود ہے۔ حدیث ضریر میں یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ نے بعد وفات یار رسول اللہ پکارا۔ جب مسیلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پکارا۔ تمام نمازی السلام علیک ایہا النبی پڑھتے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں یا عباد اللہ احسبوا عباد اللہ اعینونی اور اغیثونی وارد ہے۔

مولوی دوست محمد کے پردادا پیر خواجہ محمد عثمان دامانی مجموعہ فوائد عثمانی (جس پر نظر ثانی حسین علی نے کی ہے) میں منکرین استمداد از ارواح اولیاء کو لا مذہبان فرمایا۔ دوست محمد قریشی کے پیر پیران شاہ احمد سعید مجددی نے تحقیق الحق لمہین میں یار رسول کے منکرین اور اولیاء کو پکارنے کے منکرین کو گمراہ فرقہ قرار دیا۔ صدر یوبند حسین احمد

مدنی نے الشہاب الثاقب میں یارسول کے منکرین کو وہابیہ خبیثہ قرار دیا۔

نوٹ ضروری :- قرآن کریم میں جہاں غیر خدا کو پکارنے کی ممانعت آئی ہے

وہاں دعا بمعنی عبادت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: ترجمہ تھانوی و تفاسیر معتبرہ، تفسیر

صاوی صفحہ ۲۲۹ جلد ۳ مطبوعہ مصر۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کے تحت ہے۔ اس

آیت میں لَا تَدْعُ کے معنی ہیں نہ پوجو۔ اس آیت میں خارجیوں (وہابیوں) کی دلیل

نہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کے بغیر کسی مردہ یا زندہ سے کچھ مانگنا شرک ہے۔

خارجیوں (دیوبندیوں) کی یہ منطق نری جہالت ہے۔ کیونکہ غیر خدا سے اس طرح

مانگنا کہ رب العزت ان کے ذریعہ سے نفع نقصان دے کبھی واجب ہو جاتا ہے کہ یہ

طلب اسباب کا حاصل کرنا ہے اور اسباب کا انکار جاہل کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔



تیسرا باب

بحث علم غیب

نبی کا معنی:۔ نبوت اطلاع علی الغیب کا عین ہے یا لازم۔ نبی صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ جس کے معنی ہمیشہ غیب کی خبر دینے والے کے ہوتے ہیں۔ نیز نبی اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضائی الامور جو اعلیٰ درجے کا غیب ہے کا منجر ہوتا ہے۔ تو نبی کا معنی ہمیشہ مطلع علی علم الغیب ہوا۔ ملاحظہ فرمائیے: مواہب اللدنیہ صفحہ ۱۹۲ جلد دوم، از امام قسطلانی شارح بخاری، امام الحدیث قاضی عیاض کی شفا شریف صفحہ ۱۰۲ جلد ۱، امام زرقانی کی شرح مواہب، علامہ علی قاری حنفی کی شرح شفاء، امام شہاب الدین خفاجی کی نسیم الریاض وغیرہ۔

جب اطلاع علی علم الغیب نبوت کا عین یا لازم ثابت ہو تو مطلقاً نفی علم غیب ثابت کرنے والا منکر نبوت ہوگا۔

ایک فریب:۔ تمام دیوبندی بالعموم اور مولوی دوست محمد بالخصوص کہتا ہے: جو علم خدا نے اپنے نبی کو بتا دیا وہ علم غیب نہیں رہتا اور وحی کے ذریعے بتائی ہوئی بات غیب نہیں۔

جواب:۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

☆..... وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اوروہ (خدا یا نبی) غیب بتانے پر کنجوس نہیں۔

☆..... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ خدا

کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تم کو غیب پر مطلع کرے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں

سے جسے چاہے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔

☆..... عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ وَهُوَ (ذاتی)

غیب دان اپنے خاص غیب پر بجز اپنے پسندیدہ رسولوں کے اور کسی کو مسلط نہیں کرتا۔
ان آیات میں خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی ہوئی خبروں کو غیب فرمایا اور پارہ ۱۲
میں فرمایا:

☆..... تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ يَهِيَ غَيْبِ كِي خَبْرِي هِي جُوهُمِ وَحِي كِي ذَرِيَعِي
آپ کو بتلاتے ہیں۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی ہوئی خبروں کو غیب فرمایا۔
غیب کی دو قسمیں:۔ علمائے اہل سنت نے غیب کی دو قسمیں ذاتی اور عطائی (مالا
ادلل علیہ اور علیہ دلیل) بیان فرمائیں۔ قسم اول ذاتی کو خاصہ خداوندی قرار دیا
اور قسم ثانی عطائی کو علم غیب تسلیم کرتے ہوئے محبوبان حق کے لیے ثابت فرمایا۔
ملاحظہ فرمائیے:

☆..... تفسیر جمل، تفسیر صاوی، تفسیر کبیر، تفسیر بیضاوی، روح
البیان زیر آیت يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، تفسیر روح البیان زیر تحت آیت قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ
نسیم الریاض، تفسیر خازن صفحہ ۱۵۷ جلد ۲، لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ كِي تَحْتِ،
تفسیر جمل صفحہ ۲۱۷، جلد ۲ زیر آیت لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ كِي تَحْتِ، شرح
مواقف، شرح جامع الصغیر، تفسیر عرائس البیان وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ كِي
تَحْتِ، تفسیر عنایت القاضی، تفسیر صاوی صفحہ ۱۹ جلد ۲، تفسیر روح البیان

۱۱۱۹۵

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ كَتَحْتِ، تفسیر المودج جلیل قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 كَتَحْتِ، فتاویٰ حدیثیہ، فتاویٰ امام نبوی شارح مسلم، جامع
 الفصولین، ردالمحتار، شرح فقہ اکبر، فتاویٰ مہریہ وغیرہ۔

خدا عزوجل اور رسول ﷺ کے علم میں فرق

پہلا فرق:۔ اللہ کا علم ذاتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مستفاد، اسے
 بالواسطہ، بالعرض عطائی اور وہی کہتے ہیں۔ (تفسیر ابوالسعود صفحہ ۹۲ جلد ۲)
 دوسرا فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم واجب ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم
 ممکن۔ (ردالمحتار)

تیسرا فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، سرمدی اور ابدی حقیقی ہے اور حضور صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کا علم حادث۔ (ردالمحتار)

چوتھا فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی ہے اور حضور صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کا علم متناہی۔

پانچواں فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیر مخلوق اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم
 مخلوق۔

چھٹا فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم کسی کے زیر قدرت نہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم کا علم مقدر۔

ساتواں فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم ممتنع التغیر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کامل ممکن التبدل۔

آٹھواں فرق :- اللہ کا علم واجب البقا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جائز الفناء۔ (ماخوذ از الدولة المکیہ علی حضرت فاضل بریلوی صدقہ علمائے عرب و عجم) اس تفریق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شرک کا شائبہ بھی باقی نہیں رہتا۔

اعتراض :- عام دیوبندی کہتے ہیں کہ جب تم لوگ علم غیب کلی ماکان وما یکون الی یوم القیامۃ ثابت کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی کب ہوا۔ بلکہ تم لوگوں نے اللہ کے علم ساتھ کے برابری کر دی اور غیر متناہی علم تسلیم کیا جو کہ شرک ہے؟

جواب :- علم ماکان وما یکون الی یوم القیامۃ اور کل شئی کا تفصیلی علم ذرے ذرے، قطرے قطرے کا علم متناہی اور محدود ہے اور علم الہی کے مقابلے میں بعض قلیل بلکہ کالعدم ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

☆..... وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا کی تفسیر، تفسیر جمل صفحہ ۲۴۶ جلد ۲، صاوی صفحہ ۳۶۲ جلد ۲، تفسیر کبیر صفحہ ۵۳ جلد ۲، تفسیر معالم التنزیل صفحہ ۱۳۸ جلد ۲، تفسیر خازن صفحہ ۱۳۸ جلد ۲، اور آیت کریمہ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ کی تفسیر صاوی صفحہ ۲۳۱، جلد ۲، تفسیر جمل صفحہ ۳۸۳ جلد ۲، تفسیر کبیر صفحہ ۷۸ جلد ۳، اور آیت کریمہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ پاره ۱۶ کی کبیر صفحہ ۱۷۶ جلد ۲، اور جمل صفحہ ۵۰ جلد ۳۔ وغیرہ اور سورۃ لقمان کی آیت وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ کی تفسیر کبیر صفحہ ۱۵۷ جلد ۲، جمل صفحہ ۲۰۹ جلد ۳، اور سورۃ جن کی آیت

وَأَحْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَعَدَدًا كِي تفسیر کبیر صفحہ ۷۰۱ جلد ۳۰، مدارک صفحہ ۳۲۰ جلد ۴
روح البیان وغیرہ ان آیات کی تفسیر کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب معتبرہ سے صاف
ثابت ہے کہ غیب السموات والارض کان یکون کلیات جزئیات کل شئی
وغیرہ علم الہی کے مقابلہ میں قلیل، بعض اور متناہی و محدود ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے:

حل العقده شرح بوردہ از علامہ علی قاری، حواشی بیضاوی از امام شہاب الدین
خفاجی، روح البیان، صحیح بخاری واقعہ حضرت خضر علیہ السلام، شرح عقائد
نسفی صفحہ ۲۷، شرح مواقف، کیمیائے سعادت، تفسیر حسینی، تفسیر خازن، صفحہ ۱۳۵
جلد ۳، تفسیر صاوی صفحہ ۳۳۵ جلد ۴، ابتداء سورة اسراء وغیرہ۔

جواب:۔ اگر ہم فرض کریں کہ کوئی گمان کرنے والا علم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کو جمیع معلومات الہیہ کا محیط جانے تو اتنا ضرور ہے کہ اس کا گمان باطل اور وہم
خطا مگر علم الہی سے برابری اب بھی نہ ہوئی دوسرے فرقوں کے سبب۔ نیز شیخ محقق شاہ
عبدالحق محدث دہلوی نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو عرفاء (عارفین) فرمادیا مشرکین
نہیں فرمایا۔ نیز امام ابواسحاق مصنف المدلول المنقول فی بیان شمول علم
الرسول اور عارف ابوالحسن البکری مفتی بحر و بر (المتوفی ۶۷۷ھ) کا یہی
عقیدہ ہے۔

علمائے وہابیہ سے ایک سوال:۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کے فرمان کے
موجب کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قدرت ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام
معلومات کا علم عطا فرمادیں یا نہیں؟ اگر قدرت ہے تو زیر تحت قدرت علم کا اتنا

شُرک کہاں رہا اور اگر جواب نفی میں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعتقاد میں جھوٹ پر تو قادر ہو اور شمول علم رسول پر قادر نہ ہو ذرا فرق بتا دیں تو عنایت ہوگی (نجم الرحمن صفحہ ۴۱) اعتراض:- حضور علیہ السلام کو جب کبھی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام بھیج کر وحی کے ذریعے کچھ باتیں بتلا دیتا تھا تو آپ جانتے تھے ورنہ آپ نہیں جانتے تھے آپ کا علم نہ دائمی تھا نہ غیب۔ (عام مغالطہ)

جواب ۱-۱۔ بیشک حضور علیہ السلام کا علم وحی الہی اور تعلیم ایزدی کے ذریعے حاصل ہوا۔ ۲۔ لیکن وحی الہی صرف پیغام جبریل میں منحصر نہیں۔ ۳۔ رؤیا الانبیاء وحی (الحديث) انبیاء علیہم السلام کی خواب بھی وحی ہے اور آپ کا ہر کلام وحی ہے۔ ۴۔ وحی القا کے ساتھ بھی ہوتی تھی یعنی قلب اطہر میں کسی بات کا ڈال دینا۔ جبریل علیہ السلام قرآن کریم ضرور لائے لیکن علم قرآن حضرت جبریل کے واسطے کا محتاج نہیں۔ امام قسطلانی نے محب الدنیا شریف صفحہ ۳۹ جلد ۲ میں ایک طویل حدیث نقل فرمائی جس میں یہ الفاظ بھی ہیں: حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شب معراج مجھے تمام قرآن مجید تعلیم فرمایا۔ یہ بات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل غلط ہے کہ جبریل نے جو بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوگئی ورنہ نہیں۔ بخاری ۱ اور مسلم میں ہے: میں تمہیں اپنے

۱۔ بخاری شریف صفحہ ۱۰۲ جلد اول: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور ﷺ نے فرمایا: فانی اراکم خلف ظہری وفی روایة فانی اراکم من وراء ظہری۔ بخاری شریف صفحہ ۱۰۰ جلد اول: وفی روایة مسلم عنہ فواللہ انی لاراکم امامی ومن خلفی۔ مسلم صفحہ ۱۸۰ جلد اول۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے سے دیکھتا ہوں اور محدثین نے تخصیص کو رد فرما کر عموم کو ترجیح دی۔

نور نبوت :- حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیز ص ۵۱۸ جلد اول میں **وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور نبوت سے ایسی باتیں جانتے ہیں جو غیب ہیں اور یہ بھی تعلیم ایزدی میں شامل ہے جب نور نبوت دائمی ہے تو یہ علم مبارک بھی جو نور نبوت کے ذریعہ سے حاصل ہو رہا ہے یقیناً دائمی ہوگا۔ یہ نہیں کہ کبھی تو یہ کمال حاصل ہو جائے اور کبھی زائل ہو جائے۔

نبی کی خاص صفت :- ذرقانی ص ۲۰۰ جلد ۱ میں امام غزالی سے منقول ہے کہ نبی میں چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کی ذات میں ایک ایسا نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان باتوں کا ادراک کرتا ہے جو غیب میں آئندہ ہونے والی ہیں۔

عدم تو جہی :- مخالفین جن وقائع سے حضور علیہ السلام کی بے علمی ثابت کرتے ہیں ہمارے نزدیک انہیں بے علمی پر محمول کرنا صحیح نہیں۔ ہمارے نزدیک کسی حکمت کی بنا پر خواہ اسے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے باوجود کسی امر خاص کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اور عدم تو جہی بے علمی کو مستلزم نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

لطائف المنن ، کتاب الابریز ، الیواقیت والجواهر فی بیان عقائد الاکابر صفحہ ۱ جلد ۲ وغیرہ۔

ایک نکتہ :- اگر علم غیب بمعنی ملکہ غیب لے لیا جائے جیسا کہ مطول، تلویح،

مختصر معانی اور میرزا ہد وغیرہ میں ہے اور جمیع معلومات سے مراد صرف
ماکان و مایکون الی یوم القیامۃ ہو جو محدود اور متناہی ہے تو کسی قسم کا خدشہ اور
اعتراض باقی نہیں رہتا اور تمام نصوص قرآنیہ و احادیث نبویہ بآسانی متفق ہو جاتے ہیں
کیونکہ ملکہ کہتے ہیں اس کو کہ جس امر کی طرف توجہ کی جائے وہ فوراً معلوم ہو جائے۔

(نجم الرحمن صفحہ ۴۱)

نبی کا معنی:۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض چکے ہیں کہ نبی صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو ہمیشہ مطلع
علی الغیب ہونے پر دل ہے۔ کبریٰ احمر صفحہ ۷۱ جلد ۲ میں ہے: فہذا الغیب
هو علم الرسالة۔ پس یہ غیب ہی علم رسالت ہے۔

ہفتوات دوستیہ:۔ مولوی دوست محمد نے براہین اہل سنت کے صفحہ ۳۴ سے صفحہ ۱۲۷
تک علم غیب کی بحث کی ہے۔ صفحہ ۳۵ پر دیوبندی عقائد کی کتاب التصدیقات کے
صفحہ ۲۴ کی عبارت درج کی ہے۔ جو ہم پر قطعاً حجت نہیں اس عبارت میں حضور علیہ
السلام کو اعلم الخلق اور عالم علوم اولین و آخرین مان کر پھر اسی بات کی تردید
کردی گئی ہے۔ صفحہ ۳۶ پر لاسبیل الیہ للعباد الا باعلام منہ لکھا یعنی علم غیب تک
بغیر اعلام خداوندی بندوں کی رسائی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے خاص
بندے غیب جانتے ہیں اور پھر صفحہ ۳۷ پر اس بات کو رد کر دیا۔ صفحہ ۳۸ پر اللہ تعالیٰ کو ہر
شے کا عالم ثابت کیا جس کا ہمیں انکار نہیں صفحہ ۳۹ پر حضرت آدم علیہ السلام کے
علم پر حملہ کرتے ہوئے مصنف براہین لکھتا ہے اگر آدم علیہ السلام عالم الغیب اور
عالم کل ہوتے تو اکل شجر کا ارتکاب نہ کرتے۔

جواب :- اللہ تعالیٰ نے اکل شجر کے ارتکاب کی وجہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عِزًّا فرمائی
یعنی آپ نے بحالت نسیان دانہ کھایا اور آپ کا ارادہ قطعاً نہ تھا اور یہ بے ادب مصنف
اس کی وجہ نبی کی بے علمی بتاتا ہے کسی چیز کی طرف توجہ نہ رہنا یا اس کا بھول جانا بے علمی
کو مستلزم نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک دفعہ بھولی ہوئی چیز کبھی یاد ہی نہ آئے۔ لیکن بے شمار
بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اگر بھول کی وجہ سے علم زائل ہو جاتا تو وہ بات کبھی یاد
نہ آتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا علم کلی زائل نہیں ہوا۔ مصنف براہین
کے دلائل نمبر ۲ تا ۴۰ مندرجہ صفحات از ۳۹ تا ۵۳ قطعاً ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں۔
بیشک بالذات، بالاستقلال، بلا واسطہ حقیقۃً عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اعتراض :- مصنف براہین صفحہ ۵۵ پر انبیاء کرام کے مقولہ لَعَلَّمْنَا یعنی ہمیں علم نہیں
سے یہ ثابت کرتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے عالم الغیب نہ ہونے کا اقرار کریں گے۔
جواب :- ماذا اجبتم کا تعلق ظاہر سے ہے علم غیب سے نہیں انبیاء کا یہ مقولہ بے علمی کی
وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ وہ ازراہ ادب ایسا کہیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے:

☆..... تفسیر بیضاوی صفحہ ۱۶۵، تفسیر صاوی صفحہ ۳۱۳ جلد ۱، تفسیر خازن و جمل
صفحہ ۵۴۱ جلد ۱، کبیر صفحہ ۱۲۳ جلد ۱۲۔

مصنف براہین صفحہ ۵۵ پر آیت کریمہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ درج کر کے صفحہ ۵۶ پر لکھتے ہیں:
حضرت آدم علیہ السلام سے اکل شجر کا ارتکاب بے علمی کی وجہ سے ہوا حالانکہ ارشادِ
خداوندی ہے: فَنَسِيَ یعنی اس کی وجہ نسیان ہے بے علمی نہیں اور نسیان علم کے باوجود
ہوتا ہے۔

صفحہ ۵۶ کا جواب:۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ارشادِ نومی میں ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ علم میں بھی ذاتی علم مراد ہے جو مخلوق میں کسی کو بھی حاصل نہیں۔

صفحہ ۵۷ کا جواب:۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اللہ کے علم ذاتی کا بیان

ہے۔

صفحہ ۵۸ کا جواب:۔ سیدنا ابراہیم واسماعیل علیہما السلام پر بوقت قربانی ذہول

واستغراق حکم الہی کی تکمیل ارشاد میں طاری تھا ان کی توجہ گردن کٹنے یا نہ کٹنے کی طرف

نہ تھی بلکہ ارشادِ خداوندی کی تکمیل میں اس قدر محو و مستغرق تھے درمیان میں محبوب حقیقی

کے سوا اور کوئی نہ تھا اور یہ بات واضح ہے کہ ذہول اور عدم تو جہی علم کے منافی نہیں۔

صفحہ ۵۹ کا جواب: مصنف براہین نے آیت کریمہ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثَ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ

علیہ السلام سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو نہ پہنچاتے

تھے اور بے خبر تھے۔

جواباً گزارش ہے:۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہنچاتے تھے کہ یہ فرشتے

ہیں: ملاحظہ فرمائیے:

☆..... تفسیر خازن صفحہ ۳۳۹ جلد ۲، ان ابراہیم عرف انہم ملائکہ۔ تفسیر کبیر

صفحہ ۲۳ جلد ۱۸ میں ہے: انہ کان عالما بانہم من الملائکہ ایسا ہی دیگر تفاسیر معتبرہ

میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السموات والارض دکھلائے

گئے تو ان ملائکہ کو احاطہ رویت سے کس طرح خارج کیا جاسکتا ہے۔

آنے والے فرشتے چونکہ بشکل مہمان آئے تھے۔ اس لئے آپ کے جذبہ مہمان نوازی

کے وصف جمیل کا آپ پر ایسا غلبہ ہوا کہ اس وقت حال میں ان کی توجہ آنے والوں کی ملکیت کی طرف مبذول نہ ہوئی اور یہ واضح ہے کہ توجہ نہ ہونے سے اس کے علم کی نفی نہیں ہوتی۔ پھر لطف یہ ہے کہ یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی برکت سے حضرت سارہ علیہا السلام کو پشتوں کا علم یعنی علم مافی الارحام حاصل ہو گیا۔ جو دلیل محبوبان خدا کے کمال کی مظہر ہو اور جس سے ان کے علم کی وسعت ظاہر ہو اسے ان کے علم کی نفی اور عیب ثابت کرنے کے لیے پیش کرنا بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے؟

مولوی دوست محمد کی بارگاہِ سلیمانی میں گستاخی:- براہین صفحہ ۶۰ پر لکھتے ہیں: حضرت سلیمان علیہ السلام وقوع موت کے وقت سے بے خبر تھے۔ (ملخصاً) جواب:- مولوی جی! بخاری شریف کتاب المغازی صفحہ ۶۳۸ جلد ۲ مطبوعہ کراچی کے ان الفاظ کو بار بار پڑھو: انه لم يقبض نبی قط حتى یرى مقعده من الجنة ثم یحى او یخیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے اس کا بہشت میں ٹھکانہ دکھانہ دیا جائے پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو دنیا پسند کرے چاہے تو آخرت کو پسند کرے۔ اب ہوش سنبھال کر بتاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے یا نہ؟

جب نبی تھے تو اختیار تھا یا نہ؟ وقوع موت کے وقت سے بے خبر یا باخبر؟ معلوم ہوا مصنف براہین نرا جاہل اور گستاخ و بے ادب ہے۔

صفحہ ۶۱ پر مولوی جی نے بارگاہِ سلیمانی میں ایک اور گستاخی کی ہے حالانکہ اس جاہل کو اتنا

تک معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لَأَأْتِيَهُمُ الْفُتُوحَةُ فَرَمَا کر رائی ہونے کا انکار فرمایا ہے ناظر ہونے کا نہیں۔ آپ کے مولوی اشرفی تھانوی بوادر النواذر میں لکھتے ہیں: اصل یہ ہے کہ رائی مرنی کا ایک مکان میں ہونا لازمی ہے بخلاف ناظر منظور کے حد حد چونکہ دربار سلیمانی میں موجود نہ تھا اس لیے آپ نے لَأَأْتِيَهُمُ فَرَمَا لا انظر نہیں فرمایا نظر کی نفی نہیں اگلی آیت میں سَتَنْظُرُوْا فَرَمَا کر اعلان فرمایا کہ میں ابھی آنکھ اٹھا کر ملک سبا میں رہنے والے کو دیکھ لوں گا۔ جس کے غلام پلک جھپکنے سے قبل ملک سبا سے بھاری بھر کم تخت کو دیکھ بھی لیں اور لے بھی آئیں اور وہ خود حد کو بھی نہ دیکھ سکے؟

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

کیا خداوند کریم ایک دفعہ علم دے کر پھر چھین لیتا ہے؟ اور علم کا چھینا جانا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور انبیاء کرام معصوم ہیں۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر وقت علم تھا البتہ عدم توجہ علم کے منافی نہیں۔

صفحہ ۶۲ اور ۶۳ کا جواب:- حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات میں ذہول اور عدم توجہ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بے علمی مراد لینے والا خود بے علم ہے۔ صفحہ ۶۳ کا جواب:- حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ میں ہم لاعلمی کی بجائے عدم التفات کا قول کریں گے چونکہ آپ عالم برزخ میں مشغول تھے اس لیے انہیں دنیا کے زمانہ طویلہ اور سو سال کی مدت کی طرف التفات نہ ہوا۔

دوسرا جواب:- جس طرح محشر کا پچاس ہزار سال کا دن بعض اللہ کے بندوں کے

لیے فرض نماز کے وقت کے برابر اور بعض کے لیے پلک جھپکنے سے بھی کم ہوگا اسی طرح وہ سو سال بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے یَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ اور فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لِمَنْ تَسْتَكْتَهُ اس پر دلیل ناطق ہے۔

صفحہ ۶۵ کا جواب :- حضرت زکریا علیہ السلام کو وعدہ خداوندی پر پورا یقین اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا مکمل علم حاصل تھا دوسری باتیں راز و نیاز کی تھیں صفحہ ۶۶ و ۶۷ کا جواب :- مصنف براہین لکھتا ہے: برادران یوسف علیہ السلام کی خفیہ تدبیروں اور باہمی مشوروں کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم نہ تھا معاذ اللہ جواباً گزارش ہے کہ آپ کو ان کی خفیہ تدبیروں کا مکمل علم تھا جیسا تو آپ نے فرمایا: فَيَكِيدُ وَالْكَائِدُ پس وہ تمہارے (ایذا رسانی کے) لیے ضرور کوئی تدبیر کریں گے اور ان پر واضح فرمادیا کہ: إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ تَمَّارًا يَوْسُفَ كَوْلَ جَانَا مَجْهُ ضَرُورِ غَمِّ مِیْنِ ذَالِ دَعَاوَرِ بَعْدِ مِیْنِ اِنِ لَوِغُوْنَ نَعِ جَوْبَانَهْ بِنَانَا تَمَّارَا سِ كِی طَرَفِ بَهِی اِشَارَهْ فَرَمَادِیَا۔

وَ اَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ اور میں اندیشہ کرتا ہوں کہ اسے بھڑیا کھا جائے۔

تفسیر کبیر صفحہ ۱۰۲ جلد ۱۸ میں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكَ تَحْتِیْ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا علم تھا کیونکہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو قبل ازیں فرمایا تھا اور یونہی تیرا رب تجھے مراتب بخشے گا، اور یہ قطعی دلیل ہے۔

۱۔ مسند ابویعلیٰ صفحہ ۱۳۲ جلد دوم، جامع البیان صفحہ ۲۵ جلد ۲۹ تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۳۳ جلد ۷، موارد انطمان الی زوائد ابن صبان صفحہ ۶۳۸، تفسیر درمنثور صفحہ ۲۶۲ جلد ۶، روح المعانی صفحہ ۵۷ جلد ۲۹۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

تفسیر ابن عباس صفحہ ۱۸۲، تفسیر جلالین، تفسیر صاوی صفحہ ۲۰۲ جلد ۲ تفسیر بیضاوی صفحہ ۳۱۲ جلد اول، تفسیر خازن و جمل صفحہ ۲۲۵ جلد ۲، تفسیر درة البيضا صفحہ ۲۱۱، تفسیر کبیر صفحہ ۲۲۰ جلد ۱۸، تفسیر عثمانی دیوبندی حاشیہ ترجمہ محمود الحسن دیوبندی صفحہ ۳۳۸ مطبوعہ سعیدی کراچی، تفسیر موضح القرآن وغیرہ میں ہے کہ بند کوٹھڑی میں حضرت یعقوب علیہ السلام برہان بن کر موجود تھے اور یوسف علیہ السلام کو نظر آئے۔ تفسیر کبیر صفحہ ۱۷۲ جلد ۱۸ میں لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ کے تحت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مصر کا حاکم میرا بیٹا یوسف ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس علم کے اظہار کا اذن نہیں دیا تھا۔ خدا بھی انہیں لَذُوْعِلْمٍ فرماتا ہے مگر یہ گستاخ مصنف اس صاحب علم ہستی کو بے علم قرار دیتا ہے اور رونے کیلئے فراق یوسف سبب ظاہری تھا ورنہ ان کا رونا باہمتِ بلندی درجات تھا۔ تفسیر بیضاوی صفحہ ۳۲۲، تفسیر صاوی صفحہ ۲۵۵ جلد ۲، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر صفحہ ۱۹۸ جلد ۱۸، تفسیر جمل صفحہ ۲۷۵ جلد ۲ میں عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِي بِهٖمْ جَمِيْعًا کے تحت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اول الامر سے جانتے تھے کہ جو کچھ یوسف علیہ السلام پر گزری اور انہیں حیاتِ یوسف علیہ السلام کا مکمل علم تھا اور آپ کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کا خواب غلط نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یوسف علیہ السلام آپ کو ضرور ملے گا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تفسیر کبیر صفحہ ۲۰۹ جلد ۱۸، اور صاوی صفحہ ۱۵۹ جلد ۲، جمل صفحہ ۲۸۱ جلد ۲ میں اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کے تحت ہے کہ اس سے مراد

یوسف علیہ السلام کی زندگی کا علم تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاصل تھا اور وہ اس سے بے خبر نہ تھے۔ اگر اس جاہل اور گستاخ مصنف (اور اس کے متبعین) میں ہمت ہے تو ان آیات و تفسیری حوالہ جات کارڈ کریں۔

نہ خنجر اٹھے گا نہ شمشیر ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

صفحہ ۶۸ و صفحہ ۶۹ کا جواب:- حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعلین اتارنے کا حکم ان کی بے علمی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ دوسروں کو ادب سکھانا مقصود تھا اور اڑدھا کو دیکھ کر دور تشریف لے جانا بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا۔ بلکہ اس کی وجہ ذہول و عدم توجہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ **إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ** ہمارے عقیدوں کے خلاف نہیں۔ ذاتی حقیقی، بالاستقلال عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

صفحہ ۷۰ کا جواب:- جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے سوا بالذات غیب نہیں جانتے اس جگہ علم غیب ذاتی، بالاستقلال اور جس پر دلیل قائم نہ ہو سکے کی نفی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ تفسیر جمل صفحہ ۳۲۲ جلد ۳، المودج جلیل، مدارک، روضۃ النصیر شرح جامع الصغیر، فتاویٰ حدیثیہ، فتاویٰ امام نووی، شواہد الحق صفحہ ۲۲۸، نسیم الزیاض شرح شفا آیت کریمہ **قُلْ لَا يَعْلَمُ الْآيَةَ عَقِيدَهُ عِلْمُ غَيْبِ عَطَائِي** کے خلاف نہیں اور آیت کریمہ **وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ** میں اولاً غیب ذاتی کی نفی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ تفسیر نیشاپوری، تفسیر بیضاوی صفحہ ۳۱۱ جلد اول۔

ثانیاً: مغیبات غیر متناہیہ کی نفی ہے ملاحظہ ہو:- تفسیر کبیر صفحہ ۲۳۱ جلد ۱۲۔

ثالثاً: یہ کلام کہ میں غیب نہیں جانتا آپ نے تو اضع و انکسار کے طور پر فرمایا اور نہ آپ

سب کچھ جانتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:- تفسیر کبیر صفحہ ۲۳۱ جلد ۱۲، تفسیر جمل صفحہ ۳۲ جلد ۲، تفسیر عرائس البیان۔

رابعاً: اس میں دعویٰ کی نفی ہے دعویٰ کی نفی علم کی نفی کو مستلزم نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ تفسیر روح البیان، ابوالسعود و تفسیر کبیر صفحہ ۲۳۱ جلد ۱۲، رغائب القرآن وغیرہ۔
خامساً: اس آیت میں قُلْ لَّا اَقُوْلُ لَكُمْ کے مخاطب کفار ہیں چوروں سے خزانے چھپائے جاتے ہیں آپ نے ان کی لیاقت کے مطابق فرمایا ورنہ مومنوں کو آپ فرماتے ہیں مجھے علم ماکان وما یکون عطا ہوا کیا مصنف براہین اور اس کی جماعت بھی اپنے آپ کو مخاطبین کفار میں سے سمجھتے ہیں؟

سادساً: آپ نے فرمایا میں ولا اعلم الغیب تو نہیں کہتا میں تو اعلم الغیب کہتا ہوں یعنی میں غیب جانتا ہوں۔ (نیشاپوری وغیرہ)

مولوی دوست محمد کی دلیل نمبر ۶۶ کے تحت تفسیر صاوی صفحہ ۲۸۹ جلد ۳ میں ہے: ہمارے حضور ﷺ کو اس دنیا سے میں تشریف لے جانے سے قبل اللہ تعالیٰ نے جمیع مغیبات کا علم عطا فرمایا اور منجملہ ان کے علم قیامت ہے لیکن اس کے چھپانے کا حکم فرمایا۔

۱۔ سید عبدالعزیز دباغ عارف کابل (المتوفی ۱۱۳۵ھ) میں نبی کریم ﷺ سے ان پانچ چیزوں کا علم کیسے مخفی ہوگا حالانکہ آپ کی امت شریفہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب شرف نہیں ہو سکتا جب کہ اس کو ان پانچ چیزوں کی معرفت نہ ہو۔ الابریز من کلام سید عبدالعزیز دباغ صفحہ ۲۸۳، الابریز کے مترجم مولوی عاشق الہی دیوبندی لکھتے ہیں: غوث زمان سید عبدالعزیز دباغ قدس سرہ۔ ابریز اردو صفحہ ۳۔

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

صفحہ ۷۲ کا جواب :- مصنف براہین کی دلیل نمبر ۶۷ کے تحت بھی محقق صاوی نے شرح جلالین طبع مصر میں مذکورہ الفاظ لکھے کہ خدا نے آپ کو جمیع مغیبات کا علم عطا فرمایا اور روح البیان میں اسی کے تحت ہے کہ حضور علیہ السلام باعلام الہی قیامت کے وقت کو بھی جانتے ہیں اور آیت کریمہ **لَوْ كُنْتُ اعْلَمُ الْغَيْبِ** میں اولاً علم غیب ذاتی کی نفی ہے ملاحظہ ہو تفسیر حسینی صفحہ ۲۳۹ جلد ۱، موضح القرآن صفحہ ۱۲۵، نسیم الریاض وغیرہ۔

ثانیاً: آپ نے تو اضعافاً ایسا فرمادیا اور نہ آپ جمیع مغیبات دنیا و آخرت کے عالم ہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر صاوی صفحہ ۱۱۱، ۱۱۲ جلد ۲، تفسیر خازن صفحہ ۱۵۷ جلد ۲، جمل صفحہ ۲۱۷ جلد ۲۔

مصنف براہین کی پیش کردہ دلیل نمبر ۶۹ **لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ** آیت کریمہ **وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ** سے منسوخ ہے نفی کی آیت پہلے آئی اور ثبوت کی آیت بعد میں اتری اور ہم آپ کا علم تدریجی مانتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے: تفسیر جمل وغیرہ اور دلیل نمبر ۷۰ کا بھی یہی حال ہے۔

صفحہ ۷۴ کا جواب :- گستاخ مصنف نے دلیل نمبر ۷۱ کی سرخی جما کر آیت کریمہ **لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ** درج کر کے اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی مگر تفاسیر معتبرہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ تفسیر کبیر ۲۳۲ جلد ۸ میں اسی آیت کے تحت ہے اس آیت سے ظاہر ایہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے رب تعالیٰ نے روک دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کام امر ایزدی سے تھا تو رب تعالیٰ نے اس سے منع کیوں فرمایا اور اگر ہم کہیں کہ وہ اللہ کے امر

اور اس کے اذن سے نہ تھا تو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟

جبکہ یہ آیت عصمت انبیاء پر دال ہے۔ امر ممنوع عنہ جس کا آیت میں ذکر ہے اچھا تھا تو اس سے اللہ نے منع کیوں فرمایا؟ اور اگر وہ قبیح تھا تو اس کا فاعل معصوم کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب چند وجوہ سے ہے۔ اولاً: اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا ممنوع عنہ اس فعل میں مشغول بھی تھا۔ لَيْنَ اَشْرَكَتَ لِيَجْبَطَنَّ عَمَلُكَ فرمایا حالانکہ آپ سے شرک محال ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ فرمایا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ خدا سے کبھی بے خوف تھے۔ پھر فرمایا وَلَا تَطْعَمِ الْكٰفِرِيْنَ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی کافروں کی اطاعت کی۔ تفسیر کبیر صفحہ ۲۳۳ جلد ۸ میں ہے: ہو سکتا ہے کہ آپ کا میلان قلب ان پر لعنت کی طرف ہوا ہو اور آپ نے اللہ سے اجازت طلب کی ہو اور اللہ نے منع فرمادیا۔ تفسیر ضاوی صفحہ ۱۷۸ جلد ۱ میں اسی آیت کے تحت ہے اس آیت میں نفی من حیث الایجاد والاعدام ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ کرم میں ڈال دیں جس شخص نے یہ گمان کیا کہ حضور علیہ السلام بھی باقی انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں آپ کی ملکیت کوئی شے نہیں آپ کی ذات سے کوئی نفع نہیں نہ ظاہری نہ باطنی تو ایسی بکو اس کرنے والا کافر خاسر الدنیا والآخرۃ ہے اور اس آیت سے اس کا دلیل پکڑنا کھلی گمراہی ہے۔

بحث مغیبات خمسہ: مصنف براہین نے صفحہ ۷۵ سے ۹۷ تک رطب ویا بس حوالے جمع کر کے اور سورۃ لقمان کی آخری آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مغیبات خمسہ کا علم

خدا تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا جو عطا کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے حالانکہ مصنف براہین کی پیش کردہ آیات اور احادیث اور تفسیری حوالہ جات کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ بالذات جاننے کا مدعی کافر ہے اور عطاء الہی سے ماننے کا عقیدہ ہرگز ہرگز کفر نہیں۔

ایک دیوبندی عالم کا فیصلہ:- مولوی عاشق الہی میرٹھی دیوبندی نے تبریز ترجمہ ابریز صفحہ ۳۶ جلد ۱ میں اپنی طرف سے بطور فائدہ لکھا کہ یہ پانچ غیب:-

۱- علم قیامت۔ ۲- علم بارش۔ ۳- علم ارحام۔ ۴- کل کی خبر۔ ۵- کہاں مرے گا۔ اللہ کی عطا سے محبوبان خدا کے لیے جو لوگ ثابت مانتے ہیں وہ عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ان پر طعن نہ کرنا چاہیے اور یہ گستاخ مصنف عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافر کہتا ہے اب بتاؤ مسلمانوں کو کافر کہہ کر یہ گستاخ مولوی کافر بنایا نہ؟

اگر یہ مصنف مسلمان ہے اور مغیبات خمسہ کا علم محبوبان خدا کے لیے بے عطاء الہی ثابت کرنے والے بقول اس کے کافر ہیں تو اس کا اپنا دیوبندی عالم عاشق میرٹھی کافروں کو عاشق رسول اور سچا مسلمان لکھ کر کافر ہوا یا نہ؟ بینوا توجروا۔

بہر حال اگر یہ مصنف مسلمان ہے تو اس کا دوسرا دیوبندی مولوی عاشق الہی ضرور کافر ہے اور اگر وہ مسلمان ہے اور تھانوی کا خلیفہ ہے تو یہ گستاخ مصنف ضرور کافر ہے۔

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

مصنف براہین کی پیش کردہ آیت میں خبیر بمعنی مخبر یعنی خبر دینے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان پانچ غیبوں کی خبر دینے والا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

☆.....تفسیرات احمدیہ از علامہ احمد جیون مصنف نور الانوار استاذ بادشاہ اورنگ
 زیب عالم گیر، تفسیر صاوی صفحہ ۲۱۵ جلد ۳ سورۃ لقمان، تفسیر ابن کثیر
 سورۃ لقمان، تفسیر عرائس البیان سورۃ لقمان تفسیر روح البیان سورۃ
 لقمان تفسیر صاوی صفحہ ۲۲ جلد ۲ زیر تحت **الْيَوْمَ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ** تفسیر صاوی
 ۲۲۰ جلد ۳، تفسیر روح البیان زیر آیت **يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ**، تفسیر صاوی
 صفحہ ۹۷ جلد ۲ زیر آیت **يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَلَيْهِمُ بَعْضَ الْأُمَمِ** شرح جامع
 الصغير، مرقاة شرح از علامہ علی قاری، عمدۃ القاری شرح بخاری، عنایت
 القاضی از امام خفاجی، ارشاد الساری شرح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر
 عرائس البیان زیر آیت **وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ**، لمعات شرح مشکوٰۃ از محقق دہلوی
 شاہ عبدالحق، شرح بمقاصد صفحہ ۲۵۰ جلد ۲، تفسیر کبیر تحت سورۃ الجن
 تفسیر عزیز صفحہ ۷۳ پارہ ۲۹، مشکوٰۃ باب ایمان بالقدر صفحہ ۲۰، مسلم
 جلد دوم کتاب الجہاد غزوئہ بدر، انجاء الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ از شاہ
 عبد الغنی استاذ دیوبندیان صفحہ ۳۰۲، تاریخ الخلفاء صفحہ ۶۱، کتاب الابریز از سید
 عبدالعزیز، خصائص کبریٰ از امام سیوطی، شرح قصیدہ بردہ از امام باجوری، جمع
 التہایہ از امام شنوائی شرح اربعین نووی، بستان المحدثین، دلائل النبوت
 طبرانی، المعجم الکبیر، المعجم الصغير، ابن عساکر، طبقات ابن سعد
 صحیح بخاری و مسلم واقعہ خیر کل کی خبر، مسند امام احمد، بہجۃ الاسرار
 ومعدن الانوار، الدولۃ المکیہ مصدقہ و علمائے عرب صفحہ ۳۵۵، کتاب الاشاعۃ

از امام برزنجی اشرف السوانح ثبوت علم الارحام، تفہیمات الہیہ، شرح فتح المبین، صلاة احمدیہ، کشف الغمہ للشعرانی صفحہ ۷۳ جلد ۲، اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ۱، از شیخ محقق۔

کیا مولوی دوست محمد اور اس کی پارٹی اتنے جلیل القدر آئمہ دین کو کافر کہنے کے لیے تیار ہے؟ اگر یہ سب آئمہ دین مسلمان ہیں تو مسلمان کو کافر کہہ کر مولوی جی کافر ہوا یا نہ؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہیں پھینکتے دیوارِ اہنی پر؟ حماقت تو دیکھئے دلیل نمبر ۳۷ کا جواب:۔ رُسُلًا لَمْ نَقْضُصَّهُمْ عَلَيْكَ میں محض ذکر نہ کرنے کی نفی ہے ورنہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے امام بنے اور آپ کو سب کا علم دیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے: تفسیر صاوی یہی آیت اور مرقاة شرح مشکوٰۃ وغیرہ۔ مصنف براہین کا حضور ﷺ پر بہتان:-

لکھتے ہیں ”حضرت نے اپنے اوپر شہد کو حرام فرمایا“ بلفظہ۔ اب اس گستاخ مصنف کے مقابلہ میں اکابرین اہل سنت کے اقوال ملاحظہ ہوں: تفسیر کبیر صفحہ ۴۲ جلد ۳، لَمْ تُحَرِّمُوا کے تحت امام رازی فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے نفع حاصل نہ کرنے کی قسم کھائی اس اعتقاد کے ساتھ وہ حلال ہے اور جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ تحریم بعینہ اسی کی تحریم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا تھا تو ایسے اعتقاد والا شخص کافر ہے۔ پس اس کی نسبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیسے کی جاسکتی ہے ایسا ہی تفسیر خازن صفحہ ۲۸۴ جلد ۴، روح البیان صفحہ ۴۹ جلد ۱، تفسیر جمل صفحہ ۳۶۴ جلد چہارم میں ہے: اللہ تعالیٰ تو اس

اقدام کی وجہ تبتغی مرضات ازواجك فرمائے اور میرا آقا بھی بتائی العلیم الخیر فرمائیں
لیکن یہ گستاخ اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے علمی ثابت کرتا ہے۔
کیا ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ تھا یا نہ؟ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخفی امور کی
اطلاع دے دیتا ہے اور آپ کو پوشیدہ امور کی خبر ہو جاتی ہے۔ اگر تھا تو پھر مشورے
کے جو معنی ہوں گے اور آپ جو معنی متعین فرمائیں گے وہی ہماری طرف سے سمجھ
لیجئے۔ کیونکہ غیب پر اطلاع کے قائل تو آپ بھی ہیں صرف علم غیب کا انکار ہے۔

مصنف براہین کی اچھی:۔ صفحہ ۷۷ پر لکھتا ہے کہ اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو قتل
عثمان کی افواہ کو صحیح نہ مانتے اور بیعت کا حکم نہ فرماتے۔

جواب:۔ بیعت کے حکم سے بے علمی ثابت کرنا مصنف براہین جیسے بے علم اور جاہل
کا کام ہے۔ یہاں صرف عظمت ذی النورین کا اظہار مقصود تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو
عثمان کا ہاتھ قرار دے کر واضح فرمادیا کہ قتل عثمان کی افواہ غلط ہے۔ حاجی امداد اللہ شام
امدادیہ میں فرماتے ہیں منکرین علم غیب انبیاء و اولیاء اس واقعہ کو دلیل اپنے دعویٰ کی
سمجھتے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ اب اپنے مرشد کو سچا کہو یا جھوٹا؟

مصنف براہین کی بدحواسی:۔ دلیل نمبر ۶۴ میں جو آیت کریمہ درج کی تھی بدحواسی
کے عالم میں وہی آیت صفحہ ۷۷ پر دلیل نمبر ۶۷ کی سرخی جما کر لکھ دی اس کا جواب قبل
ازیں دیا جا چکا ہے کہ یہاں علم غیب ذاتی کی نفی ہے اور تفسیر ابن کثیر کی عبارت کا مفہوم
بھی یہی ہے کہ حقیقی، ذاتی اور بالاستقلال غیب دان صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عطائی
علم کی نفی کا ایک لفظ بھی موجود نہیں۔

صفحہ ۷۸ کا جواب:- اس صفحہ پر مصنف نے آیت کریمہ **وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ** لکھی ہے حالانکہ اس آیت کریمہ میں۔ (اولاً) غیب کی پہلی قسم ذاتی جس پر دلیل قائم نہ ہو سکے مراد ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ تفسیر بیضاوی صفحہ ۸، تفسیر جمل صفحہ ۱۲ جلد ۱، روح البیان پارہ اول، شرح جامع الصغير وغيره۔

(ثانیاً) مفاتح الغیب سے علوم غیر متناہی مراد ہیں جس کا ہم حضور علیہ السلام کے لیے دعویٰ نہیں کرتے۔ ملاحظہ ہو۔ تفسیر کبیر صفحہ ۹ جلد ۱۲، تفسیر خازن صفحہ ۲۱ جلد ۲، تفسیر جمل صفحہ ۳۷ جلد ۲۔ (ثالثاً) اس جگہ بغیر تعلیم خداوندی کی نفی ہے اللہ کے بتانے سے محبوبانِ خدا غیب جانتے ہیں۔ ملاحظہ ہو: عرائس البیان عنایت القاضی، صاوی صفحہ ۱۹ جلد دوم جمل صفحہ ۳۸ جلد ۲، روح البیان وغيره۔

صفحہ ۷۹ کا جواب:- **وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ** اس آیت کا مطلب جو مولوی جی کے گندے ذہن میں آیا ہے سراسر غلط ہے۔ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن شعر نہیں، ہم نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے وہ شعر و شاعری نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے: خازن وغيره۔ بعض محققین نے فرمایا اس جگہ علم بمعنی ملکہ ہے یعنی آپ کو مشق نہیں ورنہ آپ اچھے بوے شعر کی پہچان فرما لیتے تھے۔

آیت کریمہ **وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ** کا ایک لفظ بھی حضور ﷺ کی بے علمی پر دلالت نہیں کرتا کتب تفسیر خازن، کبیر وغيره میں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام منافقین کے نفاق سے باخبر فرمادیا تھا۔ صفحہ ۸۰ تا ۸۳ کا جواب مغیبات خمسہ میں آچکا ہے۔ یعنی نفی علم ذاتی کی ہے اور ہم جو علم ثابت کرتے ہیں وہ عطاۓ الہی ہے۔

صفحہ ۸۴ کا جواب:- مصنف براہین نے اس صفحہ پر روز قیامت کا وہ واقعہ درج کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ جماعت مرتدین کو حضور علیہ السلام اصحابی اصحابی فرما کر اپنے پاس بلائیں گے اور اس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو علم نہیں کہ جو کچھ انہوں نے آپ کے بعد خود تراشیدہ عمل کئے تھے اس واقعہ سے جاہل مصنف نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے لئے بطنائے الہی غیب جاننے کا عقیدہ بنا لیا جائے تو اس سے قول خداوندی کی تردید لازم آتی ہے۔

جواباً گزارش ہے! کہ یہ واقعہ متعدد کتب احادیث صحاح میں موجود ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اما شعرت ما عملوا بعدک۔ کیا یہ آپ کو معلوم نہیں کہ جو عمل انہوں نے آپ کے بعد کئے۔

ما شعرت جملہ منفیہ پر ہمزہ استفہام انکاری داخل ہونے کا انکار اثبات ہوتا ہے۔ لہذا مرتدین کے اعمال کا عمل حدیث شریف سے حضور علیہ السلام کے لیے ثابت ہوا چونکہ واقعہ ایک ہے صرف اس کی روایتوں میں تعدد ہے۔ اس لیے جب ایک روایت میں ہمزہ استفہام مذکور ہو گیا تو ہر روایت میں اس کے معنی ملحوظ رہیں گے اور جس روایت میں وہ مذکور نہیں وہاں محذوف ماننا پڑے گا۔ لہذا مصنف براہین کی پیش کردہ روایت میں ہمزہ مذکور نہیں تو یہاں محذوف مانیں گے ورنہ احادیث میں تعارض ہوگا۔ کیونکہ ہمزہ استفہام کا محذوف ہونا تو صحیح ہے لیکن اس کا زائد ہونا صحیح نہیں۔ لہذا حضور علیہ السلام کے بطنائے الہی غیب جاننے کے عقیدہ سے قول خداوندی کی تردید لازم نہ آئی بلکہ تصدیق ہوگئی اور یہ شبہ بھی عجیب قسم کا ہے کہ واقعہ تو

قیامت کے دن ہوگا لیکن حضور علیہ السلام اس کو پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ علم نہ تھا تو بیان کیسے فرمایا۔ مثبت علم کی دلیل کو نفی میں پیش کرنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

ساقی کوثر حوض پر رونق افروز ہوں گے۔ مرتدین کی جماعت ادھر سے گزرے گی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے اعمال کا پورا پورا علم ہوگا کیونکہ اعمال آپ کے روبرو پیش ہوتے ہیں۔ ۱۔ (ترمذی)

مگر اس دریائے جو دو سخا موجزن اور شانِ رحمت کا ظہور اتم ہے اس لیے ان کی بد
۱: ایک روایت میں ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں سو جو نیک عمل ہوتے ہیں ان پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو برے اعمال ہوتے ہیں تو میں تمہارے استغفار کرتا ہوں۔ الکامل فی.... الرجال صفحہ ۲۹۵ جلد ۳۔

ایک روایت میں صرف جمعرات کا ذکر ہے۔ الوفا باحوال المصطفیٰ صفحہ ۸۱۰۔ حیات طیبہ میں امت کے اعمال پیش کئے گئے اور وصال اقدس کے بعد بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں: مسند احمد صفحہ ۵۲، ۱۸۰، جلد اول، مسند ابو عوانہ صفحہ ۸۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۳۰۶، جلد اول، مسلم شریف صفحہ ۲۰۷، جلد اول طبع کراچی، سنن کبریٰ للبیہقی صفحہ ۲۹۱، جلد دوم، الطبقات الکبریٰ صفحہ ۱۹۴، جلد دوم، الجامع الصغیر صفحہ ۵۸۲، جلد اول، البدایہ والنہایہ صفحہ ۲۷۵، جلد ۵، مجمع الزوائد صفحہ ۲۴، جلد ۹، صفحہ ۷۲، جلد اول، فیض القدر صفحہ ۳۰۱، جلد سوم، کنز العمال صفحہ ۳۰۷، جلد ۱۱، المطالب العالیہ صفحہ ۲۲، ۲۳، جلد ۴، ال معجم الکبیر للطبرانی صفحہ ۵، ۲۷۷، جلد ۱۰، حلیۃ الاولیاء صفحہ ۳۰۲، جلد ۴، ابو داؤد صفحہ ۱۰۰، ۶۶، ۲۱۴، جلد اول، ترمذی شریف صفحہ ۲۱۴، سنن کبریٰ للبیہقی صفحہ ۳۳۰، جلد دوم، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۳۶۱، جلد ۳۔

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

اعمالیوں کی طرف خیال مبارک جاتا ہی نہیں اور اپنے لطف عمیم اور کرم جسیم کے غلبہ حال میں بے اختیار فرمادیتے ہیں اصیحابی اصیحابی لیکن جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ پیارے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پس فوراً توجہ مبارک ان کی بد اعمالیوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں: "سحقاً، سحقاً" انہیں دور لے جاؤ، دور لے جاؤ۔ طالب حق کے لیے اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے یہ بیان کافی ہے۔

صفحہ ۸۵ کا جواب:- اس صفحہ پر مصنف براہین کی پیش کردہ روایت کے الفاظ: لو اعلم کے معنی لو اظہر ہیں علم کی نفی نہیں اظہار کی نفی ہے اور علم کے معنی اظہار قرآن مجید کی متعدد آیات میں بھی آئے ہیں۔

حَتَّى تَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ (سورہ محمد) وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ (سورہ حدید) لِيَعْلَمَ اللَّهُ (سورہ مائدہ) یہاں علم بمعنی اظہار ہے۔

واقعا فک

صفحہ ۸۶ کا جواب:- اس گستاخ مصنف کو ذرہ بھر خوف خدا نہیں جو خیالات فاسدہ اس کے گندے ذہن میں آتے ہیں ان سے اپنے نامہ اعمال کی طرح کاغذ کو بھی سیاہ کرتا چلا جاتا ہے لکھتا ہے: جب اللہ تعالیٰ نے (صدیقہ کی پاک دامنی کا علم) نہ بتلایا تو کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ حالانکہ! جس روز سے صدیقہ حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں اسی روز سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور پاک دامنی کا علم عطا فرمادیا تھا۔ تفاسیر معتبرہ: کبیر، جمل وغیرہ میں ابن عباس سے حکما مرفوع حدیث مروی ہے۔

(ماہفت امرأة نبی قط) کسی نبی کی بیوی نے کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ اس حدیث میں سرکار ﷺ نے ایک ایسے امر کا بیان فرمایا جو لوازمات نبوت سے ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ انبیاء علیہم السلام کی بیویاں منافقہ ہوئیں مگر بدکار وہ بھی نہ تھیں۔ جب آپ نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ خود حضور علیہ السلام نے ازواج انبیاء کی پاک دامنی و عفت کا لازمہ نبوت ہونا بیان فرمایا ہے تو اب اس امر پر غور فرمائیے کہ حضور علیہ السلام حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکی میں کس طرح شک فرما سکتے تھے۔ اگر صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکی حضور ﷺ کے نزدیک یقینی نہ ہو تو پھر اپنی نبوت بھی معاذ اللہ سرکار کے نزدیک یقینی نہ رہے گی جب آپ کو اپنی نبوت پر ایمان ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی کی بیوی پاک ہوتی ہے تو ان دونوں کو ملانے سے نتیجہ واضح ہو جاتا ہے کہ سرکار کو صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکی میں ذرہ برابر بھی شک نہ تھا۔ کیونکہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکی میں شک خود حضور ﷺ کی اپنی رسالت کو شک میں مستلزم ہے اور حضور ﷺ اپنی رسالت میں شک کرنے سے بالکل پاک ہیں۔ لہذا صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکی میں شک کرنے سے بھی حضور ﷺ قطعاً پاک اور مبرا ہیں۔

دوسرا جواب: اللہ کے پیارے حبیب ﷺ تو واللہ ما علمت علی اہلی الاخیرا (بخاری صفحہ ۵۹۵ جلد ۲، مسلم صفحہ ۳۶۵ جلد ۲) خدا کی قسم میں نے اپنے اہل مقدس میں بجز خیر کے اور کچھ نہیں جانا فرمائیں اور سورۃ نور کی آیات کے نزول سے قبل اللہ کے عطا کردہ علم سے اور نور نبوت سے سب کچھ جان کر صدیقہ کی پاکیزگی بیان

ان الوسیط صفحہ ۳۲۲ جلد ۲، مسلم شریف صفحہ ۳۶۸ جلد دوم ابوالجلیل فیضی غفرلہ

فرمائیں مگر اس گستاخ مصنف کو حضور ﷺ کی قسم پر بھی یقین نہیں آیا۔

اس واقعہ کی مزید تحقیق کے لیے تفسیر کبیر کے صفحات ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۱ سورہ نور کا مطالعہ کیجئے۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کیا گیا ہے۔

دیوبندیوں کے پیر کا فیصلہ :- شائم امدادیہ میں گنگوہی، تھانوی اور نانوتوی کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر کی فرماتے ہیں منکرین علم غیب رسول کا اس واقعہ افک سے دلیل پکڑنا سرار غلط ہے انبیاء و اولیاء جس طرف بھی نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے۔ ۱۔

مصنف براہین کی بکو اس :- بکتا ہے: اگر حضور علیہ السلام غیب جاننے والے ہوتے تو اپنی محبوبہ، مرغوبہ، مطلوبہ کو سنگلاخ میدان میں اکیلا نہ چھوڑ جاتے؟

جواب :- جس نبی کی شان شاہد (حاضر، ناظر) شہید، اُولٰٓئِیۡ بِالْمُؤْمِنِیۡنَ مِنْ اَنْفُسِہِم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب و اَعْلَمُوۡا اَنَّ فِیْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰہِ (اور یقین رکھو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں) اور رحمۃ للعالمین (سارے جہانوں کا راحم اور روح کائنات) ہو تو اس کے متعلق یہ کہنا کہ اکیلا چھوڑ دیا ہے بکو اس نہیں تو اور کیا ہے؟

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے باقی مصنف نے علم صحابہ و علم صدیقہ پر جو حمله کیا ہے وہ اس کی ہمارے مسلک سے بے علمی کی دلیل ہے۔

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

۱ :- شائم امدادیہ صفحہ ۶۱ طبع ملتان۔

مصنف براہین کا ہدیان

لکھتا ہے اگر صحابی کے عقیدے میں حضور بطنائی الہی غیب جانتے ہوتے

تو یہ سوال نہ کرتے کہ آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟

جواب :- یہ سوال تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی بین دلیل ہے اور

صحابہ کا عقیدہ ان الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرح پہچانیں گے؟ یعنی

پہچانیں گے ضرور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا؟

کیف تخی الموتی تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ کیا وہ رب کو اس بات پر قادر نہ

مانتے تھے؟ قادر مانتے تھے صرف کیفیت پوچھتے تھے اسی طرح صحابی بھی حضور علیہ

السلام کو غیب دان عطائی مانتے تھے صرف پہچاننے کی کیفیت پوچھتے تھے۔ پھر حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں آثارِ وضو سے پہچان لوں گا۔ امت کو

وضو کی ترغیب دلانے کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہچان کا صرف یہی

ایک ذریعہ ہوگا۔ باقی ذرائع کی نفی ہرگز نہیں۔ جس طرح اعمال نامے کا داہنے ہاتھ

میں ہونا اور آپ کا تمام امتیوں کے اعمال کا ناظر ہونا نبوت کے نور سے سب کے درجہ

ایمان کو ملاحظہ فرمانا وغیرہ ان ذرائع کا بیان کتب معتبرہ اہل سنت میں موجود ہے۔ صفحہ

۸۸، ۸۷ کی دو عبارتوں اور صفحہ ۸۹، ۹۰ کا جواب مغیبات خمسہ کی بحث میں آ گیا ہے

صفحہ ۸۸ کی حدیث انہ یعلم الغیب سے مراد غیب ذاتی حقیقی بالاستقلال مراد ہے

عطائی کی نفی ہرگز نہیں۔ صفحہ ۹۱ کی عبارات میں غیب سے مراد ذاتی ہے یہ ہمارے

مسک کے خلاف نہیں۔

علم روح:۔ صفحہ ۹۱ و صفحہ ۹۸ پر مصنف براہین نے نامکمل حوالے درج کر کے یہ ثابت کیا ہے محبوبانِ خدا کو روح کی حقیقت کا علم نہیں۔

جواباً گزارش ہے! کہ جس ذات اقدس کو معرفتِ ذاتِ خدا حاصل ہے اس سے روح کی حقیقت کس طرح مخفی رہ سکتی ہے مندرجہ ذیل کتب معتبرہ اہل سنت میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام روح کی حقیقت کے عالم و عارف ہیں۔

۱۔ فاذا كانت معرفة الله تعالى ممكنة بل حاصلة فاي مانع يمنع من معرفة الروح۔ (تفسیر کبیر صفحہ ۳۹۲ جلد ۱ طبع مکتبہ علوم اسلامیہ لاہور)

۱۔ ان النبي ﷺ علم معنى الروح ولم يخبر به لان ترك الاخبار به و كان علما النبوة۔ (تفسیر خازن سورة الاسر آیت ۸۵)

۳۔ جل منصب حبيب الله ان يكون جاهلاً بالروح مع اله عالم بالله۔

(تفسیر روح البیان)

۴۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: کوئی مومن عارف کہ حضور علیہ السلام سے روح کے علم کی نفی کیسے کر سکتا ہے وہ جو سید المرسلین اور امام العارفين ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے۔

(مدارج النبوة صفحہ ۴۰، ۴۱ جلد دوم طبع سکھر)

۵۔ احياء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں: یہ گمان بھی نہ کرنا کہ حضور علیہ السلام کو حقیقت روح معلوم نہ تھی! کیونکہ جو اپنی ذات کو نہ پہچانے وہ خدا کو کس طرح پہچان

اے امام فخر الدین محمد بن عمر رازی (المتوفی ۶۰۶ھ) علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: عام فلاسفہ اور متکلمین بھی روح کو جانتے ہیں۔ پس اگر حضور اکرم ﷺ باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر

سکتا ہے۔ یہ بھی بعید نہیں کہ روح کا علم بعض اولیاء و علماء کو بھی ہو۔ صفحہ ۹۲ پر لفظ غیب سے مراد غیب ذاتی ہے صفحہ ۹۳ کی دو عبارات کا جواب مغیبات خمسہ کی بحث میں آچکا ہے تیسری عبارت میں غیب سے ذاتی غیب مراد ہے، صفحہ ۹۴ میں بالذات جاننے کی نفی ہے صفحہ ۹۵ پر خود جاننے کی نفی ہے۔ صفحہ ۹۶ کی عبارات میں اٹکل و قیاس سے جاننے اور کشف و الہام اور وحی کے علاوہ اطلاع دینے کی نفی ہے اور غیب سے مراد ذاتی غیب ہے۔ صفحہ ۹۷ کی عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدریجی علم کا بیان ہے جب آپ کو علم قیامت حاصل ہو گیا تو سابقہ حالت کو بطور حجت پیش کرنا جہالت ہے۔

بقیہ حاشیہ:- یہ فرمائیں کہ میں روح کو نہیں جانتا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا باعث ہے بلکہ روح کے مسئلہ سے لاعلمی تو ایک عام انسان کے لیے بھی باعث تحقیر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ جو تمام علماء سے بڑھ کر عالم اور فضلاء سے بڑھ کر فاضل ہیں انہیں مسئلہ روح کا علم نہ ہو۔ اللہ نے آپ کے متعلق فرمایا: **رَحْمٰنٌ** نے قرآن کا علم دیا (الرحمن ۲۱) اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو بتلا دیا اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ (النساء: ۱۱۳) اور فرمایا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کے علم میں زیادتی فرمائے (طہ ۱۱۴) اور قرآن کی صفت میں فرمایا: **خَشٰکَ** و تر چیز کا ذکر قرآن کریم میں ہے (الانبیاء ۵۹) اور نبی کریم ﷺ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت بتلا۔ تو جس محبوب کریم کی یہ شان ہو ان کے متعلق یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ انہیں روح کا علم نہ ہو۔ جبکہ مسائل مشہورہ میں سے ہے بلکہ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ یہود نے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا اور آپ نے ان کو بہترین طریقہ سے جواب دیا۔ تفسیر کبیر صفحہ ۳۹۲ جلد ۷ مکتبہ علوم اسلامیہ لاہور۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

دروغ گور حافظہ نباشد:-

صفحہ ۹۷ پر مولوی دوست محمد شرح عقائد نسفی صفحہ ۱۲۲ کی وہ عبارت لکھنے پر مجبور ہو گیا جس میں لکھا ہے: الا باعلام منہ۔ یعنی اللہ کے بتانے سے بطور الہام بطریق معجزہ یا کرامت محبوبانِ خدا غیب جانتے ہیں۔

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

صفحہ ۹۸ کا جواب:- ابن کثیر کی عبارت میں غیب ذاتی کا بیان ہے۔ مسائرہ صفحہ ۱۰۸ جلد ۱ کی عبارت مرجوح ہے۔ راجح قول وہی ہے جو علم روح کی بحث میں ہم درج کر آئے ہیں۔

ملا علی قاری کی عبارت مصنف نے غلط اور ادھوری درج کی ہے۔ صفحہ ۱۵۵ پر یہ عبارت بالکل موجود نہیں البتہ صفحہ ۱۸۵ پر جو عبارت ہے اس کے ان الفاظ کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کر گئے: لا سبیل الیہ للعباد الا باعلام منہ والہام بطریق المعجزۃ والکرامۃ۔ (یعنی خدا تعالیٰ کے بتلانے سے) (باعلام الہی) محبوبانِ خدا بطریق معجزہ و کرامت غیب جانتے ہیں اور صفحہ ۹۹ کی عبارت میں الاما علمہم اللہ تعالیٰ میں غیب تعلیم فرمانے کا بیان ہے۔

مصنف براہین کا مغالطہ:- صفحہ ۱۰۰ پر لکھتا ہے ردالمحتار میں بھی یہی مضمون ہے کہ: ”اللہ ورسول کی شہادت پر نکاح کرنے والا کافر ہے“

کوٹ اڈو کے اس جاہل دیوبندی کو اپنی حیا، شرافت، دیانت اور امانت پر ماتم کرنا چاہیے۔ ردالمحتار اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اصل عبارت یہ ہے: انہ

لا یکفر لان الاشياء تعرض على روح النبي صلى الله عليه وسلم وان الرسل يعرفون بعض الغيب۔ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر نکاح کرنے والا کافر نہیں کیونکہ اشیاء روح نبی پر پیش کی جاتی ہیں اور بیشک رسول (علم الہی کے مقابلہ میں) بعض غیب جانتے ہیں۔ ایسا ہی تاتار خانہ، حجہ، ملاقط اور مجموعہ خانی صفحہ ۶ جلد ۲ میں ہے:۔ معدن الحقائق شرح کنز الدقائق میں عرفون کی بجائے يعلمون الغیب ہے اور ایسا ہی خزائن الروایات اور مضمرات میں ہے۔ عالم گیری وغیرہ کا قول سخت ضعیف ہے۔ (نہایہ، فتح القدیر)

در مختار نے کفر کا قول قیل سے بیان کیا ہے جو مرجوح اور سخت ضعیف ہے۔ امام سیوطی نے تنویر الحلک صفحہ ۳۴ میں کفر کی وجہ حدیث متواترہ کا انکار فرمائی۔ علم غیب اور حاضر ناظر کا اعتقاد نہیں۔ ایسا ہی طحطاوی حاشیہ در مختار میں ہے اور جن فقہاء نے وجہ علم غیب لکھی ہے ان کے نزدیک ذاتی علم مثل خدا مراد ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: حاشیہ مالا بدمنہ صفحہ ۵۱، باعلام خداوندی غیب دان ماننے والوں کو کوئی عالم کافر نہیں کہتا۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے تتمہ امداد الفتاویٰ میں لکھا کہ فقہائے احناف نے جو اقوال کفریہ درج کئے ہیں ان سے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اب مولوی جی کے پاس علامہ شامی کی عبارت کا کیا جواب ہے؟

صفحہ ۱۰۰ کا جواب:۔ نسیم الریاض کی عبارت آپ کا مقولہ تو واضح ہے۔ تو واضح کے کلمات حقیقت پر محمول نہیں ہوتے۔

حاشیہ سندھی علی النسائی کی عبارت میں الاما علمنی ربی میں عطائی علم کا ثبوت ہے اور تفسیر مظہری کی عبارت میں الابتوفیقہ تعالیٰ میں علم غیب عطائی کا بیان ہے اس سے میاں جی کی تمام عمارت دھڑام سے گر گئی۔

صفحہ ۱۰۱ کا جواب:- صاحب روح المعانی کی عبارت ہمارے مخالف نہیں مولوی عبدالحی کی عبارت ہمارے لیے حجت نہیں اسی طرح صفحہ ۱۰۳ پر قاری طیب مہتمم دیوبند کی عبارت بھی ہمارے لیے حجت نہیں۔

صفحہ ۱۰۳ کا جواب:- اس صفحہ پر مولوی جی نے ”مذکورہ دلائل پر ایک نظر“ کی سرخی جما کر جو الفاظ لکھے ہیں ہم وہی الفاظ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ قرآنی آیات، نبوی ارشادات اور چودہ سو سال کے محققین علماء اس بات پر متفق ہیں کہ علم غیب ذاتی خاصہ خداوندی ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی اور ولیوں کو بذریعہ کشف والہام غیب بتا دیتا ہے اور کبھی ان کی توجہ دوسری طرف پھیر دیتا ہے اور اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے نبوت کے معنی اطلاع علی الغیب ہیں اور نبی غیب جاننے والے کو کہتے ہیں جس وقت ان کی توجہ کسی واقعہ کی طرف نہیں ہوتی اس وقت بھی انہیں واقعہ کا علم ہوتا ہے۔ تبریز ترجمہ ابریز از قلم عاشق الہی میرٹھی دیوبندی کی چند عبارات درج کی جاتی ہیں جس سے آپ کو ان وقائع کا تسلی بخش جواب مل جائے گا جس سے یہ گستاخ مولوی بے علمی ثابت کرتے ہیں۔

عبارت اول:- تبریز ترجمہ ابریز صفحہ ۹۹ جلد ۱:- رہا یہ امر کہ متعدد واقعات اور ان کے عواقب سے آپ کی ناواقفیت احادیث میں آئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذات

انسانی کے لیے معلومات کے استخراج میں توجہ اور التفات کی ضرورت ہے کہ ایک شے معلوم ضرور ہوتی ہے مگر چونکہ ادھر توجہ نہیں ہے اور التفات مشغول ہے اس سے اہم دوسرے معاملہ میں لہذا اس معلوم کا استخراج نہ ہوگا۔

عبارت دوم:- تبریز ترجمہ ابریز صفحہ ۲۰۲ جلد ۱:- آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض وقت حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں اتنا استغراق ہوتا تھا کہ ذاتِ مطہرہ مع اپنے تمامی متعلقات اور اجزا و عروق کے اس عالم سے بے تعلق ہو جاتی تھی اور نورِ ذاتِ محمدی نور حق سبحانہ میں محو ہو جاتا ہے کہ ماسوائے انقطاع کلی ہوتا تھا۔

عبارت سوم:- تبریز ترجمہ ابریز صفحہ ۱۰۱ جلد ۱:- روح محمدی تمام ارواح کی بادشاہ ہے لہذا وہ تمام عوالم کی موجودات پر بلا تدریج و ترتیب ایک دفعہ مطلع ہو چکی ہے ذات کا تسلط تمام معلومات پر ہے مگر توجہ کا محتاج ہے۔

مصنف براہین کی جہالت:- براہین صفحہ ۱۰۴ پر لکھتا ہے: غلط فہمی کی بنا پر اطلاع علی الغیب کو علم کہہ دیا حالانکہ اگر اطلاع علی الغیب کو علم غیب کہا جاتا تو سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات سے علم غیب کی نفی نہ فرماتے۔ صفحہ ۱۰۶ پر لکھا: معاندین انشاء اللہ غیر اللہ کے لیے علم غیب کا لفظ ثابت نہیں کر سکیں گے صفحہ ۱۰۵ پر لکھا: تعلیم یا انباء الغیب ہمارے مسلک کے خلاف نہیں، صفحہ ۳۷ پر لکھا: علم غیب اسے کہتے ہیں جو بلا واسطہ ہو اور بغیر کسی ذریعے کے آئے اور جو واسطہ اور ذریعہ ساتھ مثلاً اطلاع خداوندی یا اطلاع جبریل یا کشف والہام کے ذریعے سے دل پر وارد ہو (کیا وارد ہو علم غیب یا کچھ اور؟ نیر) وہ تو اطلاع غیب، اظہار غیب اور انباء غیب کہلائے گا مگر علم غیب

نہیں کہلائے گا (ایک سطر بعد لکھا) علم غیب کا اطلاق ذاتی پر کیا جاتا ہے عطائی کو نہ آج تک کتب شریعت میں علم غیب کہا گیا ہے اور نہ اسے علم غیب کہنا جائز ہے۔ (بلفظہ) جواب:۔ آج تک دیوبند کے مولوی اپنا صحیح مسلک بھی متعین نہیں کر سکے سب سے پہلے حضرت گنگوہی نے یہ دعویٰ کیا۔ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع نہیں۔ (مسئلہ غیب صفحہ ۲ بحوالہ رد الشہاب الثاقب) جب یہ دعویٰ دلائل کے میدان میں پورا نہ اتر سکا اور حضرت گنگوہی کی ذریت اپنے امام کے دعویٰ کو دلائل قطعیہ سے ثابت نہ کر سکی تو اس جاہل جیسے دیوبندی ملاؤں نے یہ شور مچا دیا بیشک حضور ﷺ کو غیب پر اطلاع تو ہے مگر علم نہیں، اظہار غیب، انباء غیب، اطلاع غیب تو ہے مگر علم غیب نہیں۔ مگر جب اس پر بھی کوئی شرعی دلیل قائم نہ ہو سکی تو دیوبندی مولوی یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔

- ۱۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب بظائے الہی حاصل ہے۔ (توضیح البیان صفحہ ۴ مصنفہ مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگی دیوبندی بحوالہ مناظرہ بریلی)
- ۲۔ بعض علوم غیبیہ واقع میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں۔ (توضیح البیان صفحہ ۷ مصنفہ در بھنگی دیوبندی)
- ۳۔ علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور جو بالواسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے۔ (کیا ہو سکتا ہے علم غیب یا کچھ اور؟)

(بسط البنان صفحہ ۱۲ مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی)

۴۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ جزئیہ کمالات نبوت میں داخل ہیں اس کا انکار کون کر سکتا ہے۔ (کوٹ اڈو کا جاہل قریشی کرتا ہے)

(تغییر العوان صفحہ ۱۹ مصنفہ اشرف علی تھانوی)

۵۔ لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے اصل میں یہ علم (علم غیب بواسطہ) حق ہے۔ (شائم امداد یہ صفحہ ۶۱ ملفوظ مہاجر کی)

۶۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب سے پوچھا گیا کشف اور علم غیب میں کیا فرق ہے۔ اس کا جواب حضرت تھانوی صاحب نے یہ دیا کہ (علم غیب اضافی) غیب کے دوسرے معنی کے اعتبار سے کشف اور علم غیب میں تباہ نہیں ہے۔

(تمتہ جلد رابع، فتاویٰ امداد یہ صفحہ ۲۳۲)

اب یہ فیصلہ کرنا ذی فہم دیوبندیوں کا کام ہے اس مسئلہ میں یہ گستاخ اور جاہل مصنف حق پر ہے یا اس کے اکابر؟

ثبوت علم غیب عطائی

اب ہم دلائل قویہ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وحی کے ذریعہ بتلایا ہوا علم بھی علم غیب ہوتا ہے۔

دلیل نمبر ۱:- وَعَلَيْكَ مَا لَمْ يَكُنْ تَعْلَمُ اللہ نے آپ کو وہ علم غیب عطا فرمایا جو بھی تو نہ جانتا تھا۔

صفحہ ۱۰۸، ۱۰۹ کے ہفتوات کا جواب:- امام سیوطی جلالین صفحہ ۸۰ میں امام احمد صاوی نے حاشیہ جلالین طبع مصر صفحہ ۲۴۵ جلد ۱ میں، امام بغوی نے معالم التنزیل صفحہ ۲۹۶ جلد ۱ میں، امام محقق ابراہیم بن علی بغدادی نے خازن صفحہ ۲۹۶ جلد ۱ میں علامہ اسماعیل حنفی نے روح البیان صفحہ ۳۸۲ جلد ۲ میں مَا لَمْ يَكُنْ تَعْلَمُ کا معنی علم

غیب بیان فرمایا ہے۔ لہذا اثبات ہو اس آیت میں علم غیب کا ذکر ہے اور جو بات اللہ تعالیٰ پڑھاتا ہے وہ علم غیب عطائی ہے اور جو علم غیب عطائی ہے وہ اللہ کے سکھانے پڑھانے کا محتاج ہے۔

اعتراض:- اس آیت کا شان نزول دیکھئے؟ (براہین صفحہ ۱۰۸)

جواب:- آیات الہیہ کا عموم مورد اسباب پر بند نہیں ہوتا۔ اصول حنفیہ دیکھئے۔

اعتراض:- دعویٰ تو علم محدود کا تھا اور دلیل غیر محدود کی دے دی۔ (براہین صفحہ ۱۰۸)

جواب:- مفسرین نے جو علم ماماکان و مایکون اور علم غیب اس کا معنی مراد لیا ہے تو علم ماماکان و مایکون محدود ہے اور علم الہی کے مقابلے میں بعض ہے۔ دلیل دعویٰ کے مطابق ہے مخالف نہیں۔

اعتراض:- اس آیت کے نزول سے جب سب کچھ معلوم ہو گیا تو باقی قرآنی آیات کیوں آئیں؟ (براہین صفحہ ۱۰۹)

جواب:- آپ کو عقل کا ماتم کرنا چاہیے سورہ فاتحہ دو دفعہ نازل کیوں ہوئی؟ تحصیل حاصل بے سود ہے۔ (العیاذ باللہ) جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا۔

۱: قرآن مجید میں نماز کی فرضیت سے متعلق اقیمو الصلوٰۃ کئی مرتبہ نازل ہوئی فرضیت کا علم تو ایک آیت کے نازل ہونے سے ہو گیا تھا متعدد بار نزول کئی۔ وجوہ کی بنا پر ہوا۔ ماننا پڑے گا قرآن مجید کا نزول صرف احکام شرعیہ کی تعلیم کیلئے نہیں ہوا۔ بلکہ اس کی اور بھی بہت حکمتیں ہیں جنہیں اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔

ابو جلیل فیضی غفرلہ

۲۔ ماکان ومایکون کا معنی ماحدث ومایحدث ہے، قرآن کریم بالکلیہ من حیث ہو ہو موضوع بحث سے خارج ہے۔ کیونکہ حوادث کائنات جو محل نزاع ہیں ہم ان سے بحث کر رہے ہیں اور قرآن بلفظہ قدیم ہوا۔ عند المتقدمین اور معراج کی رات بھی علم کائنات و حوادث ہی تھا جس کی تصدیق وحی مکتوب سے ہو گئی۔

(مکتوبات امام ربانی دفتر ثالث)

اعتراض:- قیل کے ساتھ خازن کی عبارت ناقابل قبول۔ (صفحہ ۲۰۹)

جواب:- ہماری دلیل کا انحصار صرف خازن پر نہیں۔ صاوی، جلالین اور روح البیان میں قیل سے بیان نہیں کیا گیا۔

اعتراض:- قائل کی خبر تک نہیں کہ کس کا قول ہے؟ (براہین صفحہ ۱۰۹)

جواب:- یہ اعتراض ناقل مفسر پر پڑے گا جب مفسر قابل اعتماد ہے تو اس کی نقل بھی یقیناً معتبر اور صحیح ہوگی۔

اعتراض:- وَيُعَلِّمُكُمُ الْكَلِمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سے تمام صحابہ اور جمیع مومنین کو غیب دان ماننا پڑے گا۔ (براہین ۱۰۹)

جواب:- (الف) نقض اجمالی وارد کرنے کے لیے مادہ نقض میں بعینہ اسی دلیل کا وجود ہونا لازمی شرط ہے۔ کما تقرر فی علم المناظرہ ہماری دلیل تین اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ۱۔ فاعل معلم صاحب فیض عام ہے۔ ۲۔ مخاطب معلم صاحب استعداد تام ہے۔ ۳۔ اور کَلِمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کا معنی علم غیب مفسرین نے کیا ہے کیا یہ اجزاء آپ کی دلیل میں ہیں؟ ہرگز نہیں۔

(ب) اگر جمع کا لفظ جمع کے مقابل ہو جائے تو تقسیم افراد کی افراد پر ہوتی ہے۔
یہ مسئلہ علم اصول اور صدر شرح وقایہ میں مبرہن ہے۔ اس قاعدہ کی رو سے **يُعَلِّمُكُمْ**
میں خطاب جمع کو ہے اور آگے مقابل میں **فَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** جمع کا صیغہ ہے لہذا ایک
علم ایک مخاطب کا ثابت ہو گا نہ کہ تمام مخاطبین کے لیے علم ماکان وما یکون
ہو جائے گا۔ غور کیجئے۔

دوسری قرآنی دلیل:- (سورہ جن پارہ ۲۹)

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ

ذاتی غیب دان اپنے خاص غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا کسی کو مسلط نہیں فرماتا۔

تفسیر مدارک، حاشیہ خازن ۳۱۹ جلد ۴:-

خدا اپنے علم کے مقابلے میں بعض علم غیب کے لیے رسولوں کو چن لیتا ہے۔

اس جگہ علم اور غیب کا لفظ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔

اعتراض:- آیت میں اظہار غیب کا ذکر ہے علم غیب کا نہیں؟ (براہین صفحہ ۱۱۲)

جواب:- قریشی صاحب اپنی فہرست علمائے ملت صفحہ ۱۵ پر دیکھو امام ابوالبرکات

۱: ضمیر کم جمع اور **فَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** بھی جمع ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع

سے ہو تو تقسیم احاد کی طرف احاد کی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت کے تمام افراد کو

حضور علیہ السلام نے وہ سب کچھ بتلادیا جو وہ سب نہیں جانتے تھے تو جمیع امت غیب دان

کیسے ہوئی؟ حضور علیہ السلام تنہا ان باتوں کو جانتے ہیں اور امت مل کر جانتی ہے امت

کا علم آگے نہیں بڑھا محبوب کریم علیہ السلام کا علم ہر آن ترقی پذیر ہے **قُلْ لَيْتَ زِدْنِي عِلْمًا**

مشاہد و عدل ہے۔

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

ساتویں صدی کے محقق نے اظہار غیب کا معنی علم غیب لکھا ہے۔

اعتراض:- اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ جمیع غیب کی اطلاع دے دیتے ہیں؟
جواب:- آیت کریمہ میں اگر لفظ غیبیہ میں لفظ غیب جو اسم جنس اور مضاف ہے اور اس کی اضافت ضمیر کی طرف عہد خارجی کی ہو تو غیب سے مراد غیب وقوع قیامت ہوگا جیسا کہ شرح مقاصد ۱۵، ۱۵۱، جلد ۲ میں ہے۔

اس کی بعض پسندیدہ رسولوں کو اطلاع ہے اور اگر اضافت عہد خارجی نہ ہو تو پھر لازماً استغراق مراد ہوگا اور قاضی بیضاوی کے کلام سے بھی یہی نظر آتا ہے کیونکہ فرماتے ہیں غیبہ المخصوص بہ علمہ تو بنا بریں معنی یہ ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام مغیبات کا علم کسی کو نہیں دیتا مگر اس کو جس کو رسولوں میں سے پسند فرمائے۔ اس کو تمام مغیبات کا علم دے دیتا ہے۔

اعتراض:- جب رسول غیب جانتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے پہرے دار کیوں مقرر ہیں؟
جواب:- اس لیے کہ آپ جیسے منکرین کمالات نبوت پر لعنت بھیجتے رہیں۔

تیسری قرآنی دلیل

(پارہ ۳۰ سورہ تکویر) میں ارشاد خداوندی ہے: **وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ**
 اور وہ رسول علم غیب پر بخیل نہیں۔

بعض قاریوں نے ضنین کو ظنین پڑھا ہے۔ یعنی رسول کا علم ظنی نہیں یقینی ہے۔

۱:- مولوی بشیر احمد عثمانی لکھتے ہیں یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب۔ باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر

مصنف براہین کی پیش کردہ فہرست علمائے ملت پر صفحہ ۱۲، ۱۵ کے مانے ہوئے مفسر امام
محی السنۃ بغوی نے معالم التنزیل میں اور علاء الدین بغدادی نے تفسیر خازن
صفحہ ۳۵۷ جلد ۴ میں فرمایا ہے کہ: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم
غیب آتا ہے آپ اس کے بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔

اعتراض:- عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے جس کو بغیر بتلانے کے معلوم ہو جائے؟

(براہین ۱۱۶)

جواب:- اسی بتلائے ہوئے علم کو آپ کے مانے ہوئے مفسرین نے علم غیب کہا ہے
اب اپنی عقل کا ماتم کرو۔

اعتراض: مفسرین کو اختلاف ہے کہ ہُو سے مراد قرآن ہے یا رسول (براہین صفحہ ۱۱۶)
اگر اس سے مراد قرآن ہو تو آپ کو اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ جب حضور علیہ السلام
قرآن کے کما حقہ عالم ہیں اور قرآن غیب پر بخیل نہیں اور کس کے لئے بخیل نہیں؟
اللہ کے حبیب ﷺ کے لیے لہذا اس طرح بھی حضور ﷺ غیب دان ثابت ہوئے۔

ترجیح اور وجہ ترجیح

۱۔ تفسیر کبیر صفحہ ۷۴ جلد ۳:- میں ہو سے مراد صرف محمد ﷺ ہیں۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ:- کی خبر دیتا ہے۔ ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے یا اللہ کے اسماء
وصفات سے یا احکام شرعیہ سے یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے
احوال سے یا واقعات بعد الموت سے اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتا۔
تفسیر عثمانی صفحہ ۷۷۰ حاشیہ طبع لاہور۔
ابوالجلیل فیضی غفرلہ

- ۲۔ تفسیر کبیر صفحہ ۳۵۳ جلد ۱۰: میں ہو سے مراد صرف رسول ﷺ ہیں۔
- ۳۔ امام سیوطی نے جلالین: میں لکھا ہو سے مراد صرف حضرت حضور ﷺ ہیں۔
- ۴۔ صاوی علی الجلالین صفحہ ۲۹۵ جلد ۲: ہو سے مراد صرف حضور ﷺ کی ذات ہے
- ۵۔ جمل علی الجلالین صفحہ ۲۹۷ جلد ۲: ہو سے مراد صرف حضور ﷺ کی ذات ہے۔
- ۶۔ سیدنا ابن عباس نے تفسیر ابن عباس صفحہ ۲۷۲ طبع مصر: میں ہو سے مراد صرف حضور ﷺ کی ذات لی اور غیب کا معنی وحی کیا یعنی وحی کے ذریعے بتایا ہوا علم بھی علم غیب ہے۔

- ۷۔ قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی صفحہ ۵۲۳ جلد ۲: میں ہو سے مراد صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات لی۔
- ۸۔ تفسیر حسینی صفحہ ۳۱۱ جلد ۲: میں بھی ہو سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔

- ۱۰، ۹۔ خازن صفحہ ۳۵۷ جلد ۲، اور مدارک: میں بھی صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مراد لی گئی ہے۔

- ۱۱۔ تفسیر عزیزی پارہ ۳۰ مطبوعہ دیوبند ہمارے پیش نظر ہے اس میں کسی جماعت کا قول قرآن نہیں بیان کیا گیا۔ البتہ صفحہ ۱۰۹ پر یہ الفاظ ہیں: نہیں ہے تمہارا پیغمبر غیب کی بات پر متہم کہ دن دیکھے کہہ دے۔

- اعتراض:۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو غیب بتلانے میں بخل نہ فرمایا تو ساری امت غیب دان ہوئی۔ (براہین صفحہ ۷۱)

- جواب:۔ اگر معترض نے معلم اور متعلم کے فرق کو ملحوظ رکھا ہوا ہوتا تو ایسا جاہلانہ اور

عامیاناہ اعتراض نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے حصول کا ذریعہ
حواس خمسہ سے ماوراء وحی الہی ہے اور امت کو جو پڑھ کر سنایا گیا وہ امت نے کانوں
سے سن لیا غیب نہ رہا۔

چوتھی قرآنی دلیل

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

اس آیت کریمہ میں اطلاع علی الغیب کا معنی مفسرین کرام نے علم غیب بیان فرمایا
ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: معالم التنزیل صفحہ ۳۷۲ جلد ۱، تفسیر کبیر صفحہ ۴۴۲ جز ۹ جلد ۳
اس آیت میں الغیب اسم جنس معرف باللام ہے اور لام استغراق کا ہے کیونکہ معہود
کوئی نہیں۔ کما تقرر فی علم الاصول والمعانی والنحو۔ دیکھئے رضی شرح
کافی وسائر شروح کافیہ وعبید الغفور صفحہ ۲۹۸۔ حیث قال اسم الجنس
المعروف سواء كان باللام او الاضافة اذا استعمل ولم قرينة تخصيصه
ببعض ما يقع عليه فهو الظاهر فی الاستغراق دفعا للتراجع بلا مرجح۔
معلوم ہوا الغیب سے مراد تمام غیوب ہوں گے اور لفظ لکن استدراک کے لیے ہوتا
ہے اور دو متنافی اور متضاد کلاموں کے درمیان ہوتا ہے مندرجہ بالا نحوی اور علمی اصول کو
مد نظر رکھتے ہوئے آیت کا معنی یہ ہوگا تمام معنیات یعنی ماکان ومایکون کا علم نبیوں
میں سے اس پیغمبر کو عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ معنی صرف تحقیق علمی کا اقتضا ہی
نہیں بلکہ کتب تفاسیر و احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: خازن
صفحہ ۳۸۲ جلد ۱، نیشاپوری صفحہ ۱۲۸ جلد ۱، تفسیر حسینی وغیرہ اور بخاری

مسلم، مشکوٰۃ وغیرہ کتب احادیث۔

پانچویں قرآنی دلیل:- آیت الکرسی میں **إِلَهِمَا شَاءَ** کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے عطائی علم کو علم غیب لکھا۔ ملاحظہ ہو تفسیر کبیر صفحہ ۱۲ جز ۷، خازن صفحہ ۲۲۷ جلد ۱، تفسیر معالم التنزیل صفحہ ۲۲۷ جلد ۱۔

چھٹی قرآنی دلیل:- مفسرین کرام نے علم حضرت خضر علیہ السلام **وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا** علمًا کی تفسیر علم غیب فرمائی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تفسیر بیضاوی صفحہ ۱۹ جلد ۲ طبع بیروت، جمل صفحہ ۳۵ جلد سوم، تفسیر ابن جریر صفحہ ۱۸۱ جلد ۱۵، روح البیان صفحہ ۲۷۰ جلد ۵، اور علم غیب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بیان فرمایا جو حکما مرفوع ہے۔ ۱۔

۱۔ حضرت امام علی بن احمد نیشاپوری (المتوفی ۴۵۰ھ) لکھتے ہیں اعطیناہ علما من علم الغیب۔ ہم نے اس کو علم غیب سے علم عطا فرمایا۔ تغیر الوسیط صفحہ ۱۵۸ جلد ۳ طبع بیروت ۱۴۱۵ھ۔ علامہ ابن عطیہ اندلسی المتوفی ۵۴۶ھ لکھتے ہیں: حضرت خضر علیہ السلام کو باطن کا علم دیا گیا تھا۔ المحرر الوجیز صفحہ ۲۲۵ جلد ۱۰۔ علامہ قرطبی مالکی (المتوفی ۱۱۷۸ھ) فرماتے ہیں: ہم نے ان کو علم الغیب کی تعلیم دی تھی۔ الجامع الاحکام القرآن صفحہ ۳۹۱ جلد ۱۰ طبع بیروت۔ علامہ ابوالسعود محمد بن محمد عمادی حنفی (المتوفی ۹۸۲ھ) لکھتے ہیں: یعنی وہ علم سکھایا جس کی کہنہ کو جانا نہیں جاسکتا نہ ان کی مقدار کا۔ اندازہ ہو سکتا ہے اور وہ علم الغیوب ہے۔ تفسیر ابو السعود صفحہ ۲۰۳ جلد ۴ طبع بیروت ۱۴۱۶ھ۔ علامہ سید محمد آلوسی حنفی بغدادی (المتوفی ۱۳۷۰ھ) لکھتے ہیں: وہ علم الغیوب الاسرار العلوم الخفیہ ہیں۔ روح المعانی صفحہ ۴۷۵ جلد ۱۵ طبع بیروت ابو الجلیل فیضی غفرلہ

ساتویں قرآنی دلیل :- علامہ سلیمان بن عمر الشہیر بالجمل نے حاشیہ جلالین طبع مصر صفحہ ۳۵۳ جلد ۲ میں ارشاد یوسفی **إِلَّا نَبَأُكُمْ بِمَا تَأْوِيلُهُ** کی تفسیر یخبرہما بعلم الغیب فرمائی یعنی میں انہیں علم غیب کے ساتھ خبر کر دوں گا۔

آٹھویں قرآنی دلیل :- تفسیر ابن جریر صفحہ ۲۲۱ جلد ۱۱ اور درمنثور صفحہ ۲۱۰ جلد ۴ میں ہے کہ آیت کریمہ **قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ** یعنی ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اس شخص کے متعلق اتری جس نے کہا تھا محمد ﷺ غیب نہیں جانتے۔ یعنی مطلقاً حضور ﷺ کے علم غیب کا منکر کافر ہے۔

نویں قرآنی دلیل :- تفسیر ابن جریر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: **لَمْ تَحْطْ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ لِمَا أَعْلَمُ** (تفسیر ابن جریر صفحہ ۳۲۳ جلد ۱۵) جو علم غیب میں سے میں جانتا ہوں آپ کا علم اسے محیط نہیں۔

دسویں قرآنی دلیل :- تفسیر روح البیان صفحہ ۲۰۵ جلد ۴ میں **وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** کے تحت ہے: علم غیب بالذات خاصہ خداوندی ہے اور انبیاء و اولیاء کا علم غیب وحی الہی اور تعلیم ایزدی کے واسطے سے ہے۔

گیارہویں قرآنی دلیل :- تفسیر روح البیان صفحہ ۱۱۹ جلد ۴، مقولہ حضرت نوح علیہ السلام **وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ** کے تحت ہے اور میں غیب نہیں جانتا خود بخود مگر اس کے بتانے سے غیب جانتا ہوں۔ معلوم ہوا بتایا ہوا علم بھی علم غیب ہوتا ہے۔

☆..... تفسیر جمل صفحہ ۲۱۷ جلد ۲ و خازن میں ہے: **وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ** آپ

نے عطا سے قبل فرمایا جب علم غیب عطا فرمادیا تو آپ نے خبر دی۔

☆..... آیت کریمہ **وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ** کے تحت تفسیر ابوالسعود اور روح البیان میں ہے: جو شخص یہ کہے کہ حضور ﷺ عطا فی علم غیب نہیں رکھتے تو اس نے خطا کی۔ تفسیر نیشاپوری میں ہے: یہاں صرف دعویٰ کی نفی ہے ورنہ خود فرماتے ہیں: مجھے علم غیب ماکان وما یکون ملا۔

☆..... آیت کریمہ **يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّعَاةِ** کے تحت آیت تفسیر صاوی صفحہ ۲۳۵ جلد ۲ میں ہے کہ حضور ﷺ کو علم جمیع مغیبات دنیا و آخرت کا عطا فرمایا۔

☆..... تفسیر قادری و حسینی میں ہے آپ کو علم غیب ماکان وما یکون عطا فرمایا گیا۔

☆..... تفسیر صاوی صفحہ ۱۱۱ جلد ۲ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے جمیع مغیبات کے عالم ہونے پر ایمان رکھنا واجب ہے۔

☆..... تفسیر قادری صفحہ ۲۰۹ جلد ۲ میں ہے: اہل اسلام نے **إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یہ دلیل ہے کہ علم غیب کی معرفت تعلیم ایزدی کے بغیر ممکن نہیں۔

محدثین کرام کا عقیدہ:- مندرجہ ذیل کتب جو جلیل القدر محدثین کی تالیف ہیں ان میں انبیاء علیہم السلام واولیاء رحمہم اللہ علیہم کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا گیا ہے۔

☆..... شرح جامع الصغیر، فتاویٰ امام نووی شارح مسلم، تنویر الحلیک از امام سیوطی، مرقاہ شرح مشکوٰۃ از علامہ علی قاری، کتاب الاعلام

از امام ابن حجر، اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ مصنفہ شاہ عبدالحق دہلوی، فتاویٰ حدیثیہ صفحہ ۲۶۷، از امام ابن حجر مکی، کتاب الشفا از امام قاضی عیاض، معراج النبوة از محدث دہلوی، مواہب اللدنیہ از امام قسطلانی شارح بخاری، زرقانی صفحہ ۲۰۰ جلد ۷، عمدۃ القاری شرح بخاری، ارشاد الساوی شرح بخاری مظاہر حق شرح مشکوٰۃ صفحہ ۱۲۲، ۱۲۶ جلد ۱، شرح حمزہ از امام ابن حجر۔

ثبوت علم غیب از کتب عقائد:- مندرجہ ذیل کتب عقائد میں صراحتہً و اشارتہً عطائی علم کو علم غیب کہا گیا ہے۔

☆..... امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فقہ اکبر کی شرح ملا علی قاری صفحہ ۱۸۵ الیواقیت والجواهر فی بیان عقائد الاکابر صفحہ ۹۷ جلد ۲، کتاب العقائد از امام ابو عبد اللہ شیرازی، شرح عقائد نسفی صفحہ ۷۵، اسل الحسام از علامہ شامی، شرح فقہ اکبر صفحہ ۹۶، شواہد الحق صفحہ ۱۳۲، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، شرح میزان الحق۔

اس سے کوٹ اڈو کے اس جاہل کا دعویٰ رد ہو گیا کہ عقائد کی کتابوں میں کہیں بھی مجازی طور پر علم غیب کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ صفحہ ۱۰۶۔

ثبوت علم غیب از کتب فقہ:- براہین صفحہ ۱۰۵ پر یہ گستاخ مصنف لکھتا ہے: فقہاء کرام میں سے کسی نے علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا۔ اب ہم اس کی جہالت کو طشت از بام کرنے کے لیے ان کتب فقہ کے نام درج کرتے ہیں جن میں مجوبان خدا کے عطائی علم کو علم غیب کہا گیا ہے۔

☆..... معدن الحقائق شرح كنز الدقائق، ردالمحتار صفحہ ۳۸۰ جلد ۲ و صفحہ ۱۰۰ جلد ۳، خزائن الروایات، مضمورات، تاتارخانیہ، حجہ، ملتقط مجموعہ خانی، طحطاوی علی الدر المختار، جامع الفصولین، جمع التہایہ كشف الغمہ للشعرانی۔

ثبوت علم غیب از کتب تصوف و اخلاق:۔ مندرجہ ذیل کتب تصوف و اخلاق اور سیرت و مناقب میں عطائی علم کو علم غیب کہا گیا ہے۔

☆..... ابریز بمعدہ تبریز، شام امدادیہ از حاجی امداد اللہ، مثنوی مولانا روم۔

اگرچہ ہر غیبی خدا مارا نمود

شرح قصیدہ بردہ صفحہ ۷۶، عوارف المعارف صفحہ ۱۳۵ تا ۱۶۷ جلد ۱، لطائف المنن صفحہ ۷۸ جلد ۲، جواہر البحار، تاویلات نجمیہ۔

مسلك علمائے حرمین:۔ الدولة المکیہ کی تقریظات میں مندرجہ ذیل علمائے عرب نے حضور علیہ السلام کے لیے عطائی علم غیب کا صراحتہ لفظ اطلاق کیا ہے۔

☆..... مفتی الشافعیہ و شیخ العلماء مکہ مکرمہ محمد سعید بن محمد بصیل، مفتی مالکیہ مکی مفتی مولانا محمد عابد، حرم مکہ کے عالم سید محمد ابن السید واسع الحسینی، مدینہ طیبہ میں مفتی مالکیہ احمد الجزائری بن سید احمد المدنی، مدینہ منورہ کے مفتی عثمان بن عبدالسلام علامہ حمدان الوینسی، علامہ محمد عبدالباری، علامہ برہان الدین مدنی، علامہ عبدالقادر محمد، علامہ موسیٰ علی مدنی، مدرس مسجد نبوی مولانا محمد یعقوب ابن رجب، مدرس حرم نبوی علامہ یسین احمد الخیاری


محمد یحییٰ مکتبی حسینی۔

سرکار گولڑوی کا فتویٰ:- اخیر پر تبرکاً سرکار گولڑوی کے فتاویٰ مہر یہ صفحہ ۱۴ جلد ۱ سے ایک فتویٰ ہدیہ ناظرین کر کے اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں (آنحضرت ﷺ) کو علم غیب بحسب نصوص قرآنیہ اور علم ماکان و مایکون کا از روئے احادیث نبویہ من جانب اللہ (اللہ کی طرف سے) عطا ہوا ہے۔ علم غیب کلی (لاقتناہی) اور بالذات علی السبیل الاستمرار خاصہ خداوندی ہے عز اسمہ اور علم غیب علی قدر الاعلام والاعطاء آنحضرت ﷺ کو عطا ہوا ہے اور آپ کو عالم الغیب عطائی وہی کہا جاسکتا ہے۔ بلفظہ۔ اب سنجیدہ اور منصف مزاج مسلمان خود فیصلہ کریں کہ اس گستاخ کا عقیدہ صحیح ہے یا سرکار گولڑوی کا؟

غیب کی دو قسمیں:- غیب جو حواس خمسہ سے پوشیدہ ہو اور غیب کی دو قسمیں ذاتی و عطائی لا دلیل علیہ اور علیہ دلیل مندرجہ ذیل کتب میں ہیں۔

☆..... جمل صفحہ ۱۲ جلد ۱، صاوی صفحہ ۷ جلد ۱، کبیر صفحہ ۲۸ جلد ۲۔ اور اس تقسیم

کو جمہور کا مذہب بتایا۔ بیضاوی صفحہ ۱۶ جلد ۱، روح البیان صفحہ ۳۳ جلد ۱۔



چوتھا باب

مسئلہ حاضر و ناظر

اس جاہل مصنف نے صفحہ ۱۲۷ تا ۱۸۰ حاضر و ناظر کی بحث کی ہے۔ لیکن کسی قطعی دلیل سے یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت یا کتب احادیث میں سے فلاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حاضر و ناظر اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حاضر و ناظر کے اصلی معنی الحاضر المقیم فی المدین والقری ساکن الحضر خلاف البادی۔ الجنب والناظر فی المقلۃ السواد والاصغر الذی فیہ انسان العین۔ سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا واجب ہے اور جہاں نظر کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوا ہے وہاں صرف احسان فرمانا مراد ہے۔ ملاحظہ ہو:

☆..... مفردات زاغب اصفہانی صفحہ ۵۱۷، روح المعانی صفحہ ۱۸۰ پارہ ۳

مجمع بحار الانوار صفحہ ۳۶۹ جلد ۳۔

حاضر و ناظر کا اطلاق بغیر تاویل کے حقیقی معنی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ پر ہرگز جائز نہیں یہی وجہ ہے کہ اسمائے حسنیٰ میں حاضر و ناظر کا نام نہیں اور قرآن و حدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے وارد نہیں ہوا۔ نہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام یا تابعین یا آئمہ مجتہدین نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا ہو۔ صاحب درمختار کے یہ الفاظ یا حاضر یا ناظر لیس بکفر اس بات کی روشن دلیل

ازردالمختار علی المدر المختار صفحہ ۴۰۸ جلد ۶ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان۔

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

ہیں کہ اس زمانہ کے بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا کفر قرار دیا تھا آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو رحمن و رحیم کہنا کفر نہیں ہے کیوں؟ محض اس لیے کہ کبھی کسی نے اللہ تعالیٰ کو رحمن و رحیم کہنا کفر قرار ہی نہیں دیا معلوم ہوا کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا اسی لیے کفر قرار دیا تھا کہ اس کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ لیکن جمہور علماء نے ان کو لغوی معنی سے پھیر کر تاویل کر لی اور تاویل کے بعد حاضر و ناظر کے اطلاق کو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز رکھا۔

ایہام شرک کی بنیاد:- صفحہ ۱۲ تا ۱۳ کا جواب:-

اس جاہل مصنف نے ایہام شرک کی بنیاد آیات کریمہ کو بنایا ہے جن میں اللہ کا شہود علیکم، قریب، کل شئی علیم، شہید، اقرب، علیم، سمیع، بصیر عالم اور من یری ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔

جواب:- جن امور کو یہ جاہل مصنف ایہام شرک کی بنیاد قرار دے رہا ہے یعنی وہی امور قرآن مجید کی روشنی میں حضور سید عالم ﷺ کے لیے ثابت ہیں۔

☆..... آیت کریمہ **إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** (پارہ ۱۵) میں حضور علیہ السلام کو سمیع و بصیر کہا گیا ہے:-

☆..... اور اللہ تعالیٰ کے قول **فَنَسَلْنَا بِهِ عَصَاكَ** (پارہ ۱۹) میں حضور ﷺ کا خیر ہونا ثابت ہے۔

☆..... **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** نیز **فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ** (پارہ ۱۳) میں حضور ﷺ کو علیم فرمایا گیا ہے۔

☆..... وَسَيُرَىٰ إِلَهُكَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ فِي يَوْمٍ يُكْفَىٰ فِيهِ كُفْرًا كَأَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ ۗ
☆..... النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ فِي الْأُولَىٰ كُفْرًا كَأَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ ۗ

☆..... النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ فِي الْأُولَىٰ كُفْرًا كَأَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ ۗ

ثابت ہیں۔

☆..... شاید اور شہید متعدد آیات میں حضور ﷺ کو فرمایا گیا ہے۔ اب بتائیے کہ

قرآن کریم کی روشنی میں حضور ﷺ کی ذات پر سمیع، بصیر، علیم، خبیر، عالم

من یوی، اولیٰ بمعنی اقرب، شہید، شاید کا اطلاق ثابت ہوا کہ نہیں؟ اس کے بعد اس

جاہل مصنف کے ایہام شرک کی بنیادیں کہاں رہیں۔ اطلاقات کے مذکورہ قول میں

مندرجہ ذیل علمائے ملت و اکابرین امت ہمارے ساتھ ہیں۔

☆..... علامہ اسماعیل حنفی صاحب روح البیان، علامہ سید محمود آلوسی حنفی صاحب

روح المعانی، علامہ ابوالبقاء، علامہ حلبي، علامہ طیبی، امام تقی الدین سبکی، امام زرقانی،

امام احمد صاوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی محمد قاسم نانوتوی

بانی دارالعلوم دیوبند۔

حاضر و ناظر کا مفہوم :- حضور علیہ السلام کے لیے جو لفظ حاضر و ناظر بولا جاتا ہے

اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ نبی کریم ﷺ کی بشریت مطہرہ ہر جگہ ہر ایک کے سامنے

موجود ہے اس سے مصنف براہین کے اکثر مغالطے اور فریب جو اس نے صفحہ ۱۲۹ سے

صفحہ ۱۵۲ تک سادہ لوح مسلمانوں کے دیئے ہیں ان کا پردہ چاک ہو گیا۔

حضور علیہ السلام کے لیے جو لفظ حاضر و ناظر ہم بولتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ

جس طرح روح اپنے بدن کے ہر جزو میں موجود ہوتی ہے اسی طرح روح دو عالم

ﷺ کی حقیقت منورہ و ذرات عالم کے ہر ذرہ میں جاری و ساری ہے جس کی بنا پر حضور علیہ السلام اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اہل اللہ اکثر و بیشتر بحالت بیداری اپنی جسمانی آنکھوں سے حضور ﷺ کے جمال مبارک کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام بھی انہیں اپنی نظر رحمت اور نگاہ عنایت سے مسرور و محظوظ فرماتے ہیں۔ گویا حضور علیہ السلام کا اپنے غلاموں کے سامنے ہونا سرکار ﷺ کے حاضر ہونے کا مفہوم ہے اور اپنی نظر مبارک سے دیکھنا حضور ﷺ کے ناظر ہونے کا مفہوم ہے۔

سید عالم ﷺ کی قوت قدسیہ اور نور نبوت سے یہ امر بعید نہیں کہ آن واحد میں مشرق و مغرب شمال و جنوب، تحت و فوق تمام جہات و امکانہ بعیدہ متعددہ لاتعداد و لاتحصی میں سرکار ﷺ اپنے وجود مقدس بعینہ یا جسم اقدس مثالی کے ساتھ تشریف فرما کر اپنے مقربین کو جمال کی زیارت اور نگاہ کرم کی رحمت و برکت سے سرفراز فرمائیں۔

مظہر اوصاف حق :- جن صفات کا ذکر اس گستاخ مصنف نے کیا ہے حضور علیہ السلام ان صفات باری تعالیٰ کے کامل مظہر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے:

☆..... صراط مستقیم مصنفہ اسماعیل دہلوی وہابی، اخبار الاخبار از شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مدارج النبوة، انفاس رحیمیہ صفحہ ۲۱، مکتوبات شاہ عبدالرحیم والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ، الیواقیت و الجواهر فی بیان عقائد الاکابر للشعرانی صفحہ ۱۲۵ جلد ۱، تفسیر کبیر از امام رازی، روح المعانی صفحہ ۱۰۱ پارہ ۲، صفحہ ۱۳۶ پارہ ۱۵، فیض

الباری شرح بخاری صفحہ ۴۲۹ جلد ۴، از انور شاہ کشمیری، تفسیر عزیزی، مظہریت صفات باری تعالیٰ اور حاضر و ناظر کو شرک کہنے والے ذرا آنکھیں کھول کر ان جلیل القدر آئمہ دین کی کتب کو دیکھیں اور سوچیں کہ ان کے مصنوعی شرک کی زد میں کیسی کیسی مقدس ہستیاں آتی ہیں۔

تنویر الحلک :- امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام مصنف براہین کی فہرست علمائے ملت میں بھی ہے مسئلہ حاضر و ناظر کے ثبوت میں ان کی تصنیف مستحکم بہ ”تنویر الحلک فی امکان رؤیۃ النبی والملك بمطبوعہ مصر اس وقت ہمارے پیش نظر ہے میں اس گستاخ مصنف سے پوچھتا ہوں کہ جب تم حاضر و ناظر ماننے والوں کو شرک سمجھتے ہو تو ایک مشرک کا نام علمائے حق کی فہرست میں درج کرنا اور اس کی دیگر تصانیف سے حوالے نقل کرنا منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟

تنویر الحلک صفحہ ۴۴۵ میں امام سیوطی فرماتے ہیں: قطب، اوتاد، اولیاء اس وقت تک طریقت میں کامل نہیں ہو سکتے جب تک حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کی حقیقت کو نہ سمجھیں اور آپ کو حاضر و ناظر نہ مانیں نمازوں میں درحقیقت امام حضور علیہ السلام ہی ہوتے ہیں (ایسا ہی فیوض الحرمین مطبوعہ دیوبند مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں ہے) صفحہ ۴۵۴ پر امام سیوطی فرماتے ہیں: صحابیت کے لیے عالم ملکوت کی رویت نہیں بلکہ عالم دنیا کی رویت شرط ہے۔ یہ براہین صفحہ ۱۶۴ کا جواب ہے۔

وجہ کفر :- براہین کے صفحہ ۱۵۴ تا ۱۵۷: اس جاہل نے جو عبارات درج کی ہیں ان میں وجہ کفر ہرگز ہرگز عطائی علم غیب اور باذن پروردگار حاضر و ناظر ماننا نہیں۔ بلکہ وجہ کفر

ذاتی غیب دان ماننا ہے ہم ردالمحتار، معدن الحقائق، تاتارخانیہ، مضمرات اور مجموعہ خانی وغیرہ کتب معتبرہ کے معتبر حوالوں سے بحث علم غیب میں ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ و رسول ﷺ کی شہادت پر نکاح کرنے والا کافر نہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام غیب جانتے ہیں۔

امام حلبی کی تصنیف:- صاحب سیرۃ شیخ الاسلام امام علامہ علی نور الدین حلبی نے حاضر و ناظر کے ثبوت میں ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ہے: تعریف اہل الاسلام والایمان بان محمد ﷺ لا یخلو امنہ مکان ولا زمان۔

اس کتاب کو امام یوسف بیہانی نے جواہر البحار جلد دوم میں درج فرمایا ہے اس وقت وہ کتاب ہمارے پیش نظر ہے جن آیات سے انہوں نے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت کیا ہے وہ یہ ہیں:

☆..... وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ حُضُورًا ﷺ کے پاس گنہگاروں کو حاضر ہونے کا حکم ہے خدا تکلیف مالا یطاق کسی کو نہیں دیتا۔ ان کو اپنے پاس جان کر شفاعت کی درخواست کرو۔

☆..... إِنْ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أَوْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا شَاهِدَ كَمَعْنَى حَاضِرًا وَنَاظِرًا هُنَّ (صفحہ ۱۲۲)

☆..... وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا حَاضِرًا نَهْبَانِ (صفحہ ۱۲۲)

دیگر کافی دلائل درج کئے ہیں مصنف براہین کا ان دلائل کو رد کرنا ایسے جلیل القدر آدمہ کی تکذیب ہے جو اس کی ازلی بد بختی کا ثبوت ہے۔

حضرت قتذہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کا عقیدہ:- یہ گستاخ مصنف اپنے

آپ کو نقشبندی کہلوا کر اپنی نسبت پیران موسیٰ زئی شریف حضرت قندھاروی رحمة اللہ علیہ سے کرتا ہے حضرت خواجہ دوست محمد قندھاروی کے پیر شاہ احمد سعید مجددی دہلوی ثم مدنی نے وہابیوں کے رسالہ مسائل اربعین کارڈ مسمی بہ تحقیق الحق المبین تحریر فرمایا ہے جس کا ایک نسخہ بحالت بوسیدہ فقیر کو حضرت سیدی مرشدی پیر محمد عبداللہ الباروی رحمة اللہ علیہ کے ذریعے ملا جس کا اردو ترجمہ کرنے کا حکم حضور غریب نواز بارو کریم رحمة اللہ علیہ نے فرمایا جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے اور حضرت خواجہ محمد عثمان کے دست اقدس کا لکھا ہوا قلمی نسخہ صاحبزادہ محمد جان نقشبندی نے مجھے دکھایا تھا جس پر خواجہ محمد عثمان کی مہر بھی ثبت تھی اور ایک نسخہ مطبوعہ دہلی حضرت صاحب سواگ رحمة اللہ علیہ کے کتب خانہ میں بھی موجود ہے اس کے صفحہ ۳۰ پر یارسول اللہ ﷺ پکارنے کا ثبوت دیتے ہوئے حاضر و ناظر کی بحث بایں الفاظ فرماتے ہیں:

ترجمہ: حضور ﷺ ہمیشہ مومنوں کا نصب العین اور عابدوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں تمام احوال و واقعات میں خصوصاً حالت نماز میں اور اس کے آخر میں کہ نورانیت اور انکشاف کا وجود اس مقام میں بہت زیادہ اور نہایت قوی ہوتا ہے اور آگے شیخ محقق کی اشعۃ اللمعات کی اس عبارت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

شیخ محقق کا عقیدہ:۔ ”التحیات میں ایہا النبی“ کہنے کا راز یہ ہے کہ حقیقت محمد ﷺ یہ تمام موجودات کے ذرات اور افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے یہی الفاظ تیسیر القاری شرح بخاری صفحہ ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۸۱ جلد ۱، مسک الختام شرح بلوغ المرام صفحہ ۲۲۲، از نواب صدیق حسن غیر مقلد، سعایہ صفحہ ۲۲۷، ۲۲۸ جلد ۲، از علامہ

عبدالرحمن لکھنوی میں موجود ہے۔

حبیب ﷺ دربارِ الہی میں ہر وقت حاضر ہے۔ دربارِ خداوندی جو ہر جگہ ہے اس میں حبیب خدا ﷺ ہر وقت حاضر اور جلوہ گر ہے اس لیے نمازیوں کو حکم ہے کہ جب وہ دربارِ خداوندی میں بحالت نماز حاضر ہوں تو اس میں حضور ﷺ کو حاضر اور موجود جان کر السلام علیک ایہا النبی کہیں یہ مسئلہ مندرجہ ذیل کتب معتبرہ اہل سنت میں ہے:

☆.....فتح الباری شرح بخاری صفحہ ۲۵۰ جلد ۲، عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ ۱۱۱ جلد ۶، زرقانی علی المواہب صفحہ ۲۳۰ جلد ۲، زرقانی علی مؤطا امام مالک صفحہ ۱۷۰ جلد ۱، سعایہ صفحہ ۲۲۷ جلد ۲، فتح الملہم شرح صحیح مسلم صفحہ ۲۳۳ جلد ۲، از شبیر احمد عثمانی دیوبندی، اوجز المسالک شرح مؤطا امام مالک صفحہ ۲۶۵ جلد ۱، از مولوی محمد زکریا سہارنپوری دیوبندی۔ کیا یہ سب حضرات مشرک اور کافر تھے؟ اس سے اس کو باطن مصنف کی صفحہ ۷۷ کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا۔

رحمتِ دو عالم ﷺ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام اصل کائنات اور تمام عالم پر فیضِ خداوندی کا واسطہ نہ ہوں اس وقت تک آپ کے رحمت سنالین ہونے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے بنا بریں جب حضور علیہ السلام عالم کی اصل قرار پائے تو تمام عالم کے جمیع افراد حضور ﷺ کی قرع ہوئے پس جس طرح درخت کی ہر شاخ پر پتے بلکہ اس کے ہر جزو

میں اصل ہی کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح تمام جہانوں یعنی ماسوا اللہ میں حضور علیہ السلام ہی کی نورانیت اور روحانیت مقدسہ جلوہ گاہ ہوگی اور عالم کا ذرہ ذرہ روحانیت و نورانیت سرکار علیہ السلام کی جلوہ گری قرار پائے گا۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں جلیل القدر مفسرین نے اس مضمون کا خلاصہ تحریر فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

☆..... روح المعانی صفحہ ۹۶ پارہ ۱، عرائس البیان صفحہ ۵۲ جلد ۲، روح البیان صفحہ ۵۲۸ جلد ۵۔ اس سے مصنف براہین کی صفحہ ۱۶۶، ۱۶۷ کی کوششوں پر پانی پھر گیا شاہد و شہید:- مصنف براہین صفحہ ۱۶۷ پر لکھتا ہے بلاشبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات شاہد ہے لیکن اس آیت میں شاہد کا معنی حاضر و ناظر کسی نے نہیں کیا۔

جواب:- جواہر البحار صفحہ ۱۲۲ جلد ۲ میں امام یوسف بیہانی امام حلبی کے حوالے سے لکھتے ہیں:- فقال تعالیٰ یا ایہا النبی انا ارسلک شہادا والشاہد لا بد ان یکون حاضر للمشہود علیہ و ناظر للمشہود الیہ فعلم انه ملا کل عالم و حاضر فی کل مکان۔

یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ﷺ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور شاہد کے لیے مشہود علیہ (جو کہ ساری کائنات ہے) کے لیے حاضر اور مشہود الیہ کا ناظر ہونا لازمی ہے پس آپ جملہ مکانوں میں موجود اور ہر مکان میں حاضر ہیں۔

اگر کسی مفسر نے اس معنی کا انکار کیا ہے تو مصنف پیش کرے ورنہ خدا کا خوف کر کے حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان لے۔

شاہد کے معنی حاضر و ناظر:- مفردات امام راغب اصفہانی صفحہ ۲۶۹ پر ہے:

الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة اما بالبصر او بالبصيرة۔ نبی علیہ السلام بصر یا بصیرت کے ساتھ مشاہدہ فرماتے ہوئے حاضر و ناظر ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ یہ کس چیز پر حاضر ہیں؟

تفسیر ابو السعود صفحہ ۹۰ جلد ۶ میں ہے: اے نبی ﷺ بیشک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر (شاہد) بنا کر ان سب پر جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ ان کے احوال کی نگہبانی فرماتے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یعنی ان سب کے کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آپ ان سے تحمل شہادت سے فرماتے ہیں یعنی ان کے گواہ بنتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر جو ان سے صادر ہوئیں تصدیق سے اور تکذیب سے اور باقی ان تمام چیزوں سے جن پر وہ ہیں ہدایت اور گمراہی سے اور آپ اس شہادت کو ادا فرمائیں گے قیامت کے دن جو ادا کی ہوئی ہوگی ان تمام باتوں میں بھی جو ان کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ مدارک صفحہ ۲۳۵ جلد ۳، بیضاوی صفحہ ۱۹۷ جلد ۲، جلالین صفحہ ۳۵۳، مجتہبائی جمل صفحہ ۲۲۲ جلد ۳ روح المعانی صفحہ ۲۲ پارہ ۲۲، تفسیر کبیر صفحہ ۱۷۳ جلد ۲۵ سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام ان سب پر حاضر و ناظر ہیں جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ مسلم شریف صفحہ ۱۹۹ جلد ۱ کتاب المساجد اور مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن باب فضائل سید المرسلین ﷺ صفحہ ۲۰۷ جلد ۲ میں ہے: سرکار ﷺ نے فرمایا میں ساری کائنات اور ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تفسیری عبارات مذکورہ اور حدیث شریف کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلا کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات اور ساری مخلوق کے حاضر و ناظر ہیں۔

اجماع امت :- حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی حاشیہ اخبار الاخیار صفحہ ۱۵۵ پر اپنے مکتوبات شریف میں ارقام فرماتے ہیں: باوجود اس قدر اختلافات اور بکثرت مذاہب کے جو علماء امت میں ہیں ایک شخص کو بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام بغیر شائبہ مجاز اور بلا تو ہم تاویل حقیقت حیات کے ساتھ دائم و باقی ہیں اور اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں اور طالبان حقیقت اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو فیض پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا مولوی دوست محمد اور اس کی ٹولی امت رسول ﷺ سے خارج ہے اور یہ جدید فرقہ ہے۔

قبر میں جلوہ گری :- کتب احادیث میں ”ما تقول فی هذا الرجل“ کے الفاظ صاف موجود ہیں۔ ہذا اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوا حقیقت محمد یہ ﷺ کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں اس لیے آپ وہاں شکل مبارک دکھاتے ہیں اس سے یہ مراد قطعاً نہیں کہ صورت مبارک دکھانے سے قبل وہاں نورانیت حبیب ﷺ کے جلوے نہیں ہوتے۔ مصنف براہین نے جو اعتراض صفحہ ۱۷۵، ۱۷۶ پر کئے ہیں ان کا تعلق آپ کی بشریت مبارک سے ہے۔ یہاں زیر بحث حقیقت محمد یہ ﷺ کے جلووں کا ہر جگہ ہونا قبر میں سرکار ﷺ کا آنا مولوی اشرف علی تھانوی نے روح العج و الشج اور الافاضات الیومیہ میں بیان کیا اور قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب آفتاب نبوت میں لکھا۔

منبر پر وعظ کہنا :- صحیح بخاری میں ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے روبرو منبر پر نعت پڑھتے تھے اگر یہ گستاخ مولوی اس وقت موجود ہوتا تو حضرت حسان

رضی اللہ عنہ پر صفحہ ۶۵ اولاد درج شدہ فتویٰ لگاتا۔ اسی طرح حضور ﷺ کے روبرو صحابہ کرام نے بلند آواز سے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔

(صحیح مسلم صفحہ ۴۱۹ جلد ۲)

طلع البدر علینا پڑھا، اذانیں دیں، یہ رفع الصوت عند النبی تو تھا مگر فوق صوت النبی نہیں تھا۔ (تحفہ اثنا عشریہ) اسی طرح ہم اہل سنت حضور ﷺ کو حاضر و ناظر جان کر نعتیں قوالیاں، وعظ، نعرے، تقاریر وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں یہ فوق النبی نہیں خدا اس بڑھو جماعت کو سمجھ دے۔

قیام کے وقت :- ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا کہ حضور ﷺ حقیقت کے اعتبار سے اب حاضر و ناظر ہو گئے ہیں پہلے نہیں تھے۔ حاجی امداد اللہ نے قدم رنجہ فرمانے کے جو الفاظ لکھے ہیں۔ ۱۔ اس میں آپ اس خداداد قوت کا بیان ہے جس سے آپ اپنے عاشقوں کو جہاں چاہیں صورت مبارکہ دکھا دیں۔ باقی جاہل مصنف نے نہایت لچر پوچ اور عامیانہ باتیں کی ہیں جن کی طرف ادنیٰ سمجھ کا انسان بھی توجہ دینا گوارا نہیں کرے گا۔

۱۔ شام امداد یہ صفحہ ۵۰ طبع مدنی کتب خانہ ملتان۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

پانچواں باب

اختیاراتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اس عنوان کی نفی کے لیے مولوی دوست محمد نے جو دلائل نقل کئے ہیں ان کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ کائنات کا حقیقی مالک اور علی کل شئی قدیر اللہ تعالیٰ ہی ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کہ اختیارات، ہدایات، نفع و ضرر کا موجد صرف اللہ ہے بے ارادۃ الہی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

ہمارا عقیدہ:۔ اس بارے میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بطنائے الہی و باذن پروردگار خدائی کے مختار، نافع، مشکل کشا، دافع البلاء، حاجت روا، ہادی اور خدا کے خزانوں کے قاسم ہیں خدا ان کی رضا کا طالب اور وہ خدا کی مرضی کے پابند۔

☆ ہم اِنَّاكَ لَا تَهْدِيْ فِيْ خُذَا كُوْهُدَايْتِ كَا خَالِقِ اُوْر مَقْدَرِ فَرْمَانِ وَاَلَا مَانِ كَرِ اِنَّاكَ لَا تَهْدِيْ اِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ فِيْ اِسْ كِ حَبِيْبِ ﷺ كُوْ بَاذِنِ خُذَا هِدَايْتِ كَا قَا سَمِ مَانْتِ هِيْ۔

☆ اَعْنَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ اِن كُو اللّٰهُ وَرَسُوْلُ نِيْ غَمْنِيْ كَر دِيَا۔

☆ وَاُوْا اِنَّهُمْ رَضُوْا مَا اَنَّهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اُوْر كِيَا خُوْب تَهَا اَكْرُوْهُ رَا ضِيْ هُوْتِ خُذَا اُوْر اِسْ كِ رَسُوْلِ كِيْ عَطَا پُر اُوْر كِهْتِ كِهْ هَمِيْسِ اللّٰهُ كَا فِئِيْ هِيْ اَب دِيْ كَا هَمِيْسِ اللّٰهُ اِپْنِيْ فَضْلِ سِيْ اُوْر اِسْ كَا رَسُوْلِ عَطَا فَرْمَانِيْ كَا۔

☆ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اللّٰهُ نِيْ اِسِيْ نِعْمَتِ بَخْشِيْ اُوْر اِيْ مَحْبُوْبِ اِپْ نِيْ نِعْمَتِ بَخْشِيْ۔

☆..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت پھر پھونکتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے اذن سے اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے اللہ کے اذن سے اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں پوشیدہ رکھتے ہو اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ اس سے محبوبانِ خدا کا باذنِ خدا مشکل کشا، دافع البلاء اور حلال و حرام کا مختار ہونا ثابت ہوا۔

☆..... فَالْمُدَّتِ بِرَبِّهَا قَسْمًا قَسْمًا هِيَ ان ذوات مقدسہ کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے۔ یہ بد بخت مولوی تو حضور علیہ السلام کے خدا داد تصرف کا منکر ہے مگر خدا تعالیٰ نے فرشتوں و دیگر محبوبانِ خدا کو کاروبار کی تدبیر کرنے والا فرمایا۔

☆..... حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم سے فرمایا: لَاهَبْ لَكَ غُلْبًا زَكِيًّا میں تجھے پاک بیٹا عطا کروں۔

☆..... فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے حاکم نہ مانیں۔

☆..... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ تمہیں رسول جو عنایت فرمائیں لے لو۔

☆..... وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ اور اے محبوب مانگنے والے کو مت جھڑکنے۔

☆..... وَوَجَدَكَ عَابِدًا فَأَغْنَىٰ اس کا معنی صاحبِ شفا و دیگر علماء کرام نے یوں لکھا ہے ہم نے آپ کے ذریعہ و وسیلہ سے مفلسوں کو غنی بنا دیا۔

☆..... إِنَّا أَنْعَمْنَا بِكَ الْكُوفِرُ ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔

امام احمد صاوی کا مولوی دوست محمد پر فتویٰ

مصنف براہین نے حضور ﷺ کے اختیارات کی نفی میں صفحہ ۱۹۴ پر لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ دَرَجٌ كِي هے۔ امام احمد صاوی حاشیہ جلالین طبع مصر صفحہ ۱۵۸ جلد اول میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس میں امر خلق و ایجاد کی نفی ہے ورنہ ان کا اپنا قول ہے: ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں محبوب کے ہاتھ میں دے دی ہیں پس جس شخص نے یہ گمان کیا کہ حضور ﷺ باقی لوگوں کی طرح عام بشر ہیں کسی شے کے مالک و مختار نہیں اور آپ سے ظاہری و باطنی کوئی نفع نہیں تو ایسے عقیدہ والا شخص (مولوی دوست محمد) کافر ہے۔

دنیا و آخرت کا زیان کار اور اس آیت سے اس (کافر) کا دلیل پکڑنا کھلی گمراہی ہے۔
 ☆..... صحیح ۱ مسلم اور مشکوٰۃ میں ایک حدیث ہے جس میں حضور ﷺ اپنے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں سَلْ (مانگ جو مرضی آئے) اس کے تحت شیخ محقق اشعة اللمعات صفحہ ۳۹۶ جلد ۱ میں فرماتے ہیں: حضور ﷺ کا سَلْ (مانگ جو مرضی آئے) فرمانا اور کسی چیز کی تخصیص نہ کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کام حضور ﷺ کے دستِ کرامت میں ہیں۔ جو چاہیں اپنے رب کے اذن سے عطا فرماتے ہیں دنیا و آخرت آپ کی سخاوت سے ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا قطرہ ہے۔ اگر دنیا و آخرت چاہتے ہو تو حضور ﷺ کی بارگاہ میں آکر طلب کرو۔

☆..... اشعة اللمعات صفحہ ۴۳۲ جلد ۲ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

۱ مسلم شریف صفحہ ۱۹۳ جلد ۱، مشکوٰۃ شریف صفحہ ۸۴۔

بالقوة حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصرف اور قدرت اور سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے زیادہ ہے ملک و ملکوت جن و انس اور تمام جہان اللہ کے مقدر فرما دینے سے آپ کی قدرت اور آپ کے تصرف میں ہیں۔

☆..... اشعة اللمعات صفحہ ۶۲۳ جلد ۱ میں ہے: حضور علیہ السلام مملکت خدا کے امور کے متولی اور اس کی درگاہ عزت کے گماشتہ ہیں کون و مکان کے تمام امور و احکام حضور علیہ السلام کو سونپے گئے ہیں۔

☆..... اشعة اللمعات صفحہ ۶۷ جلد ۳، حدیث پاک کے الفاظ لکم منی کے تحت ہے۔ ہمہ از خدا است و خدا ہمہ جا پیغمبر خود را تصرف دادہ است۔ سب کچھ خدا سے ہے اور خدا نے ہر جگہ اپنے محبوب کو تصرف عطا فرمایا ہے۔

مذہب مختار:۔ اشعة اللمعات صفحہ ۱۲۳ جلد ۲ میں ہے: مذہب مختار میں جمیع احکام حضور علیہ السلام کو سونپے گئے ہیں جو چاہیں کریں اور جو چاہیں نہ کریں اور جس کو چاہیں کسی حکم سے خاص کر دیں۔

☆..... اشعة اللمعات صفحہ ۳۱۵ جلد ۲: حضور علیہ السلام خدا کے خلیفہ و مطلق اور نائب کل ہیں اللہ کے اذن سے جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں:

فان من جودک الدنا و ضررتھا

ومن علومک علم اللوح والقلم

☆..... امام شعرانی نے کتاب المیزان صفحہ ۲۸، ۵۵، ۷۵، ۱۲۳ جلد ۱ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اختیار دے دیا تھا کہ جس بات کو چاہیں حلال کر دیں یا واجب کر دیں یا حرام کر دیں۔

عقیدہ اہل سنت: مدارج النبوة صفحہ ۱۹، ۲۰ جلد ۱ میں ہے: منبع البرکات سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو کچھ خزانہ قدرت میں ہے اور کمالات جو مرتبہ امکان میں متصور ہیں سب آپ کو حاصل ہیں۔

☆..... مظاہر حق صفحہ ۳۱۹ جلد ابالقوة تصرف اور قدرت اور سلطنت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے تھی۔

☆..... جواہر البحار صفحہ ۱۸ جلد ۱: امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ کی تمام نعمتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں۔

امام رازی کا عقیدہ:۔ تفسیر کبیر صفحہ ۶۷ جلد ۱۳ میں ہے: انبیاء کرام تمام مخلوق کے باطن اور جانوں اور ظاہر پر بادشاہی کرتے ہیں۔

۲۲۔ تفسیر کبیر صفحہ ۲۳۷ جلد ۱۸ طبع لاہور، لان النبی یكون حاکما علی الخلق۔ اس لیے کہ نبی ﷺ پر حاکم ہوتا ہے۔ سینکڑوں دلائل اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں ہم دیوبندیوں کے شیخ الہند محمود الحسن کی عبارت پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔

دیوبندی عالم کا عقیدہ:۔ اولہ کاملہ صفحہ ۱۲ میں ہے: آپ اصل میں بعد خدا مالک عالم ہیں۔ جمادات ہوں یا حیوانات، بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم۔ القصة آپ اصل میں مالک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عدل و مہر آپ کے ذمہ واجب الادا نہ تھا۔ اب منصف مزاج مسلمان خود فیصلہ کر لیں گے کہ کافر و مشرک کون ہے؟ قرآنی آیات و احادیث کا صحیح مطلب اس گستاخ مولوی نے سمجھا ہے یا اس کے شیخ الہند نے؟ کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟

چھٹا باب

استمداد و ندا

اہل سنت و جماعت کے نزدیک محبوبانِ خدا کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر امداد ظاہری ان سے طلب کرنا جائز ہے۔ یہ استعانت اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

حاشیہ ترجمہ محمود الحسن و تفسیر عزیز زبیری زیر آیت اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو آیات مولوی دوست محمد نے نقل کی ہیں ان میں من دون اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کے مقابل دوسروں کو الہ و معبود سمجھ کر پکارنے کی نفی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بوقت مشکل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا۔ (قصیدہ امام اعظم) اور آپ کا وسیلہ بارگاہ ایزدی میں پیش کیا۔ (مدارج النبوت، مستدرک)

دیگر انبیاء علیہم السلام نے اگر خدا کو پکارا تو اس سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنے کی نفی لازم نہیں آتی۔

امام اعظم رضی اللہ عنہ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام نے بوقت مشکل پکارا تو ان کی مشکل کشائی ہو گئی۔

خارجیت کی علامت :- صحیح بخاری ۱ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خارجیوں کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ جو کفار اور ان کے معبودان باطلہ بتوں کے

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

۱: بخاری شریف صفحہ ۱۰۲۲ جلد ۲، طبع ملتان۔

حق میں نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ مصنف براہین نے ندایا رسول اللہ کی ممانعت میں جس قدر آیات درج کی ہیں وہ سب کفار اور ان کے معبودان باطلہ کے حق میں اتری ہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا یہ گستاخ مصنف خارجی ہے۔

براہین صفحہ ۲۴۳ پر آیت کریمہ **وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ** کے متعلق مولوی دوست محمد قریشی دیوبندی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیت بتوں کے حق میں نہیں آئی۔ حالانکہ کتب تفاسیر کا مطالعہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آیت بھی کفار معبودان باطلہ کے حق میں اتری۔

ملاحظہ فرمائیے: مدارک صفحہ ۱۰۶ جلد ۴، جامع البیان صفحہ ۷ جزو ۲۶، جلالین صفحہ ۳۱۲ بیضاوی صفحہ ۳۸۵ جلد ۲، خازن صفحہ ۱۳۰ جلد ۵، کبیر صفحہ ۲۹۶ جلد ۷۔

براہین کے صفحہ ۲۳۵، پھر اس خارجی مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ** میں **مِنْ دُونِ اللَّهِ** سے بت مراد نہیں ہیں۔ حالانکہ یہاں بھی بت مراد ہیں چونکہ کفار بعض بتوں کے مجسمے انسانی صورت پر بناتے ہیں اس لیے انہیں **عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ** کہا گیا ملاحظہ فرمائیے: تفسیر موضع القرآن، بیضاوی، مدارک

مدارک، نسفی، معالم التنزیل صفحہ ۲۶۸، تفسیر ابن جریر صفحہ ۹۵ جلد ۹ خازن صفحہ ۲۶۸ جلد ۲ اور براہین صفحہ ۲۳۵، ۲۳۶ پر درج شدہ آیت **وَأُتِيَ الْهَيْئُ مِنْ دُونِ اللَّهِ**

وَأُتِيَ الْهَيْئُ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام کو **مِنْ دُونِ اللَّهِ** ثابت کرنا مقصود نہیں بلکہ رب العزت کا ان کے اتحاد **مِنْ دُونِ اللَّهِ** کو ظاہر کر کے تثلیث پر اعتقاد رکھنے والوں کو ذلیل کرنا مقصود ہے۔ حضرت عیسیٰ اور مریم

علیہما السلام مِنْ دُونِ اللّٰهِ نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ نبی، ولی مِنْ دُونِ اللّٰهِ نہیں ہو سکتے تو ثابت ہوا: حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ علیہما السلام تو مِنْ دُونِ اللّٰهِ نہیں بلکہ کفار کا ان کو الہ (معبود) سمجھنا مِنْ دُونِ اللّٰهِ ہے یعنی فعل کفار مِنْ دُونِ اللّٰهِ ہے نہ کہ ان کی ذواتِ مقدسہ مرزائیوں نے مِنْ دُونِ اللّٰهِ مرزائے قادیانی کو نبی بنا لیا اور وہابیوں، خارجیوں نے انبیاء و اولیاء کو مِنْ دُونِ اللّٰهِ سمجھا۔ یہ مرزائیوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اَحْبَابُهُمْ وَرُفَبَانَهُمْ اَزْ بَابِ اَقْنِ دُونِ اللّٰهِ میں حرام خور رہے اور پوپوں کا ذکر ہے۔ اولیاء اور علمائے حقانی کا ذکر نہیں۔

حضرت قندھاروی کے پیر کا عقیدہ:-

حضرت خواجہ شاہ احمد سعید مجددی دہلوی مدنی نے تحقیق الحق المبین

رد مسائل اربعین صفحہ ۲۵ تا ۳۲ استمداد اور طلب امداد از اہل قبور غائبانہ نداء یا رسول اللہ پکارنے کے جواز کے دلائل نقل فرما کر اہل سنت پر بالعموم اور نقشبندیوں پر بالخصوص احسان عظیم فرمایا ہے۔ اگر یہ مصنف اصل نقشبندی ہے تو حضرت خواجہ احمد سعید (معاذ اللہ) مشرک ٹھہرتے ہیں۔ اس صورت میں اس خارجی تک فیض کیسے پہنچا؟ اور یہ کس منہ سے پیر بن کر اور بیعت کر کے لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور اگر حضرت قندھاروی کے پیر اصل نقشبندی ہیں اور واقعی اصل نقشبندی ہیں تو اس صورت میں یہ مصنف اصل کذاب ہے۔

خواجہ عثمان کا ارشاد:- مجموعہ فوائد عثمانی میں (جس پر نظر ثانی مولوی حسین علی استاذ غلام خان نے کی ہے) منکرین استمداد از ارواح اولیاء کو خواجہ عثمان نے لامدہبان فرمایا

معلوم ہوا ہے یہ مولوی اپنے پیر کے دادا پیر کے فتویٰ کی رو سے لامذہب ہے۔

شواہد الحق :- فی الاستغاثۃ بسید الخلق ۳۶۰ صفحات کی مبسوط کتاب امام یوسف نبہانی نے ابن تیمیہ کے رد میں خاص اسی مسئلہ استمداد واستعانت اور نداء یارسول اللہ کے ثبوت میں تحریر فرمائی۔ یہ کتاب فقیر نے ۱۶ مئی ۱۹۶۵ء بروز اتوار بعد از نماز عصر مکہ مکرمہ سے صفا شریف کے ساتھ والی دکان سے خریدی تھی (۱۹۸۲ء میں یہ دکانیں یہاں سے منتقل ہو گئی تھیں) اس میں امام موصوف نے کافی دلائل نقل فرمائے ہیں اگر وہ نقل کئے جائیں تو براہین سے آٹھ گنا بڑی کتاب بن جائے جلیل القدر آئمہ کے فتوؤں، ارشادات اور ان کی تصانیف عالیہ کے حوالوں سے منکرین کو خارجی گمراہ بدعتی اور خاسر وغیرہ ثابت کیا گیا ہے یہ کتاب مطبع مصطفیٰ البابی الحلبی واولادہ بمصر کی مطبوعہ ہے اور عربی زبان میں ہے۔

صدر دیوبند کا فیصلہ :- الشہاب الثاقب صفحہ ۶۳، ۶۵ میں مولوی حسین احمد صدر دیوبند نے فیصلہ کیا ہے کہ وہابیہ خبیثہ نجدیہ نداء یارسول اللہ سے روکتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ یارسول اللہ میں استعانت لغير الله ہے اور وہ شرک ہے اور صفحہ ۴۷ پر منکرین نداء یارسول اللہ کے اقوال کو کفری قرار دیا اور صفحہ ۴۲ پر لکھا کہ اس فرقہ (وہابیہ، نجدیہ، منکرین نداء یارسول اللہ) کو اہل حریمین یہود و نصاریٰ، مجوس و ہنود سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں اور ان کی یہ عداوت (منکرین یارسول اللہ) وہابیہ کے ساتھ حق اور صحیح ہے اور صفحہ ۵۹ پر لکھا کہ منکرین نداء یارسول اللہ کے نزدیک پیری مریدی فضول، لغو، بدعت اور ضلالت ہے۔ اب مولوی

۱۔ شواہد الحق کا ترجمہ عمدۃ الاذکیاء علامہ محمد اشرف علی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ فاتح جھنگ نے کیا ہے فرید بک سٹال لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔ ایوالجلیل فیضی غفرلہ

دوست محمد یا تو نداء یا رسول اللہ کا قائل ہو جائے یا پیری مریدی چھوڑ دے۔

دیوبندیوں کے پیر کا مذہب:۔ اس بارے میں ان کا مسلک واضح ہے اپنے پیر کو پکارتے ہیں: اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا لے

بانی دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ:۔ قصائد قاسمی صفحہ ۸ طبع ملتان میں بانی دارالعلوم دیوبند

مولوی محمد قاسم نانوتوی میں حضور علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتا ہے:

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

اگر کسی صاحب کو مزید تحقیق کی ضرورت ہو تو اکابرین ملت کی مندرجہ ذیل تصانیف کا مطالعہ کرے۔

☆..... شفاء السقام از امام سبکی علیہ الرحمہ، کتاب الاذکار از امام نووی علیہ الرحمہ

احیاء العلوم از امام غزالی علیہ الرحمہ، روض الریاحین، خلاصة المفخر و

نشر المحاسن تصانیف جلیلہ از امام اجل عبداللہ بن اسعد یافعی علیہ الرحمہ، حصن

حصین، مدخل ابن الحاج، مواہب اللدنیہ از امام قسطلانی، مسح محمدیہ از امام

قسطلانی، افضل القری، جوہر منظم، عقود الجمال از امام ابن حجر مکی، کتاب

المیزان از امام شمرانی، حوز ثمین از علامہ علی قاری، لمعات، اشعة اللمعات و جذب

القلوب و مجمع البرکات و مدارج النبوة از شاہ عبدالحق محدث دہلوی فتاویٰ خیریہ از امام ربلی

مراقی الفلاح از علامہ حسن شرنبلالی، مطالع المسرات از امام قاسمی، زرقانی علی

المواہب از امام محمد زرقانی، نسیم الریاض شرح شفاء از امام شہاب الدین خفاجی۔

لے امداد المشتاق صفحہ ۱۱۶ طبع لاہور۔

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

ساتواں باب

سجدہ و طواف

اہل سنت و جماعت سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس کی حرمت کے ثبوت میں ایک مستقل کتاب الزبدۃ الزکیہ تصنیف فرمائی جس کا مصنف براہین نے بھی اعتراف کیا ہے۔ نقشبندیوں کے پیر پیران حضرت شاہ احمد سعید مجددی نے تحقیق الحق المبین صفحہ ۳۲ پر طواف قبر مطالب المومنین اور نجات الانس از علامہ جامی نقشبندی کے حوالے سے جائز لکھا ہے اور بوسہ قبور مطالب المومنین اور طوابع الانوار کے حوالے سے جائز لکھا ہے۔ اب مصنف براہین کو چاہیے کہ اپنے سلسلہ کے اکابرین کو کافر و مشرک کہے۔ نیز مولوی اشرف علی تھانوی کی آخری تصنیف بوادر النوار کے بعض حوالوں سے سجدہ تعظیمی جائز معلوم ہوتا ہے۔ مسند امام احمد، عمدۃ القاری شرح بخاری، فتح الباری شرح بخاری، شواہد الحق اور دیوبندیوں کے ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی کی کتاب مقام حیات میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کے مزار اقدس پر منہ رکھے ہوئے تھے مروان شیطان (وہابی، خارجی) نے آپ کو روکا۔ مندرجہ ذیل کتب میں محبت میں مغلوب لوگوں کے لیے بوسہ قبور کی اجازت دی گئی ہے یہ حکم ہر عام شخص کے لیے نہیں۔

۱۔ مسند احمد صفحہ ۱۲۲، جلد ۵، عمدۃ القاری صفحہ ۶۰۷، جلد ۲، المستدرک للحاکم

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

صفحہ ۵۶۰ جلد ۲۔

☆..... تو شیخ علی جامع الصحیح ، فتح الباری ، عمدۃ القاری شرح بخاری ، نہایہ تحفۃ الناظرین ، مطالب المومنین ، زرقانی علی المواہب غرائب ، فتاویٰ عالم گیری وغیرہ اور اسی جاہل مصنف نے اس کو سجدہ سمجھ لیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس بوسہ کی بھی ہر شخص کو اجازت نہیں جو غلبہ محبت میں مغلوب الحال ہے وہ غیر ماخوذ ہے۔



آٹھواں باب

نذرونیاز

اس بارے میں مولوی دوست محمد نے جو عبارات درج کی ہیں ان کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ نذر شرعی جو حقیقۃً عبادت ہے اور کسی جانور کو بقصد تقرب علی وجہ العبادۃ کسی کے نامزد کرنا ناجائز اور شرک ہے اس کا کوئی منکر نہیں لیکن یہاں بحث اس بات میں ہے کہ اگر اولیاء کی نذر محض نذر لغوی یا عرفی بمعنی ہدیہ و نذرانہ ہو یا وصال یافتہ بزرگ کے لیے بقصد ایصال ثواب کوئی جانور وغیرہ نامزد کر دیا اور نذر شرعی اللہ کے لیے ہو تو یہ فعل شرعاً جائز ہے یا نہ؟ ہمارے نزدیک یہ فعل شرعاً جائز بلکہ باعث خیر و برکت ہے۔ دلائل ملاحظہ ہوں:

☆..... فتاویٰ ابواللیث میں ہے:- ترجمہ:- غیر اللہ کی نذر ماننے والے نے اگر اپنی نذر سے غیر اللہ کی طرف تقرب (علی وجہ العبادۃ) (شامی) کا ارادہ کیا اور یہ گمان کیا کہ تمام امور میں میت ہی متصرف ہے نہ اللہ تعالیٰ تو اس کی یہ نذر حرام

ہے اور باطل ہے اور اس کا مرتد ہونا ثابت ہے اور اگر اس نے نذر سے تقرب الی اللہ کا ارادہ کیا اور اولیاء کو ثواب پہنچانے کی نیت کی اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ذرہ بھی متحرک نہیں ہوتا اور وہ اولیاء اللہ کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسائل قرار دیتا ہے تاکہ اس کے مقاصد حاصل ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا ذبیحہ حلال و طیب ہے۔

۲۔ حدیقہ ندیہ میں امام نابلسی فرماتے ہیں:

ترجمہ:- اولیاء اللہ کے لیے جو نذر مانی جاتی ہے اور اسے مریض کی شفا حاصل ہونے یا غائب کے آنے پر معلق کیا جاتا ہے تو وہ نذر مجازی ہے اس سے اولیاء اللہ کے قبور پر خادین کے لیے صدقہ کرنا مراد ہوتا ہے۔

۳۔ طبقات کبریٰ صفحہ ۶۸ جلد ۲ میں امام شعرانی امام شازلی سے ناقل ہیں:

ترجمہ:- میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا آپ فرماتے تھے جب تجھے کوئی حاجت درپیش ہو اور تو اس کے پورا ہونے کا ارادہ کرے تو سیدہ نفیسہ طاہرہ کی نذر مان لے اگر چہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو بیشک تیری حاجت پوری ہوگی۔

۴۔ تفسیرات احمدیہ از ملا احمد جیون مصنف نور الانوار میں ہے: **وَمَا أَهْلُ بَيْتِ لَعْنَةِ اللَّهِ** سے معلوم ہوا کہ بیشک وہ گائے جس کی نذر اولیاء کے لیے مانی جائے جیسا کہ ہمارے زمانہ میں یہ منت ماننا رائج ہے وہ گائے حلال و طیب ہے کیونکہ اس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اگر چہ وہ اسی کے لیے نذر مانتے ہیں۔

۵۔ مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رسالہ نذر میں لکھتے ہیں: جو نذر کے اس جگہ استعمال ہوتی ہے وہ اپنی شرعی معنی پر نہیں بلکہ معنی عربی پر ہے اس لیے کہ جو کچھ بزرگوں

کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اسے نذر و نیاز کہتے ہیں۔

۶۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفين صفحہ ۴۵ میں فرماتے ہیں حضرت والد ماجد قصبہ ڈاسنہ میں مخدوم اللہ دیا کی زیارت کو گئے رات کا وقت تھا اس جگہ فرمایا کہ مخدوم ہماری ضیافت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کچھ کھا کر جانا حضرت نے توقف فرمایا یہاں تک کہ آدمیوں کا نشان منقطع ہو گیا ساتھی اُکتا گئے اس وقت ایک عورت اپنے سر پر چاول اور شیرنی کا طبق لیے ہوئے آئی اور کہا کہ میں نے نذرمانی تھی کہ جس وقت میرا خاوند آئے گا اس وقت یہ کھانا پکا کر مخدوم اللہ دیا کے دربار میں بیٹھنے والوں کو پہنچاؤں گی وہ اسی وقت آیا میں نے نذر پوری کی۔

مصنف براہین کی پیش کردہ عبارات کا مفہوم:۔ صرف اس قدر ہے کہ نذر شرعی (جو عبادت) ہے ہرگز کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں نہ میت کو اشیائے منذورہ کا مالک سمجھنا درست ہے نہ غیر اللہ کو اللہ کے سوا متصرف فی الامور جاننا جائز ہے اس اعتقاد فاسد کے ساتھ نذراؤلیاء کو آج تک کسی نے جائز نہیں کہا۔

محل نزاع:۔ تو یہ امر ہے کہ صحیح اعتقاد کے ساتھ اولیاء کے کرام کے لیے لفظ نذر بمعنی عرفی بولنا یا دل میں اس کی نیت کرنا اسی نیت سے ان کے مزارات پر کوئی چیز لانا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک جائز ہے جیسا کہ ردالمحتار صفحہ ۱۲۳ جلد ۱ میں ہے:

ترجمہ:۔ تیل اور شمع کی نذر ماننا اولیاء اللہ کے لیے وہ چراغ ان کے مزارات کے نزدیک روشن کئے جائیں ان کی تعظیم و محبت کے لیے یہ بھی جائز ہے اس سے منع کرنا مناسب نہیں، اور منکرین اسے حرام کہتے ہیں الحمد للہ اس کے جواز کے ثبوت میں

ہم متعدد عبارات نقل کر چکے ہیں اور منکرین اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے۔

وَمَا أَهْلٌ كِي آڑ میں :- اس آیت کی آڑ لے کر نذرِ اولیاء بمعنی مذکورہ کو حرام کہنا بھی بدترین جہالت ہے شرعاً ذبیحہ کی حلت و حرمت میں ابتدائے ذبح کے وقت صرف ذابح کی نیت، قول اور مال کا اعتبار ہے مالک کا نہیں۔ رد المحتار صفحہ ۲۱۷ جلد ۵ میں ہے: ترجمہ :- جاننا چاہیے کہ مدارِ قصد پر ہے خاص ابتدائے ذبح کے وقت جامع الفتاویٰ اور عالم گیری صفحہ ۴۷ جلد ۴ میں ہے کہ: مجوسی نے آتش کدہ کے لیے بکری نامزد کی یا کافر نے اپنے بتوں کے لیے کوئی جانور نامزد کیا اور ان جانوروں کو مسلمانوں نے ذبح کر دیا اگرچہ مسلمان کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے مگر وہ جانور حلال و طیب ہے کھایا جائے گا۔

مقام غور ہے :- کہ مشرکین و کفار کے بتوں اور بت خانوں کے لیے نامزد کئے ہوئے جانور مسلمان کے ذبح کرنے سے حلال ہو جائیں مگر نذرِ اولیاء کا جانور مومن کے ذبح کرنے سے حلال نہ ہو۔ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ

تفسیر عزیزی کی عبارت :- جس پر مخالفین کو بڑا ناز ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتاویٰ کو دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب محض تشہیر لغیر اللہ کو جانور کے حرام ہونے کی علت ہرگز نہیں قرار دیتے بلکہ ان کے نزدیک وَمَا أَهْلٌ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ کے مراد ہی معنی یہی ہیں کہ جس جانور پر عند الذبح اہلال لغیر اللہ کیا جائے۔

اجماع مسلمین :- مصنف براہین کی فہرست علمائے ملت صفحہ ۱۴ کے تیسری صدی کے

جید امام عالم حجۃ الاسلام ابو احمد بن محمد جصاص الرازی (المتوفی ۳۷۰ھ) اپنی مشہور تفسیر احکام القرآن صفحہ ۱۳۵، ۱۳۶ جلد اول میں **وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ** کے تحت فرماتے ہیں: - ترجمہ: - مسلمانوں کا اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں یعنی سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ **وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ** سے صرف وہی ذبیحہ مراد ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اب مصنف براہین بتائے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے باہر ہے؟ بکیرہ سائبہ جانور جو مصنف براہین کے ایجاد کردہ معنی کی رو سے **وَمَا أَهْلٌ** میں داخل تھے کیونکہ مشرکین ان کی نذر اپنے بتوں کے لیے مانتے تھے اور ان کو بتوں کے لیے نامزد کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو متعدد آیات **وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** اور **فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** میں حلال قرار دیا ہے۔

اب بتائیے ایسی صورت میں اولیائے کرام کے لیے نذر مانے ہوئے جانور کیوں کر **وَمَا أَهْلٌ** میں داخل ہو کر حرام ہو سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرات اولیائے کرام کی فاتحہ، ایصال ثواب، نذرونیاز کے جانور قطعاً حلال ہیں اور انہیں حرام کہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر افتراء عظیم اور بہتان عظیم ہے۔ (خدا محفوظ رکھے)



نوان باب

خلقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسئلہ نور و بشر

صفحہ ۲۸۳ تا اختتام کتاب مصنف مذکور نے اپنی سابقہ عادت سے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولا ہے صفحہ ۲۸۳ پر افتراء کرتا ہے (بریلوی کہتے ہیں) حضور علیہ السلام آئے تو ہیں لیکن پیدا نہیں ہوئے۔ ارے جاہل یہ کس نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہماری جملہ کتب اس بات کی شاہد ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی بے مثل مخلوق مانتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں ہمارے قوی دلائل ہیں۔

۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے معنی تفسیر روح البیان، روح المعانی، عرائس البیان۔

۲۔ اَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے معنی حضور علیہ السلام پہلی مخلوق ہیں۔

۳۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ حضور ﷺ کی ذات نور اور اول مخلوق ہے۔ روح البیان، حسینی، قادری، روح المعانی، صاوی، امداد السلوک وغیرہ۔

۴۔ حدیث جابر جو مصنف عبدالرزاق، دلائل النبوة، مواہب اللدنیہ، زرقانی اربعین نبہانی، نشر الطیب مصنفہ تھانوی میں موجود ہے اور دیگر دلائل قویہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔

اس بات کو رشید احمد گنگوہی نے امداد السلوک میں صدر دیوبند نے الشہاب الثاقب میں بیان کیا چونکہ آپ پیدا اس دنیا سے پہلے ہو چکے تھے اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا:

قَدْ جَاءَكُمْ اب یہ تمہارے پاس آئے ہیں پیدا تو سب سے پہلے تھے اولیت سرکار کا مسئلہ ایسا واضح اور روشن ہے کہ اس کا انکار الحاد اور بے دینی کے سوا کچھ نہیں ہم انبیاء علیہم السلام کی عبدیت کے بھی قائل ہیں اور عبدیت نور کے منافی نہیں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی عبد فرمایا حالانکہ وہ نور ہیں۔

۱۔ بَلْ عِبَادٌ تَكْرُمُونَ ۲، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا كُنَّا

باعث نزاع:- منکرین کمالات رسالت اور جمہور اہل سنت کے مابین باعث نزاع و خلاف ہرگز ہرگز یہ بات نہیں کہ ہم اہل سنت انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص نوری ذات والے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ جیسے ان کی شان کے لائق ہے کے منکر ہیں ہم نے آج تک کسی کتاب میں انبیاء کرام علیہم السلام کی بشریت (کما یلیق بشانہم) کا انکار نہیں کیا بلکہ جھگڑے کی اصل وجہ یہ ہے کہ خارجی مولوی، حضور علیہ السلام کو حقیقت ذات اور خلقت کے اعتبار سے اپنے مثل عام بشر مانتے ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں بشریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنفہ نور الحسن بخاری، تقویۃ الایمان، براہین قاطعہ سے ظاہر ہے جمہور اہل سنت اس عام مثلی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم آپ کی ذات پاک سے اس بشریت کی نفی کرتے ہیں جو آپ کی ذات اور حقیقت قرار دی جائے ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس ذات خلقت اور حقیقت کے اعتبار سے خدا کی پہلی مخلوق اور خدا کا پیدا کیا ہوا نور مانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سید ولد آدم ظہور میں آخر بے مثل نوری بشر بھی مانتے ہیں بیشک آپ کو خدا نے بشریت کے حجاب میں بھیجا۔ بانی دارالعلوم دیوبند نے قصائد

قاسمی صفحہ ۶ طبع دیوبند انڈیا میں کہا: ۔

رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ کسی نے جز ستار

آپ تمام بشری کثافتوں اور غلاظتوں سے منزہ اور مبرا بے سایہ نوری بشر ہیں اور یہ مولوی اس کے منکر قائل ہیں اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کا مقصد مصنف براہین نے اس قسم کی آیات واحادیث جو درج کی ہیں ان میں آپ کو تواضع کی تعلیم دی گئی ہے اور آپ نے تواضعاً ایسا فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

☆..... معالم التنزیل بغوی صفحہ ۱۹۳ جلد ۲، خازن صفحہ ۸۰، ۱۹۳ جلد ۲، تفسیر

کبیر صفحہ ۱۷۶ جلد ۲۔

جب یہ کلمات تواضع ہوئے تو یہ گستاخ مصنف کلمات تواضع سے استدلال کر کے شقاوت قلبی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت کا اظہار کرتا ہے۔

افضلیت بشر:۔ ملک افضل ہیں یا بشر؟ یہ ایک ظنی مسئلہ ہے جاہل مولوی اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ بشر نور سے افضل ہے اسے اپنی سوچ کا ماتم کرنا چاہیے نور صرف ملائکہ نہیں وہ نور کی ایک قسم ہیں سورج، چاند، تارے نور ہیں مگر فرشتے نہیں۔ قرآن نور ہے مگر فرشتے نہیں۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خد انور ہے مگر فرشتے نہیں۔ حضور ﷺ ذات کے نور ہیں مگر فرشتے نہیں یہ اس کی بنیادی غلطی ہے کہ وہ نور صرف ملائکہ کو سمجھ کر افضلیت ملک علی البشر کی بے معنی بحث چھیڑ بیٹھا حالانکہ امام تفتازانی شرح عقائد نسفی صفحہ ۱۲۶ میں فرماتے ہیں: یہ مسئلہ ظنی ہے اور اس میں ظنی دلائل پر قناعت کی گئی ہے۔ نیز اس صفحہ ۶۰۲ میں ہے: اور جو شخص مر گیا اور اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ گزرا

کہ فرشتے افضل ہیں یا مفضول تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس نہ فرمائے گا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ میں توقف فرمایا ہے کیونکہ دلائل کا تعارض ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں: یہ مسئلہ اس قسم سے ہے جس کے بارے میں نہ قرآن مجید میں نص ہے اور نہ حدیث میں کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے۔ شرح فقہ اکبر صفحہ ۱۲۲ میں ہے: یہ مسئلہ ظنی ہے قطعی نہیں۔

اس بارے میں مسلمانوں کے حسب ذیل اقوال و مذاہب پائے جاتے ہیں۔

پہلا مذہب:۔ جملہ ملائکہ جملہ بشر سے افضل ہیں۔ یہ معتزلہ، فلاسفہ اور بعض اشاعرہ کا مذہب ہے۔ (شرح عقائد نسفی صفحہ ۱۲۶، شرح فقہ اکبر صفحہ ۱۲۲)

اسی قول کو ابو بکر باقلانی نے اختیار کیا ہے جو متکلمین اہل سنت سے ہیں اور ابو عبد اللہ الحلبی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے جو فقہائے اہل سنت سے ہیں۔

(تفسیر کبیر صفحہ ۲۱۵ جلد ۲)

دوسرا مذہب:۔ نیک و بد جملہ بنی آدم جملہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ علامہ علی قاری نے شرح فقہ اکبر صفحہ ۱۲۵ میں اس مذہب کو فاسد قرار دیا ہے۔ مولوی دوست محمد کا یہ مذہب امام رازی و بعض دیگر اکابر علماء کی تصریحات میں فاسد ہے۔

تیسرا مذہب:۔ تمام انبیاء و اولیاء مومنین صالحین تمام ملائکہ سے افضل ہیں اس مذہب کی تائید میں جو عبارات اور روایات سلف اور اکابر مفسرین سے منقول ہیں متحمل تاویل ہیں اس لیے یہ مسلک بھی محل نظر ہے۔

چوتھا مذہب: ۱۔ رسل بنی آدم افضل ہیں رسل ملائکہ سے۔ ۲۔ رسل ملائکہ افضل ہیں اولیاء بنی آدم سے۔ ۳۔ صلحائے مومناں افضل ہیں عوام ملائکہ سے۔ ۴۔ اولیاء بنی آدم افضل ہیں اولیاء ملائکہ سے۔ ۵۔ عوام ملائکہ افضل ہیں فاسق مومنوں سے۔

مولوی دوست محمد کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت انسان کو شان بھی ذاتِ مصطفیٰ و نورِ حبیب کبریٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ملی بیشک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ قدرت سے بنا کر اس کی پشت اقدس میں وہ نور اول رکھ کر اس کی جبین مبارک کو چمکایا۔

مسجود ملائکہ ہونے کی اصل وجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تھا۔

(فتاویٰ رملیہ، جواہر البحار صفحہ ۱۳۱ جلد ۲، مطالع النور، تفسیر کبیر)

اگر شیطان کی نظر بھی نورِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑ جاتی تو سجدے سے انکار نہ کرتا اس نے محض ایک بشر کو دیکھا نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔

(تفسیر کبیر، جواہر البحار صفحہ ۳۳۷ جلد ۲)

نورِ ہدایت:۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نورِ ہدایت بلکہ تمام نوروں کا نور مانتے ہیں صرف نورِ ہدایت نہیں مانتے۔ مولوی دوست محمد کے پیش کردہ حوالوں میں نورِ ہدایت کے لفظ تو ضرور ہیں لیکن صرف نورِ ہدایت ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ نورِ ہدایت اور صرف نورِ ہدایت میں فرق ہے۔ اگر جرات ہے تو صرف نورِ ہدایت ثابت کریں، اتمام حجت کے لیے عرض کر دوں امام احمد صاوی نے زیرِ تحت قَدْ جَاءَ كُمْ قَمِنَ اللّٰهُ نُورًا وَكِتَابٌ مُّبِينٌ حاشیہ جلالین طبع مصر صفحہ ۲۷۵ جلد اول میں حضور

علیہ السلام کو نہ صرف نور حسی بلکہ ہر نور حسی و معنوی کی اصل مانا ہے اور صاحب روح المعانی نے اسی آیت کے تحت حضور ﷺ کو سب نور کا نور (نور الانوار) لکھا اگر مولوی دوست محمد اور اس کی جماعت میں جرأت ہے تو کسی تفسیر سے حصر کا قول دکھائیں جب یہ بات ثابت کرنے سے یہ لوگ عاجز ہیں تو انہیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ وہ حق کے مقابلہ میں کس قدر ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔

مسلمانو! خبردار:- آج کل کنڈیاں کے مولوی خان محمد اور چکوال کے غلام حبیب اور عبدالمالک صاحب کے مریدین و خلفاء نقشبندیہ کی آڑ میں دیوبندیہ پھیلا رہے ہیں۔ نہایت ڈھٹائی سے اپنا سلسلہ پیران موسیٰ زئی شریف سے ملاتے نہیں شرماتے۔

۱۔ پیران موسیٰ زئی کے پیر شاہ احمد سعید مجددی نے ابطال تطفوی میں بانی فرقہ وہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی کو انکار شفاعت بالوجاہت و المحبت کی وجہ سے کافر لکھا ہے لیکن یہ دھوکہ باز اپنا تعلق اسماعیل دہلوی سے بناتے ہیں۔

۲۔ خواجہ قندھاروی کے پیر شاہ احمد سعید مجددی نے مولوی اسحاق وہابی کی کتاب مسائل اربعین کا ردّ بلغ بنام تحقیق الحق لمہین لکھا ہے اور تمام مسائل میں علمائے اہل سنت مسلک بریلوی کی تائید کی ہے خدا جانے ان پیروں کو دیوبندی مسلک سے کیا ملتا ہے جو کہ اکابرین نقشبندیہ کے مسلک کے صریح خلاف ہے۔ ذرا کنڈیاں والے پیر سے کوئی جواب دلوادے تو عین نوازش ہوگی۔

۳۔ خواجہ دوست محمد قندھاروی نے تجلیات دوستیہ صفحہ ۱۴۷ میں فرقہ وہابیہ کو طحہ

فرمایا اور یہ پیر ملحدوں سے تعلق بنائے ہوئے ہیں ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: بھائی جان! فقیر نے سنا ہے کہ مولوی غیاث الدین مسائل فرقہ وہابیہ کے معتقد ہیں اور لوگوں کو بھی مسائل بیان کرتے ہیں لہذا لکھا جاتا ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ آپ فرقہ وہابیہ سے پرہیز کریں بلکہ دل ہی سے اعتقاد گروہ اسمعیلیہ (مولوی اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان کے گروہ) سے بیزار ہو جائیں۔ کاش! کہ کنڈیاں والے مولوی صاحب بھی اس ملفوظ پر عمل کرتے۔

۴۔ مجموعہ فوائد عثمانی صفحہ ۹۸ نظر ثانی شدہ از حسین علی پھروی میں ہے: خواجہ محمد عثمان نے فرمایا: ”اولیاء ہمہ مے دانند و لیکن مامور باظہار نیستند“ اولیاء جملہ (غیوب) جانتے ہیں لیکن بعض کے اظہار پر مامور نہیں ہوتے۔ مجموعہ صفحہ ۵۴ پر اولیاء کے ارواح سے مدد مانگنے کے منکرین کو لاندہب فرمایا۔ صفحہ ۳۱، ۳۹، ۶۹ پر عرس کا جواز اور صفحہ ۷۳، ۷۶، ۸۷ پر تمام حاجات پیران کبار کے وسیلے سے مانگنے کا حکم فرمایا۔ صفحہ ۸۳ پر استمداد از محبوب سبحانی فرمایا۔ صفحہ ۱۰۴ پر نذر و نیاز کا جواز ہے۔ صفحہ ۵۲ پر آپ کے مرید کا نام عبدالرسول لکھا ہے۔ اب آپ سوچیں موجودہ دیوبندی بریلوی مسالک کے اعتبار سے آپ کا مسلک بریلوی تھا یا دیوبندی؟

کنڈیاں والے پیر کی غلط فہمی:۔ مولوی عبداللہ بھاکری کی کتاب ”علمائے دیوبند اور مشائخ پنجاب“ کی تصدیق کرتے ہوئے مولوی خان محمد نے شاہ ابوسعید کے چھوٹے صاحبزادے شاہ عبدالغنی کی بے حد تعریف کی اور صاحب سجادہ شاہ احمد سعید کا نام تک نہیں لیا۔ حالانکہ ہمارا سلسلہ شاہ احمد سعید سے جا کر ملتا ہے شاہ عبدالغنی سے

نہیں۔ شاہ عبدالغنی علمائے دیوبند کے استاذ ضرور ہیں ان کے مسلک کے ہرگز نہیں۔

انجاء الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ ان کی تصنیف اس وقت فقیر کے زیر نظر ہے صفحہ ۱۱۴

پر حضور ﷺ کے والدین کو مومن فرمایا۔ صفحہ ۳، ۵، ۶ پر بدعت کی تقسیم کا قول اور کل

بدعة ضلالہ میں کل عام مخصوص منه البعض فرمایا یعنی ہر وہ بدعت گمراہی ہے جو اول

اربعہ کے مخالف ہو ورنہ بدعت حسنہ ہے۔ صفحہ ۲۴۹ میں فرمایا اشیاء میں اصل اباحت

ہے جو شخص کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ دلیل لائے جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔

صفحہ ۱۰۰ پر تو سبل بعد وفات اور یارسول اللہ پکارنے کے دلائل نقل فرما کر لکھا کہ

ہمارے زمانے کے کافی لوگ اس مسئلہ کے انکار کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔

اب کنڈیاں والے صاحب کہاں جائیں گے؟ صفحہ ۷۱ پر لکھا فقراء کے لیے طعام اہل

بیت کی طرف سے جائز ہے۔ صفحہ ۲۹۲ پر سواد اعظم کے معنی وہابیہ کے خلاف لکھے۔

صفحہ ۱۱۳ پر میت کے شعور کے بارے لکھا۔

الحمد لله جملہ بزرگان دین اسی مسلک کے تھے جسے آج کل مسلک بریلوی کہا جاتا

ہے یہ اگرچہ نیا نام ہے مگر عقیدہ وہی ہے جو قرون ثلاثہ سے بطریق اتصال آرہا ہے

ان کے پیرو مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی بھی اسی مسلک کے تھے۔ اللہ تعالیٰ

اسی مسلک حقہ پر قائم و دائم رکھے۔

آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ



نصرت القادر

فی

مسئلة الحاضر والناظر



مولوی سرفراز گلکھڑوی (دیوبندی) کی کتاب

”تبرید النواظر“ کا جواب

سوال :- لفظ حاضر اور ناظر کے لغوی معانی کیا ہیں؟

جواب :- منجد صفحہ ۱۳۲، مجمع بحار الانوار ۲ صفحہ ۲۷۵ جلد اول اور
مختار الصحاح ۳ صفحہ ۱۵۹، المفردات ۲ طبع مصر صفحہ ۳۷۲، ۳۷۳ وغیرہ میں
لفظ ”حاضر“ کے مندرجہ ذیل معانی لکھے ہیں۔ ۱۔ شہروں اور بستیوں میں رہنے والا۔
۲۔ بڑا قبیلہ ۳۔ سامنے ہونے والا۔ ۴۔ جو چیز کھلم کھلا بے حجاب آنکھوں کے
سامنے ہو۔ ۵۔ حاضر غائب کی ضد ہے جو حواس سے پوشیدہ نہ ہو

لفظ ”ناظر“ کا معنی مندرجہ ذیل کتب میں یہ لکھا ہے۔

۱۔ آنکھ کے ڈیلے کی سیاہی جس میں آنکھ کا تل ہوتا ہے۔

ناظر کا ماخذ نظر ہے جس کے معانی ہیں۔ ۱۔ کسی امر میں تدبر اور تفکر کرنا۔ ۲۔ کسی چیز
کا اندازہ کرنا۔ ۳۔ آنکھ کے ساتھ کسی چیز میں غور و تامل کرنا۔ ۴۔ اور کسی چیز کا ادراک
کرنے یا اسے دیکھنے کی غرض سے بصر و بصیرت کو پھیرنا۔ ۵۔ تامل و تلاش۔ ۶۔ وہ
معرفت اور رویت مراد ہے جو تلاش کے بعد حاصل ہو۔ ملاحظہ فرمائیے۔ مختار
الصحاح صفحہ ۶۹۱، المفردات صفحہ ۵۱۷، منجد صفحہ ۸۹، صراح ۵ صفحہ ۲۱۲، اس لغوی
تحقیق سے واضح ہوا کہ حاضر اور ناظر کے اصلی اور حقیقی معانی اللہ تعالیٰ کے شایان شان
نہیں بلکہ ان معانی سے اللہ کا پاک ہونا یقینی امر ہے۔ تو ان لفظوں کا اطلاق بغیر

۱۔ از لویس معلوف الیسوی (المتوفی ۱۸۶۷ھ) ۲۔ علامہ محمد طاہر پٹنی (المتوفی

۱۹۸۶ھ) ۳۔ علامہ محمد بن ابوبکر بن عبدالغفار رازی (المتوفی ۶۶۰ھ)

۴۔ علامہ حسین بن محمد راغب (المتوفی ۵۰۲ھ) ۵۔ ابوالفضل محمد بن عمر بن خالد القرشی

(المتوفی تقریباً ۶۹۰ھ) ابو جلیل فیضی غفرلہ

تاویل کے ذات باری تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں حاضر و ناظر کوئی نام نہیں اور قرآن و حدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذات حق تعالیٰ کے لئے وارد نہیں ہوا نہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ بولا۔ کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام یا تابعین یا آئمہ مجتہدین نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا ہو۔

سوال :- اسمائے حسنیٰ میں لفظ خدا بھی نہیں ہے پھر خدا کیوں کہتے ہو؟ (گکھڑوی)

جواب :- یہ قیاس مع الفارق ہے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے اور حاضر و ناظر عربی الفاظ ہیں عربی اور اسمائے حسنیٰ میں داخل نہ ہوں؟ معلوم ہوا کہ بغیر تاویل کے حاضر و ناظر کے لغوی معنی سے اللہ پاک ہے۔

سوال :- قرآن مجید میں وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (آل عمران: ۷۷) اور حدیث پاک میں

ان الله لا ينظر الي صوركم آیا ہے خدا کے لئے نظر ثابت ہے۔ (گکھڑوی)

جواب :- تفسیر روح المعانی صفحہ ۱۸۰ پارہ سوم میں لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ کے معانی یہ ہیں کہ

اللہ تعالیٰ کفار پر مہربانی اور رحم نہیں فرمائے گا جس کے حق میں لفظ نظر کا استعمال جائز

نہیں (جیسا کہ اللہ تعالیٰ) اس کے لئے اگر یہ لفظ کبھی استعمال ہوا ہے تو وہ اپنے اصلی

معنی سے مجرد ہے اور صرف احسان کے معنی میں ہے لغت حدیث کی مشہور کتاب

مجمع بحار الانوار میں حدیث پاک ان الله لا ينظر الي صوركم میں نظر کا

ل: صحیح مسلم صفحہ ۳۱۷ جلد دوم، ابن ماجہ صفحہ ۳۰۶ جلد دوم، مسند احمد صفحہ

۲۳۹، ۲۸۵ جلد دوم، جامع الصغیر للسيوطی صفحہ ۱۱۳ جلد اول۔ ابو جلیل فیضی غفرلہ

معنی دیکھنا نہیں بلکہ یہاں پسندیدگی رحمت اور مہربانی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے اور ان کا محاسبہ فرماتا ہے۔ امام راعب اصفہانی مفردات صفحہ ۵۱ میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کی طرف نظر فرمانے کے معنی دیکھنا نہیں صرف یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتا اور انہیں اپنی نعمتیں پہنچاتا ہے ولا ينظر اليهم كما مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام و احسان نہ ہوگا۔ متاخرین میں سے بعض لوگوں نے خدا کو حاضر و ناظر کہنا شروع کیا تو علماء نے اس پر انکار کیا بلکہ بعض علماء نے اسے کفر قرار دیا۔ بالآخر جمہور علماء نے یہ فیصلہ دیا کہ اس میں تاویل ہو سکتی ہے اس لئے خدا کو حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں اور تاویل یہ کی کہ حضور کو مجازاً علم کے معنی میں لیا جائے اور نظر کے مجازی معنی رویت مراد لئے جائیں اس تاویل کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہا جائے گا تو یہ اطلاق علیم و بصیر اور عالم کے معنی میں ہوگا ملاحظہ فرمائیے۔ رد المحتار صفحہ ۳۳۷ جلد سوم۔

سوال :- یہ کہان سے ثابت ہوا کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا کفر قرار دے دیا تھا؟
(عام دیوبندی)

جواب :- صاحب درمختار کا یہ حاضریا ناظر کیسے بکفر کہنا ہی اس امر کی روشن دلیل ہے کہ بعض علماء نے اس کو کفر کہا تھا اور نہ صاحب درمختار کا یہ قول بالکل لغو اور بے معنی قرار پائے گا کیونکہ جب تک کوئی امر قابل انکار اور لائق تردید موجود نہ ہو اس وقت تک انکار اور تردید ممکن ہی نہیں! دیکھئے آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ اللہ

تعالیٰ کو رحمن و رحیم کہنا کفر نہیں کیوں؟ محض اس لئے کہ کبھی کسی نے اللہ تعالیٰ کو رحمن و رحیم کہنا کفر قرار ہی نہیں دیا معلوم ہوا کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا اسی لئے کفر قرار دیا تھا کہ ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں لیکن جمہور علماء نے ان کو لغوی معنی سے پھیر کر تاویل کر لی اور تاویل کے بعد حاضر و ناظر کے اطلاق کو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز رکھا اس تحقیق سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ بغیر تاویل کے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا قطعاً جائز نہیں۔

سوال ۹۔ تمہارے بہت بڑے بزرگ سلطان باہو فرماتے ہیں۔

نال یقین کمال مکمل ایہ گل ثابت ہوئی

دوہیں جہانیں حاضر ناظر اللہ باجھ نہ کوئی

(مولوی عبدالستار تونسوی کی تقریر)

جواب ۹۔ یہ بیت قطعاً سلطان باہو کا نہیں مترجم (مولوی شاہ دین) کی حرکت ہے۔

اصل بیت اس طرح ہے۔

یقین دائم دریں عالم کہ لا معبود الا ہو

ولا موجود فی الکلونین لا مقصود الا ہو

رسالہ روحی صفحہ ۲۲ میں سلطان العارفین برہان الواصلین سخی باہو فرماتے ہیں۔

بداں کہ عارف کامل قادری بہر قدرتے قادر و بہر مقام حاضر محو ہا ہویت مطلق

(جان لے کہ عارف کامل قادری ہا ہویت مطلق میں غرق ہو کر ہر قدرت پر قادر اور ہر

مقام پر حاضر ہوتا ہے) سلطان باہو رحمة اللہ علیہ کے اس فرمان کو بھی مانو!

سوال :- تم لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہو اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟

جواب :- حضور کو حضور کہہ کر آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرنا عجیب بات ہے۔ حضور ہیں اور حاضر نہیں؟ جب حضور ہیں تو حاضر بھی ہیں یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کوڑھ مغزیہ کہے کہ میرا باپ میرا والد نہیں!

جواب :- حضور غزالی زمان تسکین الخواطر میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو لفظ حاضر و ناظر بولا جاتا ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ ہر جگہ ہر ایک کے سامنے موجود ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح روح اپنے بدن کے ہر جزو میں ہوتی ہے اسی طرح روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت منورہ ذرات عالم کے ہر ذرہ میں جاری و ساری ہے جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اہل اللہ اکثر و بیشتر بحالت بیداری اپنی جسمانی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں رحمت اور نظر عنایت سے سرور و محفوظ فرماتے ہیں گویا حضور علیہ السلام کا اپنے غلاموں کے سامنے ہونا سرکار کے حاضر ہونے کے معنی ہیں اور انہیں اپنی نظر مبارک سے دیکھنا سرکار کے ناظر ہونے کا مفہوم ہے۔

(مقالات کاظمی صفحہ ۱۱۵ جلد سوم)

بعض حضرات نے فرط عقیدت کی بنا پر تصرفات استمداد اور علم غیب تینوں مسئلوں کو

حاضر و ناظر کے مفہوم میں شامل کر دیا۔ مثلاً ہمارے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام جہان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام جہان کی سیر کرے اور صد ہا کوس پر حاجتمندوں کی حاجت روائی کرے یہ رفتار خواہ صرف روحانی یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم کے ساتھ جو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔ (جاء الحق صفحہ ۱۳۱ جلد اول)

یہ مسائل اپنی جگہ حق ہیں ان کا ثبوت قرآن و حدیث و اقوال علماء سے ہے مگر حاضر و ناظر کا معنی حضور کے لئے وہی ہے جو غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی (المتوفی ۱۲۰۶ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔

سوال :- حاضر و ناظر ہونا تو خاص صفت خداوندی ہے اور خدا کی صفت غیر اللہ کے لئے ثابت کرنا شرک ہے؟

جواب :- ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی غیر کے لئے اسی طرح ثابت کرنا شرک ہے جس طرح خدا کے لئے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حاضر و ناظر کے اطلاق کو شرک کہنے والے لوگوں نے یا تو حاضر و ناظر کے معنی نہیں سمجھے یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے کہ ایسے الفاظ (حاضر و ناظر) کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرتے ہیں جن کے لغوی معنی صرف بندوں کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ معترض جن دلائل سے خدا کو حاضر و ناظر ثابت کرتا ہے مثلاً خدا کا سمیع، بصیر، علیم، خبیر یا الفاظ دیگر عالم و منیری (جاننے والا اور دیکھنے والا) بعینہ وہی دلائل قرآن و حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

ثابت ہیں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ سمیع، بصیر، علیم، خبیر عالم اور من یسری سب کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن مجید میں موجود ہے۔

۱۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمیع و بصیر ہیں۔

(روح المعانی ۱ تاویلات نجمیہ ۲)

۲۔ فَسَلِّ بِهٖ خَيْرًا خَبِيرًا حضور ہیں۔ (صاوی علی الجلالین صفحہ ۱۳۶ جلد سوم)

۳۔ بصیر، علیم کے معنی میں حضور ہیں۔ (زرقانی شریف صفحہ ۱۲۲ جلد سوم)

۴۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ حضور ہیں۔ (مدارج النبوت صفحہ ۳ جلد اول)

۵۔ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ يَرَى كَافِعًا اللّٰهُ وَرَسُولَهُ دُونَهُمْ ہیں۔

چاروں اسمائے مبارکہ سمیع و بصیر، علیم و خبیر جن کو ایہام شرک کی بنیاد قرار دے رہے ہو حضور کے اسمائے مبارکہ میں شامل ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

(مدارج النبوت صفحہ ۳۱۵، ۳۱۶ جلد دوم، مواہب اللدنیہ طبع مصر)

صفحہ ۱۸۲، ۱۸۳ جلد اول، زرقانی شریف طبع مصر ۱۲۲ تا ۱۳۸ جلد سوم)

جواب: مولوی سرفراز گلکھڑوی دیوبندی تبرید النواظر صفحہ ۶۵ میں لکھتا ہے۔ نزاع

لفظ حاضر ناظر میں نہیں اس کے مفہوم و معانی میں ہے اسی طرح حفیظ، علیم، رب اور

مالک وغیرہ (مؤمن، رؤف، حی، علی، کریم، غنی، رحیم، حافظ) کے الفاظ غیر پر اطلاق کئے

گئے ہیں لیکن اگر ان الفاظ کو وہ معنی اور مفہوم دیا جائے جو خدا تعالیٰ کے مناسب شان

۱: عنایۃ القاضی صفحہ ۱۲، ۱۳ جلد ششم از علامہ شہاب الدین خفاجی (المتوفی ۱۰۶۹ھ)

۲: تاویلات نجمیہ علامہ نجم الدین ابوبکر بن عبداللہ رازی (المتوفی ۶۵۲ھ) کی تالیف

ہے اور یہ صوفیانہ اصطلاحات پر قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

ہے تو یقیناً باطل ہے۔

سوال :- تم لوگ خدا کی مثل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر مانتے ہو لہذا تم مشرک ہو۔ (عام دیوبندی)

جواب :- ہم واللہ باللہ خدا کی مثل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتے جو ایسا مانے وہ مشرک ہے جملہ صفات خداوندی مستقل اور بالذات ہیں خدا کی کوئی صفت عطائی اور غیر مستقل نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام صفات غیر مستقل اور عطائی ہیں۔ لہذا ہم پر شرک کا الزام غلط ہے۔

عطائے صفات سے مراد ہمارے نزدیک صرف وہی صفات مراد ہیں جن کا ظہور بندوں میں دین متین اور عقل سلیم کی روشنی میں ممکن ہے ورنہ وجوب وجود اور غنائے ذاتی کا ظہور بندوں کے حق میں قطعاً محال ہے۔

سوال :- مشرکین عرب بھی اپنے معبودان باطلہ (بتوں) کے لئے عطائی صفات کے قائل تھے اور تم بھی عطائی صفات کے قائل ہو تمہارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟

جواب :- ہمارے اور ان کے درمیان متعدد فرق ہیں اولاً :- وہ بتوں کے لئے عطائی صفات کے قائل تھے جنہیں خدا نے کچھ نہیں دیا تھا اور ہم محبوبان الہی کے لئے عطائی صفات مانتے ہیں جن کو خدا نے صفات عطا فرمائی ہیں اور عطائے خداوندی برائے محبوبان حق سے ثابت ہے۔

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ الْكَوْثَرَ، هَذَا عَطَاؤُنَا فَانْتُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
كُلًّا مُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

بتوں کو عطا کا عقیدہ رب تعالیٰ پر بہتان اور کفر ہے اور محبوبان الہی کو عطا کا عقیدہ قرآن سے ثابت اور عین ایمان ہے۔

ثانیاً :- وہ مشرکین ان صفات (الوہیت، غنائے ذاتی و جوب وجود) کے بھی قائل تھے جن کی عطا ناممکن اور محال اور ہم مسلمان ان صفات (حاضر و ناظر، علم غیب، اختیار استمداد) کی عطا کے قائل ہیں جن کی عطا ممکن بلکہ واقع ہے۔ لہذا وہ مشرک اور ہم مجرمہ مؤمن کامل شرک سے پاک ہیں۔

ثالثاً :- حکیم الامت دیوبند اشرف علی تھانوی اپنی آخری تصنیف بو اور النوار مطبوعہ دیوبند صفحہ ۷۰۷ میں لکھتے ہیں :-

مشرکین عرب کا اپنے الہہ باطلہ کے ساتھ قدرت مستقلہ کا عقیدہ تھا مشرکین تصرف غیر مقید بالاذن کے قائل تھے۔ صفحہ ۷۰۸ میں لکھا مشرکین ایسے تصرفات و اختیارات کے قائل تھے جو مقید بالاذن نہ ہوں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے معبودان باطلہ نافذ احکامات و اختیارات کرنے میں خدا کی مشیت کے محتاج نہیں اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام محبوبان الہی کیلئے عطاء الہی کے بعد قدرت غیر مستقلہ کے قائل ہیں اور تصرف و اختیارات کرنے میں خدا کی مشیت کے محتاج ہیں ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ خدا کے اذن کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ محبوبان الہی جو کچھ کرتے ہیں اذن الہی سے کرتے ہیں جو ہمارے اس پاک عقیدہ کو شرک کہتا ہے وہ عقل کا علاج کرائے۔

سوال :- اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر الہ اور خالق مانتا ہوں اور

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلکہ دیگر بزرگوں کو بھی عطائی طور پر الہ اور خالق تسلیم کرتا ہوں تو کیا ایسا شخص مسلمان رہے گا؟ اگر رہے گا تو کس دلیل سے؟

(تبرید از گلکھڑوی صفحہ ۶۳)

جواب :- وہ مسلمان نہیں رہے گا اس لئے کہ اس نے ان صفات کی عطا کو مانا جن کی عطا ناممکن محال اور ممتنع بالذات ہے۔ مسلمانوں اور مشرکین کے مابین بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ ان صفات (الوہیت استقلال بالذات، وجوب وجود اور ذاتی خلق و ایجاد) کے قائل تھے اور مسلمان ان عطائی صفات کے قائل ہیں جن کی عطا کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔

سوال :- مشرکین عرب تلبیہ حج میں کہا کرتے تھے لا شریک لک لیک الا شریکا تملکہ و ما مالک اس سے ثابت ہوتا ہے وہ اپنے بتوں کے حق میں تصرف بالاستقلال کے قائل نہ تھے کیونکہ استقلال ذاتی اور مملوکیت میں منافات ہے یعنی وہ بتوں کو خدا کی ملک جانتے تھے۔ پھر کس طرح تسلیم کیا جائے کہ وہ ان بتوں میں صفات مستقل مانتے تھے۔ (جواہر القرآن غلام اللہ خاں راولپنڈی)

جواب :- نص قطعی قرآنی میں مشرکین عرب کا قول صاف اور صریح الفاظ میں موجود ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّهُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ كَخَشْيَةِٰ رَبِّهِمْ لَخَشْيَةٍ أَوْبَعْدَ ۙ لَآ تَأْتِيهِمْ فِي الشَّعْبِ ۚ

ان کی عبادت کرنے سے اور ان کو معبود ماننے سے ہمیں قرب الہی حاصل ہو۔

مشرکین عرب استحقاق عبادت میں غیر اللہ کو شریک مان کر الا شریکا بولا کرتے تھے

جب ان بد بختوں کے نزدیک ایک مملوک لائق عبادت ہو سکتا ہے تو متصرف بالاستقلال کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اعتقاد مملوکی کے ساتھ مشرکین کے ناپاک دلوں میں معبودیت کا عقیدہ جمع ہو سکتا ہے تو مملوکی کے عقیدہ کے ساتھ تصرف بالاستقلال کا اعتقاد بھی پایا جاسکتا ہے اپنے تھانوی کی بات تو مانو ”بوادر النواذر مطبوعہ دیوبند صفحہ ۷۰۷ میں لکھتے ہیں مشرکین عرب اپنے الہ کے لئے قدرت مستقلہ کے قائل تھے“

سوال :- مولوی سرفراز گلکھڑوی نے تبرید النواظر میں لکھا ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حاضر و ناظر کا اطلاق درست ہے مگر بریلوی حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کی طرح حاضر و ناظر مان کر مشرک ہو گئے!“

جواب :- ہم بجز اللہ تعالیٰ خدا کی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتے جو ایسا مانے وہ مشرک ہے جملہ صفات خداوندی مستقل بالذات ہیں خدا کی کوئی صفت کسی کی عطا اور غیر مستقل نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جملہ صفات غیر مستقل اور خدا کی عطا ہیں لہذا ہم خدا کی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لہذا ہم بجز اللہ شرک سے پاک ہیں۔

سوال :- کیا اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے جن کو کمالات خداوندی کی تجلی اور صفات ایزدی کا ظہور کہا جاسکے؟

جواب :- مخلوقات کو مظہر انوار الہی اور جلوہ گاہ کمالات ایزدی ماننا ضروریات دین سے ہے اس کا انکار کفر و الحاد سے کم نہیں صحیح بخاری صفحہ ۹۶۳ جلد دوم میں حدیث قدسی یعنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے خدا فرماتا ہے کہ جس نے

میرے ولی سے عداوت کی میں نے اس کو اعلان جنگ فرما دیا اور جن چیزوں کے ذریعہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک فرانس ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میری طرف ہمیشہ نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے وہ کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔

سوال :- اس حدیث کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ جب بندہ کثرت عبادت سے حق تعالیٰ کا مقبول ہو جاتا ہے تو اس کے سب اعضاء کا حق تعالیٰ خود محافظ ہو جاتا ہے۔

(تبرید النواظر صفحہ ۱۱۵۸ از گلکھڑوی)

جواب :- آپ ہماری بات نہیں مانتے اپنے اکابرین دیوبند کی بات تو مانیں محدث دیوبند انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری صفحہ ۴۲۹ جلد چہارم میں اسی حدیث قدسی کے تحت لکھتے ہیں ”میں کہتا ہوں کہ حدیث کے یہ (گلکھڑوی والے) معنی بیان کرنا حق الفاظ سے تجاوز اور کج روی ہے اس لئے کہ بصیغہ متکلم اللہ تعالیٰ کا کُنْتُ سَمِعَهُ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عبد مقرب بالنوافل میں اس کے جسم اور صورت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی متصرف ہو گیا ہے اور فنا فی اللہ سے صوفیا کی مراد بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے خواہشات نفس سے اس طرح خالی

ہو جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز تصرف کرنے والی باقی نہ رہے اس حدیث میں وحدت الوجود کی چمک ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ پر واضح ہوگا کہ آیت کریمہ **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** کے معانی یہی ہیں جن کا مصداق یہ عبد مقرب ہے عبادت کے معانی پامالی کے ہیں یعنی عبد مقرب اپنی انانیت اور صفات بشریہ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پامالی یعنی ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ ان کو فنا کر دیتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں اس کے اپنی صفات عبدیت کی بجائے صفات حق متجلی ہوتی ہیں اور انوار صفات الہیہ سے وہ بندہ منور و مستنیر ہو جاتا ہے۔

فیض الباری شرح بخاری صفحہ ۴۲۹ جلد چہارم میں دیوبند کے محدث اتور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جب درخت سے **إِنِّي أَنَا اللَّهُ** کی آواز آسکتی ہے تو مقرب بالنوافل کا کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سمع و بصر نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے مقرب بندوں کی سمع و بصر ہو جانا ایسی صورت میں کیوں کر محال ہو سکتا ہے۔ جب کہ وہ ابن آدم جو صورت رحمن پر پیدا کیا گیا شرف و کمال میں شجرہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی طرح کم نہیں۔

نماز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال کو گاؤ خرن کے خیال سے بدتر کہنے والا (معاذ اللہ) تمہازا مولوی اسماعیل جسے تم شہید مانتے ہو اپنی نام نہاد صراط مستقیم مطبوعہ لاہور صفحہ ۳۲ میں اس مسئلہ کو اس طرح سمجھاتا ہے کہ جس طرح لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اور آگ کے شعلے ہر طرف سے اسے اجاڑ کر لیتے ہیں بلکہ آگ کے اجزائے لطیفہ اس لوہے کے ٹکڑے کے نفس جو ہر میں دخل کر چاتے ہیں اور اس کی شکل و رنگ کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں اور گرمی اور جلانا جو آگ کی

خاصیتوں میں سے ہے اس لوہے کے ٹکڑے کو بخش دیتے ہیں تو اس وقت ضرور وہ لوہے کا ٹکڑا آگ کے انگاروں میں شمار ہو جاتا ہے لیکن نہ اس وجہ سے کہ وہ لوہا اپنی حقیقت کو چھوڑ کر خالص آگ کی حقیقت سے بدل گیا ہے۔ چونکہ یہ امر تو صریح البطلان ہے بلکہ یہ لوہے کا ٹکڑا فی الحقیقت لوہا ہی ہے مگر شعلہ ہائے نار یہ کے لشکروں کے ہجوم کی وجہ سے اس کا لوہا پن اپنے آثار و احکام سمیت بھاگ گیا ہے اور جو آثار و احکام آگ پر مرتب ہیں وہی آثار و احکام اب بھی آگ پر مرتب ہیں جس نے اس لوہے کے ٹکڑے کو احاطہ کیا ہوا ہے لیکن چونکہ آگ نے اس لوہے کے ٹکڑے کو اپنی سواری بنا کر اپنی سلطنت قرار دے رکھا ہے اس لئے وہ آثار و احکام ٹکڑے کی طرف نسبت کئے جاسکتے ہیں چنانچہ آیت کریمہ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي اسی کیفیت کا بیان ہے اور آیت کریمہ فَأَادَّ رَبُّكَ اسی طرف اشارہ ہے الغرض اگر اس میں اس آہن پارہ کو بولنے کی طاقت ہوتی تو سوزبان کے ساتھ اپنی اور آگ کی عینیت اور یک جان ہونے کا شور و غل مچاتا اور ضرور خواہ مخواہ ایک ساعت کے لئے اپنی حقیقت سے غافل ہو کر یہ کلمہ بول اٹھتا کہ میں جلانے والی آگ کا انگارہ ہوں اور میں وہ چیز ہوں کہ باورچیوں اور لوہاروں اور سناروں بلکہ تمام پیشہ وروں کاریگروں کے کاروبار میرے ساتھ وابستہ اور متعلق ہیں اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو رجحانی کشش اور جذب کی موجیں احدیت کے دریاؤں کی گہری تہ میں کھینچ لے جاتی ہیں تو انا الحق اور لیس فی جنبی سوی اللہ کا آوازہ اس سے صادر ہونے لگتا ہے اور یہ حدیث قدسی کنت سیموہ الذی یسمع بہ ویصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یتطش بہا

اور ایک روایت کی رو سے ولسانہ الذی يتكلم به اسی حال کی حکایت ہے۔
 خبردار اس معاملہ پر تعجب نہ کرنا اور انکار سے پیش نہ آنا کیونکہ جب وادی مقدس کی
 آگ سے انی انا اللہ رب العالمین صادر ہوئی تو پھر اشرف موجودات سے جو
 حضرت ذات سبحانہ و تعالیٰ کا نمونہ ہے اگر انا الحق کی آواز صادر ہو تو کوئی
 تعجب کا مقام نہیں۔ (منکرو، ضد چھوڑ کر اپنے گھر کی خبر لو)

سوال :- ہمارے علامہ سرفراز گلکھڑوی نے بخاری کی اس حدیث کا جو معنی لکھا ہے وہ
 تفسیر عزیزی صفحہ ۱۲۷ پارہ ۲۹ کے حوالہ سے ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز بہت بڑے
 محدث گزرے ہیں تم انکار کیسے کر سکتے ہو۔

جواب :- واقعی وہ بہت بڑے محدث تھے انہوں نے حدیث مذکور کا ایک معنی لکھا ہے
 دوسرے معنی کا انکار نہیں کیا اب ہم بفضل خدا تفسیر عزیزی کے حوالہ جات سے یہ ثابت
 کرتے ہیں کہ مقبولان بازگاہ خداوندی کا مظہر اوصاف حق ہونا حضرت شاہ عبدالعزیز
 رحمۃ اللہ علیہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔

☆..... تفسیر عزیزی پارہ ۳۰ صفحہ ۳۹ مطبوعہ دیوبند میں بِالْمَدِيرَاتِ اَمْرًا کے تحت لکھا
 مدبروات امرائے مراد کاملوں اور مکملوں کے دل مراد ہیں کہ بعد پہنچنے کے درگاہ الہی
 میں صفات الہی سے موصوف ہو کے خلق کو دعوت خالق کی طرف کرنے کے واسطے پھر
 اس طرف رجوع کرتے ہیں۔ بلفظہ

اب قدرت مذکورہ کے الفاظ "صفات الہی سے موصوف ہو کے" پر غور کرو اور بتاؤ کہ
 حاضرین کے لئے اس کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظہر

اور اس صفت حاضر و ناظر سے موصوف ہوئے یا نہ؟

☆..... تفسیر عزیزی پارہ ۳۰ صفحہ ۲۰۶ مطبوعہ دیوبند میں ہے ماسوائے حق سے تہرہ کر اور نظر کرنے سے غیر کی طرف اپنے کو بچانا کہ تیری ذات پر کمالات حقانیہ سب کے سب روشن ہوویں کہ استعداد تام قبول کرنے کو کمالات الہی کے سوائے ذات محمدی کے کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ بلفظہ اب بتائیے کہ حضور ﷺ پر کمالات حقانیہ اور کمالات الہی (حاضر و ناظر، علم غیب) حاصل ہوئے یا نہ؟ یہاں سب کمالات سے مراد وہ سب کمالات ہیں جن کی عطا شرعاً و عقلاً ممکن ہے۔

☆..... تفسیر عزیزی صفحہ ۶ پارہ ۳۰ مطبوعہ دیوبند میں ہے:- لیکن مجبوں کے فقط گناہ سے بچنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان سے تخلق باخلاق الہی چاہتے ہیں۔ بلفظہ اب بتائیے حضرت محدث دہلوی نے صرف گناہ سے بچنے والے معنی بیان فرمائے ہیں یا تخلق باخلاق الہی مظہر اوصاف الہی ہونا بھی تسلیم کیا ہے؟

☆..... تفسیر عزیزی پارہ اول صفحہ ۱۲ مطبوعہ دہلی میں مقام فنا کا ذکر کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں:- ”ایسا اس کی یاد میں مشغول ہو اور مستغرق ہو کہ آپ کو فنا کرے اور اس درجہ کو پہنچ جاوے کہ ذکر اور ذکر کرنے والا اور ذکر کیا گیا ایک ہو جاوے اور دوئی درمیان سے اٹھے“ شاہ صاحب نے لکھڑوی کا صفایا کر دیا۔

☆..... تفسیر عزیزی پارہ اول صفحہ ۹۹ میں شاہ صاحب لکھتے ہیں:- پس ضروری ہوا کہ کوئی مخلوقات اس کی کہ ایسی مخلوق ہو کہ ساتھ اخلاق الہی کے متخلق اور ساتھ اوصاف اس کے متصف ہو۔

☆..... تفسیر عزیزی پارہ اول صفحہ ۷۰ میں ہے:- اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ مخادعت خدا

کی عبارت مخادعت رسول اس کے سے ہے اس واسطے کہ رسول کسی شخص کا اس امر میں بیچ حکم اسی شخص کے ہوتا ہے جو معاملہ کہ اس کے ساتھ کریں اس شخص کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہنا رسول کا بعینہ کہنا اس شخص کا ہے جیسا کہ بیچ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ یعنی جس شخص نے اطاعت رسول کی کی پس تحقیق اس نے اطاعت اللہ کی اور بیچ آیت إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ یعنی وہ لوگ کہ بیعت تیرے ساتھ کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ وہ بیعت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اور بیچ آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ یعنی اور نہیں پھینکا تو نے جس وقت پھینکا تو نے لیکن اللہ نے پھینکا۔ اس معنی کا صاف ارشاد کیا ہے۔ پس فریب دینا ان منافقوں کا رسول خدا کو ساتھ ظاہر کرنے ایمان کے گویا فریب دینا خدا کا ہے علی الخصوص ہر گاہ کہ اس رسول کے واسطے باوجود رسالت کے مرتبہ محبوبیت کا بھی ثابت ہے اور محبوب خدا کو فریب دینا بمنزلہ اس بات کے ہے کہ خدا کو فریب دیا جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی میں وارد ہے کہ بندہ مومن طرف میری نزدیک ہوتا ہے بسبب ادا کرنے نوافل کے یہاں تک کہ اس کو اپنا محبوب کرتا ہوں کان اور آنکھ اس کی ہو جاتا ہوں کہ ساتھ میرے سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور زبان اس کی ہوتا ہوں کہ ساتھ میرے باتیں کرتا ہے اور ہاتھ اس کا ہو جاتا ہوں کہ ساتھ میرے کام کرتا ہے، پاؤں اس کا ہو جاتا ہوں کہ ساتھ میرے چلتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز کے دادا جان کا ارشاد

مکتوبات شاہ عبدالرحیم، انفاس رحیمیہ صفحہ ۱۸ میں شاہ ولی اللہ (المتوفی ۱۱۷۶ھ) کے

والد اور شاہ عبدالعزیز (المتوفی ۱۲۳۹ھ) کے دادا شاہ عبدالرحیم (المتوفی ۱۱۳۱ھ) فرماتے ہیں اور رحمت کاملہ نازل ہو اس ذات پر جو اللہ تعالیٰ کے مظہر اتم و اکمل ہیں اور اس کے حسن و جمال کی جلوہ گاہ ہیں جن کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صفحہ ۲۱ پر لکھتے ہیں بہترین تحفے اس کے حبیب پر جو اللہ تعالیٰ کے جمال و کمال کا آئینہ ہیں اور اس کے خزان بخشش کی کنجی ہیں“

☆..... امام رازی تفسیر کبیر صفحہ ۶۸۷، ۶۸۸ جلد پنجم میں لکھتے ہیں:- ”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کی زبان اقدس پر فرمایا میرا بندہ میری طرف کسی چیز کے ذریعہ وہ نزدیکی حاصل نہیں کرتا جو ادائے فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعہ وہ ہمیشہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان اور آنکھ اور زبان اور دل اور ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے مجھ سے بولتا ہے اور مجھ سے چلتا ہے اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان بندگان مقربین بارگاہ ایزدی کی آنکھوں، کانوں بلکہ تمام اعضا میں غیر اللہ کے لئے کوئی حصہ باقی نہ رہا اس لئے اگر یہاں اللہ تعالیٰ کے غیر کے لئے کوئی حصہ باقی رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہ فرماتا کہ میں اس کی سمع و بصر ہو جاتا ہوں اور اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے درخیر جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا تھا اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت علی کی نظر عالم اجساد سے منقطع ہو چکی تھی اور ملکی قوتوں نے حضرت علی کو عالم کبریا کے نور سے چکا دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی روح قوی ہو کر ارواح ملکیت کے جواہر سے مشابہ ہو گئی تھی اور اس میں عالم

قدس و عظمت کے انوار چمکنے لگے تھے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہ قدرت حاصل ہوگئی جو ان کے غیر کو حاصل نہ تھی اور اسی طرح جب کوئی بندہ نیکیوں پر پیشگی اختیار کرتا ہے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کُنْتُ لَكَ سَمْعًا وَبَصْرًا فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کی سمع ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک آواز کو سن لیتا ہے اور جب یہی نور اس کی بصر ہو گیا تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو گیا تو یہ بندہ مشکل اور آسان دور و نزدیک کی چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے“

☆..... تفسیر روح المعانی پارہ ۲۱ صفحہ ۱۰۲ میں ہے عارفین نے ذکر کیا ہے کہ قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ میں اللہ کے لئے اللہ کے ساتھ اللہ سے سنتے ہیں اور وہ سمع انسانی کے ساتھ نہیں بلکہ سمع ربانی کے ساتھ سنتے ہیں جیسا کہ حدیث قدسی کنت سمعہ الذی یسمع بہ میں وارد ہے۔

☆..... البواقیت و الجواہر صفحہ ۱۲۵ جلد اول میں ہے:- ”اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ جب وہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو وہ اس کی سمع و بصر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصر کا مظہر بن جاتا ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو جنہیں وہ چاہتا ہے ان میں اپنی وہ یکل صفات جن کا مظہر ہونا بندہ کے حق میں شرعاً و عقلاً ممکن ہے جمع کر دیتا ہے اور کبھی بعض صفات عطا فرماتا ہے اور درجہ بدرجہ تھوڑی تھوڑی صفات عطا فرماتا رہتا ہے“

سوال :- زبانی دعویٰ قبول نہیں حضور ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا کوئی ثبوت بھی ہے؟

حضور ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کی پہلی قرآنی دلیل

ارشاد خداوندی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محبوب مگر رحمت عالمین (ماسوائے اللہ) کے لئے۔

☆..... روح المعانی پارہ ۷ صفحہ ۹۶ اسی آیت کے تحت ہے (ترجمہ) عالمین (ماسوائے اللہ) کے لئے حضور علیہ السلام کا رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حضور علیہ السلام کل ممکنات پر ان کی قابلیت و استعداد کے موافق فیض الہی کا واسطہ عظمیٰ ہیں۔ اس لئے کہ حضور کا نور پہلی مخلوق ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر سب اشیاء سے پہلے خدا تعالیٰ نے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور حضرات صوفیاء کرام کا کلام اس بیان میں ہمارے کلام سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔

☆..... تفسیر عرأس البیان صفحہ ۵۲ جلد دوم ”اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محبوب مگر رحمت تمام جہانوں کے لئے“ اے صاحب فہم و خرد! اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا کہ خالق کائنات نے اپنی کل مخلوقات میں جو چیز سب سے پہلے پیدا کی وہ حضور کا نور مبارک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ایک جزو سے عرش تا فرش تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا لہذا عدم سے مشاہدہ قدم کی طرف ان کا بھیجنا جمیع مخلوقات کے لئے رحمت ہے کیونکہ سب کا صدور و ظہور انہی کے نور سے ہے لہذا ان کا ہونا مخلوق کا ہونا ہے اور ان کا موجود ہونا وجود خلق کا موجب ہے اور ان کا وجود مبارک جمیع خلایق پر

اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے اس لئے کہ سب کے وجود کا سبب وہی ہیں لہذا وہ ایسی رحمت ہیں جو سب کے لئے کافی ہیں اور اسی آیت رحمت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ قضاء قدرت میں تمام مخلوقات صورت مخلوقہ کی طرح بے جان اور بغیر روح حقیقی کے پڑی ہوئی حضور کی تشریف آوری کا انتظار کر رہی تھی جب حضور عالم میں تشریف لائے تو تمام عالم وجود محمدی سے زندہ گیا اس لئے کہ تمام مخلوقات کی روح حضور ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لئے۔ یہی مضمون تفسیر روح البیان پارہ ۷ جلد پنجم میں بھی درج ہے۔

ثابت ہوا کہ تمام افراد ممکنات کے ساتھ حضور علیہ السلام کا رابطہ اور تعلق ہے جس کے بغیر وصول فیض ممکن نہیں جب سب کا رابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو حضور ﷺ کسی سے دور نہیں نہ کسی فرد ممکن سے بے خبر ہیں جب وہ رحمۃ للعالمین ہونے کی وجہ سے روح دو عالم ہیں تو عکس طرح ممکن ہے کہ عالم کا کوئی فرد یا جزو اس روح مقدسہ سے خالی ہو جائے لہذا اماننا پڑے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہو کر روح کائنات ہیں اور عالم کے ہر ذرہ میں روحانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے چمک رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی یہ جلوہ گری علم و ادراک اور نظر و بصر سے معزّی ہو کر نہیں ہو سکتی کیونکہ روحانیت و نورانیت ہی اصل ادراک اور حقیقت نظر و بصر ہے لہذا آیت قرآنی سے ثابت ہو گیا کہ عرش سے فرش تک تمام مخلوقات و ممکنات کے حقائق لطیفہ پر حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ رحمت بمعنی رَاحِمًا للعلمین :- تفسیر روح المعانی صفحہ ۹۵ پارہ ۷ اسی آیت کے تحت ہے کہ حضور رَاحِمًا للعلمین ہیں حضور راحم اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ حضور کی

رحمت کا محتاج ہے۔ راجحاً فرمانے والے کے لئے زندہ، بااختیار، قریب ہونا لازمی ہے اس آیت سے ثابت ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر شے کے قریب اور حاضر و ناظر ہیں۔ (ازافاضات غزالی زماں کاظمی رحمة اللہ علیہ)

☆..... حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مقدسہ پوری کائنات میں موجیں مار رہی ہے اس لئے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔ (ملخصاً)

☆..... جواهر البحار صفحہ ۵۹ جلد سوم آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی دلیل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی دوسری قرآنی دلیل

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شاہد ہونا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ شاہد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں (تمام تفاسیر معتبرہ)۔

اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدٌ كَمَا مَعَانِي حَاضِرٌ وَنَاطِرٌ، مشاہدہ فرمانے والا، گواہ کیونکہ روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی عینی گواہی پر فیصلہ ہوگا جس پر کفار بھی خاموش ہو جائیں گے اور وہاں مان جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی عینی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولین و آخرین کے عینی گواہ ہیں شاہد کا ایک معنی محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے اور محبوب ہمیشہ محبت کے ذہن میں حاضر ہوتا ہے۔

سوال :- شاہد کا معنی حاضر و ناظر تمہارے احمد رضا خاں بریلوی کی ایجاد ہے۔

(سرفراز گلکھڑوی)

جواب :- یہ مولانا احمد رضا خاں کی ایجاد نہیں کھولو مفردات امام راغب اصفہانی صفحہ ۲۶۹ میں لکھا ہے حضور علیہ السلام بصیر یا بصیرت کے ساتھ مشاہدہ فرماتے ہوئے حاضر و ناظر ہیں۔

دیکھو زرقانی علی المواہب صفحہ ۱۳۲ جلد سوم (الشاہد) العالم او المطلع الحاضر من الشهود الحضور كما قال الله تعالى اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مَّوَاهِب لَدُنِيهِ مترجم صفحہ ۱۸۸ جلد دوم امام قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں اور آپ کا اسم شریف شاہد ہے اس کا معنی عالم ہے یا اس کا معنی مطلع حاضر ہے۔

☆..... جواهر البحار صفحہ ۲۵ جلد سوم حضور علی الدوام شاہد بمعنی حاضر و ناظر ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں ایسا ہی صفحہ ۳۶۰ جلد سوم میں بھی ہے۔

☆..... جواهر البحار صفحہ ۲۶۳ جلد سوم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی ہر شے کے بصیر معائنہ فرمانے والے ہیں۔

سوال :- اس سے ہر جگہ حاضر و ناظر کیسے ثابت ہوئے؟

جواب :- کچھ حوالے گذر چکے مزید حوالے ملاحظہ ہوں۔

☆..... تفسیر ابو السعود صفحہ ۷۹۰ جلد ششم :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے غیب کی خبریں دینے والے (نبی) بے شک ہم نے آپ کو شاہد (حاضر و ناظر) بنا کر ان سب پر جن کی طرف آپ بھیجے گئے آپ ان

کے احوال کی نگہبانی فرماتے ہیں اور ان کے اعمال مشاہدہ فرماتے ہیں یعنی ان سب کے کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر آپ ان کے گواہ بنتے ہیں جو ان سے صادر ہوئیں تصدیق سے اور تکذیب سے۔

☆..... بیضاوی شریف صفحہ ۱۹۷ جلد دوم:- شاہد ان چیزوں کے جن کی طرف آپ مبعوث فرمائے گئے۔

☆..... تفسیر مدارک صفحہ ۲۳۵ جلد دوم:- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آپ جن کی طرف مبعوث فرمائے گئے ان کے مشاہدہ فرمانے والے حاضر و ناظر ہیں۔

☆..... تفسیر جلالین صفحہ ۲۵۳:- آپ حاضر و ناظر ہیں جن کی طرف آپ بھیجے گئے۔
شاهد اعلیٰ من ارسلت الیہم

☆..... تفسیر جمل صفحہ ۲۲۲ جلد چہارم:- شاهد اعلیٰ من ارسلت الیہم

☆..... روح المعانی صفحہ ۲۲ پارہ ۲۲ انا ارسلناک شاهداً علی من بعثت الیہم اور اس قسم کی عبارت تفسیر کبیر جز ۲۵ جلد ۹ صفحہ ۷۳ طبع مکتبہ علوم اسلامیہ لاہور پر بھی موجود ہے۔

☆..... زرقانی علی المواہب صفحہ ۱۳۲ جلد سوم:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم

حاضر و ناظر اس کے ہیں جس کی طرف آپ مبعوث ہوئے ان تفاسیر معتبرہ کے حوالہ جات سے ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر حاضر و ناظر ہیں جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں صحیح مسلم صفحہ ۱۹۹ جلد اول میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق كافة میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ان عبارات کو حدیث مذکورہ سے ملانے سے ثابت ہوا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی تمام مخلوق کے علی الدوام حاضر و ناظر ہیں اس لئے شیخ محقق حاشیہ اخبار الاخیار صفحہ ۱۵۵ میں اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں:-

”امت میں کثیر اختلافات کے باوجود حضور علیہ السلام کے زندہ اور حاضر و ناظر کے مسئلہ پر امت میں کوئی اختلاف نہیں۔ معلوم ہوا مولویوں نے آج کل یہ مسئلہ اختلافی بنا دیا اور نہ شیخ محقق کے دور تک یہ مسئلہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اجماعی و اتفاقی تھا۔ امام فخر الدین رازی نے کلمہ من عقلا و غیر عقلا کے لئے عام رکھا ہے اسی طرح من ارسلت الیہم میں کلمہ من عقلا و غیر عقلا سب کو شامل ہے اور ارسلت الی الخلق کافہ میں جتنے افراد ہیں من ارسلت ان سب کو حاوی ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ جس کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں اس پر آپ حاضر و ناظر بھی ضرور ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کل مخلوق کی طرف ہے لہذا آپ حاضر و ناظر بھی کل مخلوق پر ہیں۔ (ازافادات غزالی زماں)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی تیسری قرآنی دلیل

سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو **سِرَاجًا مُنِيرًا** فرمایا سراج کا ایک معنی چراغ ہے جیسا ماحول ہوگا چراغ بھی ویسا ہی ہوگا کوئی کسی چھوٹے کمرے کا چراغ ہوگا کوئی بڑے ہال کا چراغ ہوگا کوئی پورے گھر کا چراغ ہوگا کوئی پورے شہر کا چراغ ہوگا اور کوئی پورے ملک کا چراغ ہوگا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمین کے چراغ ہیں **لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا** میرے آقا سراج منیر ہیں تو سمجھ لو میرے آقا فرش پر ہوں تو ان کی روشنی عرش پر جاتی ہے اگر وہ مدینے کا چراغ عرش پر

ہے تو اس کی روشنی فرش تک جاری ہے اگر وہ چراغ مکان میں ہے تو اس کی روشنی لامکاں تک جاری ہے اور اگر وہ لامکاں میں ہے تو ہر مکان تک اس کی روشنی جاری ہے تو جہاں اس کی روشنی ہے وہاں وہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود و حاضر و ناظر ہیں اور جب موجود ہیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے بغیر کائنات زندہ رہ سکے۔

بِرَجَائِنِيذًا كَادُوسًا مَعْنَى جَمَلًا وَمَلَكًا آفَتَابَ هِيَ۔ (کنز الایمان)

دنیا کا سورج ایک وقت میں آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے مگر اس آفتاب نبوت سے عالمین علی الدوام (ہمیشہ) منور ہیں اور منور رہیں گے مدینہ میں رہ کر پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔

مہتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب اپنی معرکہ الآراء تصنیف آفتاب نبوت صفحہ ۱۲۲

میں لکھا ہے ”بعض طبقات آفتاب نبوت کی تعلیم و تربیت سے ہر جہتی حیثیت سے منور

ہو کر نور مجسم اور مظہر آفتاب بن گئے جیسے صحابہ کرام، بعض نے ظاہر و باطن دونوں کو

یکسانی کے ساتھ منور کیا اور مظہر نور آفتاب بن گئے جیسے آئمہ اور راہنما فی العلم، بعض

کے باطن نے زیادہ اثر لیا مگر ظاہر زیادہ نہ چمک سکا اور وہ مظہر ضیاء آفتاب بن گئے

جیسے ارباب علم و معرفت، بعض کے باطن نے کم اثر لیا مگر ظاہر زیادہ روشن ہو کر نمایاں

ہوا اور آفتاب کی ظاہری چمک دمک کا مظہر بن گئے جیسے عوام مؤمنین اور بعض نے

باطن کو یکسر بند کر کے محض ظاہر کو صورت چمک سے آراستہ دکھلانے کی کوشش کی اور وہ

مناقضین ہیں، بعض ظاہر و باطن دونوں کے لحاظ سے محروم اور تاریک رہے اور انہیں

مظہریت کی کوئی نسبت بھی حاصل نہ ہوئی جیسے کفار و مشرکین۔“ صفحہ ۲۰۴ پر لکھا ”ہم

اور تم مؤمن کہلاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس آفتاب نبوت کی (آفتاب ایمان)

دھوپ ہم پر پڑی ہوئی ہے تو ہم اور تم مؤمن کہلانے لگے“ (معلوم ہوا ایمان بغیر حضور

ﷺ کو حاضر و ناظر مانے نہیں ملتا) کوئی اپنے عالم کی بات نہ مانے تو میں کیا کروں صفحہ ۲۳۹ پر لکھا ”غرض بشری ازل سے بشری ابد تک اولیت کے ساتھ اور خاتمیت کے ساتھ یہی نور چمکتا رہا اور چمکتا رہے گا نہ اس کے لئے انتہا ہے نہ اختتام اور اسی کے فیضان سے کائنات چمکتی رہی اور مختلف روپوں میں چمکتی رہے گی“ صفحہ ۱۳۷ پر مہتمم دیوبند یہ بات (پس یہ آفتاب نبوت گویا اولین و آخرین کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت موجود اور جانا پہچانا) لکھ کر ایک سطر بعد دورنگی اور منافقانہ علت کا شکار ہو گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی چوتھی قرآنی دلیل

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اس آیت میں تین خاص باتیں ہیں۔

- ۱۔ گنہگار حضور ﷺ کے پاس حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں۔
- ۲۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے لئے شفاعت فرمائیں۔
- ۳۔ اس کے بعد اللہ کو تواب اور رحیم پاؤ گے۔

یہ حکم ابدی دائمی ہے۔

ملاحظہ ہوں۔ کتب دیوبند آب حیات مصنفہ بانی دیوبند، تسکین الصدور صفحہ ۳۵۴ مصنفہ سرفراز گلکھڑوی، رحمت کائنات صفحہ ۲۹۰ از زاہد الحسنی دیوبندی، تفسیر معارف القرآن صفحہ ۲۵۹ جلد دوم طبع کراچی از مفتی محمد شفیع دیوبندی۔

دیوبندی کتب کے حوالہ جات سے بھی ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضری کا حکم آج بھی اسی طرح ہے تو پھر ایک مؤمن کس طرح حاضر ہو؟ قرآن نے یہ عقدہ

اس طرح حل فرمایا نبی ﷺ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب (اولیٰ) ہے خدا نے نبی ﷺ کو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا فرمایا اے مومنو یہ فکر نہ کرو کہ ہم کیسے حاضر ہوں گے تمہیں تو تردد تب ہو کہ میرا محبوب ﷺ تم سے دور ہواے مومن اپنے آپ کو حضور ﷺ سے بعید تصور نہ کر بلکہ یہ سمجھ کہ وہ میرے قریب اور ہمیشہ حاضر و ناظر ہیں اور میں ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں جہاں سے بھی استغفار کر لیا وہیں حضور ﷺ نے خدا داد طاقت سے سن لیا اور شفاعت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کو تَوَابًا رَحِيمًا پالیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی پانچویں قرآنی دلیل

ارشاد خداوندی ہے النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اس آیت کے مفسرین نے متعدد معانی لکھے ہیں۔

۱۔ خاص نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی ان کو زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا ہے۔

۲۔ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔

۳۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔

سوال ۱۰۔ کیا علمائے دیوبند نے بھی تیسرے معانی کسی کتاب میں لکھے ہیں۔

جواب ۱۰۔ جی ہاں! ضرور لکھے ہیں۔

۱۔ بانی دارالعلوم دیوبند کی تحذیر الناس صفحہ ۱۰ میں لکھا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے

بھی زیادہ قریب ہے یہاں اُولیٰ بمعنی اقرب (زیادہ قریب) ہے۔

ii۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی آب حیات صفحہ ۵۸ میں لکھا ہے۔
 النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ کے یہ معنی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 زیادہ نزدیک ہے مومنوں سے بہ نسبت ان کی جانوں کے اعمیٰ ان کی جانیں ان سے
 اتنی نزدیک نہیں جتنا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے نزدیک ہے اصل معنی
 اَوْلَىٰ کے اقرب (زیادہ قریب) ہیں۔

iii۔ آب حیات صفحہ ۸۴ میں لکھا۔ اَوْلَىٰ کے صلہ میں اس آیت میں لفظ مِنْ أَنفُسِهِمْ
 واقع ہے اور مِنْ أَنفُسِهِمْ کی ضمیر مومنین کی طرف راجع ہے تو اب یہ معنی ہوئے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی نسبت ان کی جانوں سے بھی زیادہ
 نزدیک ہیں چند سطور بعد لکھا۔

iv۔ مِنْ أَنفُسِهِمْ کی ضمیر مومنین کی طرف راجع ہے تو یہ معنی ہوئے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم مومنین کی نسبت ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں مگر اس قدر
 قرب کہ قریب کو اپنے مضاف الیہ کے ساتھ اس کی ذات سے بھی زیادہ قرب ہو۔

v۔ آب حیات صفحہ ۱۲۷، از نانوتوی۔ بالجملہ آیت کریمہ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
 أَنفُسِهِمْ کی کل تین تفسیریں ہیں ایک اقرب الی المؤمنین من انفسہم (مومنوں
 کی جانوں سے بھی زیادہ قریب) دوسری احب الی المؤمنین من انفسہم (مومنوں
 کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارے) تیسری اَوْلَىٰ بالتصرف فی المؤمنین من
 انفسہم ان تینوں تفسیروں کو غور سے دیکھئے تو دواخیر کی تفسیریں ایک اول (نبی ﷺ
 مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں) ہی کی تفسیر کی طرف راجع ہیں۔

vi- مہتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب نے آفتاب نبوت صفحہ ۲۰۵ میں لکھا ہم خود اپنے سے اتنے قریب نہیں جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے قریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنے قریب نکلے کہ ہم خود بھی اپنے سے اتنے قریب نہیں۔۔۔ پس مؤمن اپنے وجود میں خود اپنے سے اتنا نزدیک نہیں کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ فرمایا
النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اب جو فتویٰ بھی لگانا ہو اپنے اکابرین پر لگاؤ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی چھٹی قرآنی دلیل

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور ﷺ کی ایک شان **وَيُزَكِّيهِمْ** (یعنی مؤمنوں کو پاک فرمانے والے) بیان فرمائی جب پاک کرنے والے رسول ﷺ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک ہونے والے سے پاک کرنے والا دور ہو پلید کپڑا جب پاک ہوگا جب پانی کے قریب ہو جب تک حضور ﷺ مؤمن کے دل میں جلوہ گر نہ ہو جائیں مؤمن پاک ہو ہی نہیں سکتا پاک کرنا تو آپ کا منصب ہے پاک کرنے کے لئے تو آپ تشریف لائے ہیں جو اپنے آپ کو حضور ﷺ سے دور سمجھے وہ پاکی سے محروم رہے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی ساتویں قرآنی دلیل

ارشاد حق ہے **وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ** یقین سے جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں (تمہاری جانوں سے زیادہ) قریب) موجود ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی آٹھویں قرآنی دلیل

ارشاد خداوندی ہے۔ **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ**

جَاءَكُمْ فِي قِيَامَتِكُمْ كَمَا كُنْتُمْ فِي حَيَاتِكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَشْرِيفًا لَائِي هِيَ مُسْلِمَانِ عَالَمٍ فِي هَرَجَلَةٍ هِيَ تَوْ حَضُورِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهِي هَرَجَلَةٍ مَوْجُودِ هِيَ۔ دَوْمِ يَهْ فَرَمَا يَأْ كَمَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَهْمَارِي جَانُورِي فِي سَعِي ان كَا آ نَا تَمْ فِي مِي اِي سَا هِي جِي سِي جَان كَا قَالِب فِي مِي آ نَا كَه قَالِب كِي رِگ رِگ اُور رُونِگُتِي رُونِگُتِي فِي مَوْجُودِ اُور هَرَا يَكْت سَعِي خَبْر دَار رَهْتِي هِي اِي سِي هِي حَضُورِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَر مَوْ مَن كَه هَر فَعْل سَعِي بَا خَبْر هِي۔ تِي سَرِي يَه فَرَمَا يَأْ كَمَا كَه عَزِي زُ عَلَيْهِ مَا عِنْتُمْ اِن پَر تَهْمَارَا مَشَقْت فِي پُرْنَا كَرَا اِن هِي جَس سَعِي مَعْلُوم هُوَا كَه هِمَارِي رَا حْت وَ تَكْلِيْف كِي هَر وَ قْت حَضُورِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو خَبْر هِي تَب هِي تَوْ هِمَارِي تَكْلِيْف سَعِي قَلْب اِقْدَس كُو تَكْلِيْف هُوْتِي هِي اَكْر هِمَارِي خَبْر نَه هُو تَوْ تَكْلِيْف كِي سِي۔

نویں قرآنی دلیل

رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ حَضُورِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدَا كِي رَحْمَت اُور رَحْمَت جِهَانُورِي كُو مَحِيْط لِهَذَا حَضُورِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَانُورِي كُو مَحِيْط۔

دسویں قرآنی دلیل

مَسْحُ كَا عَذَاب كِي وَ هِي اِن مِي مَوْجُودِ اُور حَاضِر هِي۔

گنیارہویں قرآنی دلیل

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دُوسَرِي جَكَه فَرَمَا يَأْ وَ جُنَاكْ عَلِي هُوَا شَهِيْدًا اِن دُو آيَات فِي حَضُورِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو شَهِيْد فَرَمَا يَأْ جَس كَه مَعْنِي عِيْنِي كُوَا ه

اور حاضر کے ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تفسیر عزیزی پارہ دوم زیر آیت

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

نماز میں السلام علیک ایہا النبی کہنے کا راز

حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے اللہ تعالیٰ کے دربار سے کسی وقت جدا نہیں ہوتے نماز مومن کی معراج یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری ہے تو نمازی کو حکم دیا گیا کہ جب تو دربار الہی میں حاضر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود سمجھ کر خطاب و ندا کے ساتھ انہیں مخاطب کر کے السلام علیک ایہا النبی کے الفاظ سے ان کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کر۔

☆..... المیزان الكبرى صفحہ ۱۳۵ جلد اول طبع مصر میں ہے نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا حکم صرف اس لئے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنے والے غافلوں کو اس بات پر تنبیہ فرمادے کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں اس بارگاہ میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں اس لئے وہ دربار خداوندی سے کبھی جدا نہیں ہوتے پس نمازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ (رو برو) سلام کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔

☆..... فتح الباری شرح بخاری صفحہ ۲۵۰ جلد دوم طبع مصر نمازیوں نے حبیب کے حرم میں حبیب کو موجود پایا یعنی دربار خداوندی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں

ان مولوی محمد حنیف گنگوہی دیوبندی لکھتے ہیں:- شہادت، گواہی دینا شریعت میں کسی حال کی خبر دینے کو کہتے ہیں جو اٹکل اور گمان سے نہ ہو بلکہ چشم دید ہو۔

(الصباح النوری صفحہ ۲۸۶ جلد دوم طبع ملتان) ابوالجلیل فیضی غفرلہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی السلام علیک ایہا النبی کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسا ہی عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ ۱۱۱ جلد ششم، مواہب اللدنیہ صفحہ ۲۳۰ جلد دوم، زرقانی علی المواہب صفحہ ۳۳۰ جلد ہفتم، زرقانی شرح مؤطا امام مالک صفحہ ۷۱ جلد اول سعایہ صفحہ ۲۲۷ جلد دوم، فتح الملہم شرح مسلم (شیر احمد عثمانی دیوبندی) صفحہ ۱۲۳ جلد دوم، اوجز المسالک صفحہ ۲۶۵ جلد اول (مولوی محمد زکریا سہارن پوری دیوبندی) سب علامہ یک زبان کہہ رہے ہیں حرم حبیب میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حاضر ہیں جہاں بھی نماز پڑھو وہاں خدا موجود اور اللہ کی عطا کردہ صفت سے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر اور موجود ہیں۔

☆..... السعایہ فی کشف مافی شرح الوقایہ صفحہ ۲۲۸ جلد دوم از مولوی عبدالحی لکھنوی (المتوفی ۱۳۰۲ھ) میں ہے:- میرے والد (علامہ عبدالحلیم لکھنوی) نے اپنے رسالہ نور الایمان بزیارت حبیب الرحمن میں فرمایا التحیات میں السلام علیک ایہا النبی کہنے کا راز یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں جاری و ساری اور ہر بندہ کے باطن میں حاضر و موجود ہے اس حالت کا پورا انکشاف بحالت نماز ہوتا ہے لہذا محل خطاب حاصل ہو گیا اور بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ بندہ جب ثناء الہی سے مشرف ہوا تو اسے حرم الہی کے حریم میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی اور اس کی بصیرت کو خوب روشن کر دیا گیا حتیٰ کہ اس نے حرم حبیب میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر پایا فوراً ان کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی (المتوفی

۱۰۵۲ھ) اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ صفحہ ۲۰۱ جلد اول میں لکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مؤمنوں کا نصب العین اور عابدوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں تمام احوال و واقعات میں خصوصاً حالت عبادت میں اور اس کے آخر میں کہ نورانیت اور انکشاف کا وجود اس مقام میں بہت زیادہ اور نہایت قوی ہوتا ہے اور بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ تمام موجودات کے ذرات اور افراد کے ممکنات میں جاری و ساری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں لہذا نمازی کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حاضر ہونے سے غافل نہ ہوتا کہ انوار قرب اور اسرار معرفت سے روشن اور فیض یاب ہو۔ بعینہ یہی بات تیسیر القاری شرح صحیح البخاری صفحہ ۲۸۱ اور ۲۷۲، ۲۷۳ جلد اول میں موجود ہے اور مسک الختام شرح بلوغ المرام صفحہ ۲۲۲ مصنفہ صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد میں ہے۔ اخلاق جلالی صفحہ ۲۵۶، ۲۵۷ کا خلاصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل اول اور قلم اعلیٰ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوہر بسیط نورانی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے حقائق لطیفہ کے جامع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ (غیب الغیب) کے عالم ہیں اور تمام موجودات و مخلوقات ان کے جمیع احوال کو تمام و کمال جانتے ہیں ماضی حال مستقبل میں کوئی شے کسی حال میں حضور سے مخفی نہیں تمام موجودات خارجیہ کا ظہور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے حتیٰ کہ ترتیب ظہور بھی وہی ہے جو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں

مستور ہے۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی ایسی روشن وقوی دلیل ہے جس کا انکار کسی گمراہ اور کور باطن کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ (افادات از غزالی زماں) سوال :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے حاضر کا صیغہ چھوڑ دیا۔

جواب :- مرقاۃ شرح مشکوٰۃ صفحہ ۵۵۸ جلد اول میں ہے اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں پڑھتے تھے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح یعنی السلام علیک ایہا النبی پڑھتے رہے۔ عرف شذی میں شرح منہاج سے امام سبکی کا قول نقل کیا ہے جمہور صحابہ کرام حیات و بعد وصال دونوں حالتوں میں السلام علیک ایہا النبی پڑھتے تھے۔

۱۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قرآن مجید کی طرح اس تشہد کی تعلیم دی جو آج تک پڑھا جا رہا ہے یعنی السلام علیک ایہا النبی ملاحظہ ہو۔ مسلم صفحہ ۴۷۱ جلد اول طبع کراچی اور یہ بھی کہیں منقول نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہو کہ میرے وصال کے بعد اس کو بذل لینا۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین جب حیات مبارکہ میں السلام علیک ایہا النبی پڑھا جاتا تھا تو کیا تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے تھے یا کچھ سفر و حضر میں جنگ و صلح میں، مکہ شریف میں، طائف شریف میں، خیبر وغیرہ کے علاقوں میں رہائش پذیر تھے یا نہیں؟ یقیناً تھے اور نماز میں السلام علیک ایہا النبی پڑھتے تھے تو منکرین حاضر و ناظر رسول ﷺ سے سوال ہے کہ اس وقت حاضر و ناظر تھے یا نہیں؟ باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر

سوال :- یہ سلام واقعہ معراج کی حکایت ہے۔

جواب :- ☆..... انور شاہ کشمیری محدث دیوبند عرف شذی صفحہ ۱۳۹ میں حکایت معراج والی روایت کو بے سند لکھتے ہیں تمہیں پیش کرنے کا حق نہیں۔

☆..... جہاں علی سبیل الحکایت ہونا وارد ہے وہاں مجرد حکایت مراد نہیں بلکہ حکایت علی طریق الانشاء مراد ہے۔

☆..... در مختار صفحہ ۶۷۶ جلد اول میں ہے نمازی الفاظ تشہد سے ان کا معنی کا قصد کرے جو اس کی مراد ہیں اور یہ قصد علی وجہ الانشاء ہو گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کر رہا ہے اور اپنے نبی ﷺ پر اور خود اپنی ذات پر اور اولیاء اللہ پر سلام پیش کر رہا ہے اخبار اور حکایت سلام کی نیت ہرگز نہ کرے اس کو مجتہبی میں ذکر کیا اور اس کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ علینا کی ضمیر تمام حاضرین کے لئے ہے سلام تشہد بہ نیت انشاء کہا جائے اللہ تعالیٰ کے سلام کی نقل و حکایت کا ارادہ قطعاً نہ ہو۔

☆..... رد المحتار صفحہ ۶۷۶ جلد اول میں اسی کے تحت ہے نمازی تشہد میں واقعہ معراج کی نقل و حکایت کا ارادہ نہ کرے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ :- بر تقدیر تسلیم حاضر و ناظر تھے تو تم بقول خود مشرک ہو اس لئے کہ تمہارے مذہب میں حضور اکرم ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا شرک ہے۔ شرک تو ہر صورت میں شرک ہوتا ہے۔ چاہے وہ حیات مبارکہ میں ہو یا بعد از وصال اور بر تقدیر ثانی یعنی حاضر و ناظر نہیں تھے تو پھر السلام علیک کو السلام علی النبی پڑھنا بے فائدہ ہوگا ماننا پڑے گا حضور سرور کائنات ﷺ جس طرح حیات طیبہ میں حاضر و ناظر تھے اسی طرح آج بھی حاضر و ناظر (روحانی اور نورانی طور پر) ہیں۔

ابوالجلیل فیضی غفرلہ

☆..... عالمگیری صفحہ ۳۷۷ جلد اول میں ہے نمازی کے لئے الفاظ تشہد کے معانی موضوعہ کا اپنی طرف سے بطور انشاء مراد لینا اور ان کا قصد کرنا ضروری ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تحفے پیش کر رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ذات و اولیاء صالحین پر سلام عرض کر رہا ہے۔

الدر المنتقى فی شرح الملتقى صفحہ ۱۰۱ جلد اول میں ہے الفاظ تشہد سے انشاء کا قصد کرنا ضروری ہے۔

☆..... مراقی الفلاح صفحہ ۱۵۵ میں قصد انشاء کو ضروری قرار دے کر آخر میں لکھا نمازی کی یہ نیت انشاء سلام اس قول کے خلاف ضروری ہونی چاہیے جو بعض لوگوں (منکرین کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہہ دیا ہے کہ حکایت سلام کہے۔

ذیوبندیوں کی کتاب اوجز المسالک صفحہ ۲۶۵ جلد اول میں ہے یہ ضروری ہے کہ اس وقت نمازی ان الفاظ سے انشاء سلام کا قصد کرے مجرد حکایت کا ارادہ ہرگز نہ ہو۔ علامہ شامی نے فرمایا کہ نمازی الفاظ تشہد سے ان کے مرادی معنی کا انشاء کے طریقے پر قصد کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تحفے پیش کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ذات و صالحین پر سلام عرض کر رہا ہے اور اس واقعہ کی نقل و حکایت کا بالکل ارادہ نہ کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں واقع ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ خطاب کی توجیہ میں مشائخ کے تین قول ہیں مجرد اتباع، حبیب کا حریم حبیب میں حاضر ہونا انشاء کے طریق پر واقعہ معراج کی حکایت کرنا۔

(افادات از علامہ غزالی زماں رحمة اللہ علیہ)

نوٹ ضروری :- جہاں کہیں نمازی نے نماز کی نیت باندھی فوراً دربار الہی میں حاضر ہو گیا اور جب وہ حریم ذات میں پہنچا تو حبیب کی حریم میں حبیب کو حاضر پایا یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور علیہ السلام حاضر ملے تو صاف ظاہر ہو گیا حضور کسی سے دور نہیں۔

سوال :- پھر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کیوں نہیں آتے۔ (عام دیوبندی)
 جواب :- یہ ہماری نظر کا قصور جن اہل بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا فرمایا ہے وہ دیکھتے ہیں ہمیں لازم ہے کہ اگر خود دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو دیکھنے والے کی بات مان لیں۔

الحاوی للفتاویٰ صفحہ ۳۱۲ جلد دوم طبع ملتان میں شیخ ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد درج ہے کہ اگر پلک جھپکنے کی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوشیدہ ہو جائیں میں اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔

مجموعہ فوائد عثمانی بنظر ثانی حسین علی پھروی دیوبندی میں ہے :-

کہ پیر سواگ کے پیر خواجہ محمد عثمان درود یوار حجر و شجر بلکہ ساری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ جظہ فرماتے تھے۔

خواجہ فرید فرماتے ہیں کہ :- محبوب ہر دم فرید دے کول ہے۔

۱: الطبقات الكبرى للشعرانی صفحہ ۱۲ جلد دوم، جامع الکرامات الاولیاء
 للنبہانی صفحہ ۵۲ جلد اول، سعادت الدارین للنبہانی صفحہ ۲۶۸ جلد دوم، تفسیر
 روح المعانی صفحہ ۳۳، ۳۴، ۳۵ ج ۲۲۔
 ابوالجلیل فیضی غفرلہ

جواہر البحار صفحہ ۲۸۱ جلد دوم میں ہے اولیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی پوشیدہ نہیں رہتے۔

ضروری حوالہ:- جواہر البحار صفحہ ۱۱۱ جلد دوم میں ہے کہ شیخ علی الحلبي صاحب السيرة نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے ثبوت میں مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے۔ تعریف اهل الاسلام والايمان بان محمداً لا يخلوا منه مكان وزمان۔ یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مکان خالی نہیں۔

ضروری حوالہ:- الحاوی للفتاویٰ صفحہ ۲۳۷ تا ۲۶۰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے ثبوت میں مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے۔ تنویر الحلک فی امکان رؤیة النبی والملک۔ ارباب ذوق کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

سوال:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو تم امام بن کر حضور کی موجودگی میں نماز کیوں پڑھاتے ہو؟

جواب:- تنویر الحلک صفحہ ۲۲۵ میں ہے۔ مؤمنوں کی نمازوں کے حقیقی امام ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں مدینہ عالیہ میں تو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو کیا وہاں امام نہیں ہے اگر مدینہ میں امام بننا جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے

۱۔ آئینہ میں جمال مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ ابوالجلیل فیضی

نماز پڑھائی اصل امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باقی ان کے نائب اور خلیفہ ہیں جو امام حضور ﷺ کو اپنا امام نہیں مانتا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔

نگاہ رسول ﷺ :- ☆..... ماضی کے زمانہ کے واقعات کے بارے خدا نے فرمایا
الْمُتَرِّإِی الذِّی حَآجَرَ اِبْرٰهٖمَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس کو نہیں
دیکھا (یعنی دیکھا ہے) جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔

☆..... الْمُتَرِّإِی الذِّیْنَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ
نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی دیکھا ہے) جو (زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں) اپنے
گھروں سے نکلے۔

☆..... الْمُتَرِّکِیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ کیا آپ نے نہیں دیکھا (یعنی دیکھا ہے) کہ تمہارے
پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔

☆..... الْمُتَرِّکِیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا
آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا۔

سوال :- خدا تعالیٰ کفار کے بارے فرماتا ہے الْکٰفِرُوْا کَفَرُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرٰنٍ
کیا (معاذ اللہ) کفار بھی دیکھنے والے تھے؟

جواب :- کفار نے اپنے سے پہلے کفار کو ہلاک ہوتے نہ دیکھا تھا مگر فرمایا گیا کہ کیا نہ
دیکھا انہوں نے اس آیت میں ان کفار کے اجڑے ہوئے ملک اور تباہ شدہ مکانات کا
دیکھنا مراد ہے اور چونکہ کفار مکہ اپنے سفروں میں ان مقامات سے گذرتے تھے اس
لئے فرمایا گیا یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے ظاہر میں نہ دنیا کی سیاحت فرمائی اور کفار یہ بھی مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد کے اجڑے ہوئے ملکوں کو نہیں دیکھا اس لئے ماننا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے نور سے زمانہ ماضی کو دیکھتے ہیں۔

جواب :- الْمَذْبُورَاتُ میں رویت علمی مراد ہے اور الْكَتَرُ جو حضور کے لئے آیا ہے اس میں رویت علمی کے ساتھ رویت بصری بھی مراد ہے۔

سوال :- اگر ایسا ہے تو قرآن میں یہ کیوں ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ آپ غربی جانب نہ تھے آپ طور کی جانب نہیں تھے آپ شاہدین میں سے نہ تھے۔

جواب :- یہی جسمانی طور پر موجود اور حاضر و ناظر ہونے کی نفی ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت ذات اور نورانیت و روحانیت کے ساتھ حاضر و ناظر مانتے ہیں حوالہ ملاحظہ ہو تفسیر صاوی صفحہ ۲۱۹ جلد سوم طبع مصر میں انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے شارح جلالین امام احمد صاوی (المتوفی ۱۲۲۳ھ) لکھتے ہیں۔ هذا بالنظر للعالم الجسماني لاقامة الحجة على الخصم واما بالنظر للعالم الروحاني فهو حاضر رسالة كل رسول وما وقع له من لدن آدم الى ان ظهر بجسمه الشريف يعني یہ فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کی جگہ موجود نہ تھے جسمانی لحاظ سے ہے عالم روحانی کی حیثیت سے حضور علیہ السلام ہر رسول کی رسالت اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے جسمانی ظہور تک کے تمام واقعات پر حاضر اور موجود ہیں۔

سوال :- اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس موجود ہیں تو کیا تم صحابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟
(سرفراز گلکھڑوی)

جواب :- کاش! جاہل معترض نے صحابی کا معنی سمجھا ہوتا۔ اعلان نبوت کے بعد سے تا وصال ۲۳ سال کے عرصہ میں بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول دیکھنا اور ملاقات کرنا اور خاتمہ بالا ایمان ہونا صحابی ہونے کی لازمی شرط ہے جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بعینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا اور بعض بزرگوں نے بحالت بیداری سرکار کا دیدار کیا اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا مگر چونکہ یہ ملاقات ۲۳ سالہ دور کے بعد ہے اس لئے وہ صحابی نہیں۔ مخالف کہتے ہیں اسماعیل دہلوی کے ناخواندہ پیر نے بحالت بیداری دلی کی جامع مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اگر وہ صحابی نہیں بن گیا تو ہم کیسے صحابی ہو گئے؟

سوال :- حضور علیہ السلام کو بحالت بیداری دیکھنے کا بھی کوئی ثبوت ہے؟

جواب :- حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس لئے حضور علیہ السلام کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے جس کو چاہیں جہاں چاہیں دیدار سے مشرف فرمائیں۔

صحیح بخاری کتاب التعبير صفحہ ۱۰۳۵ جلد دوم مطبوعہ اصح المطابع میں ہے
عن ابی ہریرۃ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی یہ حدیث صحیح

مسلم کتاب الرؤیا صفحہ ۲۳۲ جلد دوم اور ابو داؤد صفحہ ۳۲۱ جلد دوم باب الرؤیا میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔

☆..... مولوی وحید الزمان غیر مقلد ابو داؤد مترجم مطبوعہ سعیدی صفحہ ۶۰۱ جلد سوم میں اسی حدیث کے تحت لکھتا ہے یہ حدیث اپنے معنی ظاہر پر محمول ہے جو آپ کو سوتے میں دیکھے گا وہ جاگتے میں بھی دیکھے گا ظاہر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے ابن ابی جرہ نے ابن عباس سے نقل کیا انہوں نے خواب میں آپ کو دیکھا پھر جاگ پر سوچ میں رہے کہ اب جاگتے میں کس طرح دیکھوں گا تو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے پاس انہوں نے وہ آئینہ نکال کر دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے ابن عباس نے جو اس میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک دکھائی دی اور اپنی صورت نہ دکھائی دی اور ایک جماعت صالحین سے منقول ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا پھر عالم بیداری میں دیکھا اور آپ سے مسائل دریافت کئے۔ یہ خلاصہ ہے اس تقریر کا جس کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاة الصعود میں لکھا ہے اس حدیث پر

☆..... حاشیہ شیخ محمد الشنوانی علی المختصر ابن ابی جمروہ طبع مصر صفحہ ۳۵۷ میں ہے۔ (ترجمہ) سادات صوفیاء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والا دار دنیا میں بحالت بیداری حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے اس وقت حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں

دیکھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھنے کا مشتاق ہو گیا اور اس کا یہ شوق حد سے متجاوز ہو گیا تو وہ حضور علیہ السلام کو بیداری میں ضرور دیکھ لے گا جیسا کہ اکثر اولیاء کرام کے لئے واقع ہوا ان میں سے شیخ ابوالعباس مرسی ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی حضور علیہ السلام سے اوچھل ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہ کروں اور اسی طرح سیدی ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتے تھے اور اسی طرح شیخ تیمی اور ہمارے شیخ برادی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک جانتے ہوئے کھلم کھلا دیکھا کرتے تھے۔

☆..... تفسیر روح المعانی پارہ ۲۲ میں ہے یہ حدیث من رانی فی المنام فسرانی فی اليقظة دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہ عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھ لے گا۔

۔۔۔۔۔ الفاظ حدیث عموم ہی کا فائدہ دیتے ہیں اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کے بغیر اپنی طرف سے خود بخود تخصیص کا دعویٰ کرے وہ متعصب ہے

۔۔۔۔۔ سلف سے خلف تک جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تھے انہوں نے بیداری میں دیکھا اور حضور علیہ السلام سے ایسی چیزوں کے متعلق سوال کیا جن میں وہ متردد تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشیاء میں تردد سے کشادگی کی خبر دی اور ان کے لئے ایسے وجوہ کی تصریح فرمادی جن سے وہ متردد امور بالکل کشادہ ہو جائیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بلا کم و کاست اسی طرح وہ امور واقع ہوئے۔

☆..... روح المعانی پارہ ۲۲ صفحہ ۳۳۔ (ترجمہ) بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیکھنا آپ کی وفات کے بعد اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینا امت محمدیہ کے بکثرت کا ملین کے لئے واقع ہوا ہے جیسا کہ شیخ سراج الدین بن الملقن نے طبقات الاولیاء میں فرمایا ہے اس کے بعد مفصل واقعہ نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے بیداری میں غوث پاک کے منہ میں لعاب دہن ڈالا شیخ خلیفہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سوتے جاگتے حضور علیہ السلام کو بکثرت دیکھنے والے تھے۔

☆..... روح المعانی پارہ ۲۲ صفحہ ۳۳، ۳۴ بحوالہ لطائف المنن میں ہے کسی شخص نے حضرت شیخ ابوالعباس مری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا یا سیدی آپ اس ہتھیلی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ فرمائیں اس لئے آپ بڑے شہروں میں گھومے ہیں اور بڑے مردان خدا سے آپ نے ملاقات کی ہے حضرت نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اس ہتھیلی سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا حضرت امام تاج الدین نے فرمایا کہ حضرت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پلک جھپکنے کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے حجاب میں ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں اور اس جیسی نقول کتب قوم میں بہت زیادہ ہیں۔

☆..... روح المعانی بحوالہ تنویر الحلیک ہے (ترجمہ) ان تمام نقول اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضور علیہ السلام اپنے جسم مبارک اور روح اقدس کے ساتھ زندہ ہیں اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطراف زمین اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہتے ہیں سیر اور تصرف فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ

وسلم اپنی اسی ہیئت مبارکہ کے ساتھ ہیں جس پر وفات سے پہلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز بدلی نہیں ہے اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری نظروں سے غائب کر دیے گئے ہیں جس طرح ملائکہ غائب کر دیے گئے ہیں حالانکہ وہ سب اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دکھا کر عزت و بزرگی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس سے حجاب کو دور کر دیتا ہے اور وہ مقرب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ہیئت پر دیکھ لیتا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہیں اس روایت سے کوئی چیز مانع نہیں اور روایت مثالی کی تخصیص کی طرف کوئی امر داعی نہیں۔

☆..... زرقانی صفحہ ۸ جلد اول (ترجمہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم اقدس اور روح اقدس کے ساتھ دیکھنا محال نہیں۔

☆..... روح المعانی پارہ ۲۲ صفحہ ۳۵ طبع مصر میں ہے (ترجمہ) اور جو چیز دیکھنے میں آتی ہے یا وہ روح مبارک ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجرد اور تقدس کے لحاظ سے تمام روحوں میں سب سے زیادہ کامل ہے باین طور کہ وہ روح مبارک ظاہری صورت میں اس روایت کے ساتھ نظر آنے لگتی ہے اور اس روح اقدس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسد مبارک کے ساتھ باقی ہے جو مزار شریف میں زندہ ہے۔ یہ قول بعض محققین کے اس قول کے بالکل مطابق ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت وحیہ کلبی وغیرہ کی صورت میں حاضر ہوتے تھے تو سدرۃ المنتہی سے جدا نہ ہوتے تھے (جبرائیل علیہ السلام بیک وقت سدرۃ المنتہی پر بھی اور زمین پر بھی) یا مثالی جسم نظر آتا

ہے جس کے ساتھ روح مجردہ قدسیہ متعلق ہے اور اس سے کوئی شے مانع نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی جسم لا تعداد و لا تحصی ہو جائیں اور روح مقدس کا تعلق ہر جسم سے مساوی طور پر ہے اور یہ تعلق بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک روح ایک بدن کے الگ الگ اجزاء و اعضاء سے تعلق رکھتی ہے اور مثالی جسموں میں وہ روح اپنے اور ادراکات و احساسات میں ان آلات کی قطعاً محتاج نہیں ہوتی جن کی ضرورت اسے کسی مشاہدہ کرنے والے شخص میں اس کے بدن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہے اور اس بیان پر اس قول کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے جس کو شیخ صفی الدین بن منصور اور شیخ عبدالغفار نے حضرت شیخ ابوالعباس طبخنی سے نقل کیا اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابوالعباس طبخنی نے آسمانوں اور زمینوں اور عرش و کرسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم (کے نور) سے بھرا ہوا دیکھا نیز اس بیان سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ متعدد لوگ ایک ہی وقت میں دو دراز مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں پھر یہ کہ اس بیان کے ہوتے ہوئے اس مضمون کی بھی حاجت نہیں رہتی جس کی طرف بعض بزرگوں نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے جب ان سے اس روایت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورج کی طرح ہیں جو آسمان کے وسط میں ہو اور اس کی روشنی مشرقوں اور مغربوں کے تمام شہروں کو ڈھانک لے۔

علماء دیوبند کا اعتراف حقیقت

فیض الباری شرح بخاری صفحہ ۳۰۴ جلد اول میں انور شاہ کشمیری

حدیث دیوبند نے لکھا، میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں دیکھنا ممکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کو ۲۲ مرتبہ دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث کے بارے سوال کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کے بعد امام سیوطی نے ان کو صحیح کر لیا۔

مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے فتح الملہم شرح مسلم صفحہ ۳۰۵ جلد اول میں روح المعانی کے حوالہ سے لکھا حضور علیہ السلام باوجود مزار مقدس میں رونق افروز ہونے کے بیک وقت متعدد مقامات پر دیکھے جاتے ہیں۔

سوال :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لئے شاہد و شہید کے لفظ آئے ہیں کیا وہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟

جواب :- حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا علی من ارسلت الیہم کی وجہ سے

ان علامہ عبدالوہاب شعرانی (المتوفی ۹۷۳ھ) علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں امام جلال الدین سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) کے خط کا ایک ورقہ آپ کیا صحاب میں سے ایک صاحب کے پاس دیکھا جو کہ آپ نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں لکھا تھا۔ اس میں امام سیوطی نے خود ذکر کیا کہ میں ۷۵ بار عالم بیداری میں بالمشافہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفیض ہو چکا ہوں۔ (ملخصاً) میزان الشریعة الكبرى صفحہ ۲۲ جلد اول، لواقع الانوار القدسیہ صفحہ ۷۷ طبع بیروت یہ کشمیری جی کا وہم یا قوت حافظہ کا زور ہے ۷۵ کو ۲۲ بنا دیا یہ تو امام سیوطی نے بوقت ضرورت اس نعمت عظمیٰ کا اظہار کیا علیم و خیر ذات جانے اس اظہار کے بعد کتنی بار کرم ہوا۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

عام ہے اگر اسی قسم کے دلائل حضور علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کے لئے ثابت کر دیں تو میں مان جاؤں گا کہ شَهِدَاءٌ عَلَى النَّاسِ اور دیگر آیات جن میں لفظ شاہد و شہید وارد ہے ان سب کے وہی معنی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وارد شدہ شاہد و شہید کے مرادی معنی ہیں جب تک غیر نبی کے حق میں معترض اسی قسم کے دلائل قائم نہ کرے اس وقت تک اس کا معارضہ قائم نہیں ہو سکتا۔

جواب :- حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں کالمین میں علی سبیل التبعية اس کمال کا پایا جانا کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہوگی جو ہمارے دعویٰ کی مزید مؤید قرار پائے گی جب کالمین کا یہ کمال کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل بلکہ عین کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرار پایا تو ہمارا دعویٰ اور بھی مستحکم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام ہاری خلقت پر حاضر و ناظر ہیں۔

اعتراض :- شاہداً علی من ارسلت الیہم اپنی اصل پر نہیں بلکہ عام مخصوص منہ البعض ہے۔ (عام دیوبندی)

جواب :- کسی لفظ کے اصل پر ہونے کا دعویٰ محتاج دلیل نہیں ہوتا البتہ عدول عن الاصل کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس کی دلیل معترض کے ذمہ ہے نہ کہ ہمارے ذمہ جب خصوص کا کوئی قرینہ نہیں تو اصل عموم ہی پر بزقرار رہا یہاں من ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب کے لئے جیسے وَلِلّٰهِ اسْلَمٌ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ میں من سب کو شامل ہے لہذا اثابت ہو گیا کہ جس کی طرف آپ مبعوث ہیں اس پر آپ شاہد بھی ضرور ہیں اور حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کل مخلوق کی طرف ہے لہذا آپ حاضر و ناظر بھی کل مخلوق پر ہیں۔

اعتراض:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر اجساد مثالیہ سے آپ کی بے مثلی نہ رہے گی۔

جواب:- اس طرح تو قرآن کا بے مثلی کا دعویٰ بھی (معاذ اللہ) باطل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے نسخے کتنے ہی کیوں نہ ہوں عین قرآن منزل من اللہ ہیں ان کو کثیر یا متعدد کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے قرآن ایک ہی ہے اور بے مثل کتاب بالکل اسی طرح کثیر اجساد مثالیہ ذات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امثال و نظائر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں اور بے مثل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔

اعتراض:- ناپاک جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاضر و ناظر ہیں؟

جواب:- i۔ جب خدا تعالیٰ کے جلووں کو یہ ناپاک چیزیں ناپاک نہیں کر سکتیں تو مظہر

صفات الہیہ حضور علیہ السلام کے جلووں کو کس طرح ناپاک کر سکتی ہیں؟

ii۔ یَسْبِغُ لِلَّهِ اِذَا تَسَبَّحَ خَدَاوَنَدَىٰ ہر پاک و ناپاک چیز میں پائی جاسکتی ہے تو جلوہ ہائے

حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا جانا کیوں قابل اعتراض ہے؟

iii۔ نجاست کا حکم حقیقت پر نہیں لگ سکتا بول و براز کو کھاد کی صورت میں کھیتوں میں

ڈالا جاتا ہے اناج اور سبزیوں کے پودے انہیں اجزاء کے نجاست کو جڑوں کے راستے

سے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور وہ تمام نجس اثرات اور ناپاک اجزاء ان پودوں

میں جذب ہونے کے بعد اناج اور سبزیوں کی شکل ظاہر ہوتے ہیں جن کو معترض ناپاک

سمجھ کر تناول فرماتے ہیں اور کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ وہی نجاست ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم امر بلکہ اس سے بھی بالاتر مخلوق ہیں یہ غلاظتیں عالم خلق کی ہیں۔ وہ عالم امر کی چیز کو متاثر نہیں کر سکتیں۔

اعتراض:- قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز کرنا موجب جہط اعمال ہے تم حاضر و ناظر مان کر سپیکر لگاتے ہو سلام پڑھتے ہو وغیرہ اور تم منبر اور کرسی پر کیوں بیٹھتے ہو؟

جواب:- روافض کا اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات مانگی صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہو گئیں لہذا (معاذ اللہ) ان کے اعمال جہط ہو گئے اس کا جواب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ صفحہ ۲۵۵ میں یہ لکھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ فِي حُضُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي آواز پر آواز بلند کرنے کی ممانعت ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے نعرے لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے ایسا بانر نعرہ لگایا کہ مکہ کی وادی ہل گئی جنگ حنین میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے پکارا کہاں ہیں اصحاب سمرہ۔

(روح المعانی صفحہ ۱۲۲ پارہ ۲۶)

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے حضور کی موجودگی میں متعدد بار

اذان کہی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منبر پر چڑھ کر بلند آواز سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی حضرت ثابت بن قیس کی آواز بلند تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود بلوایا کیا آج کل مسجد نبوی میں اونچی آواز سے اذان نہیں کہی جاتی؟ کیا مدینہ منورہ میں منبر نہیں ہے؟ جہاں مؤذن بلند آواز سے اذان کہتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لئے منبر پر چڑھنا سنت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان حضرات پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟

اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں معراج، ہجرت، سفر جہاد اور مدنی، مکی سورتوں کا کیا مطلب؟

جواب: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین حالتیں ہیں۔ حالت بشری حالت ملکی، حالت حقیقی یا حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حالت بشری:۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ**

حالت ملکی:۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لست کھیتکم بخاری صفحہ ۲۵۷ جلد اول، وفی روایۃ انی لست کاحدکم ترمذی صفحہ ۹۷ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۳۲۲ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۲۸۱ جلد دوم، سنن کبریٰ للبیہقی صفحہ ۲۸۲ جلد چہارم

حالت حقیقی:۔ جیسے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل میرے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں کسی مقرب

فرشتہ نبی و رسول کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اہل سنت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف حالت بشری کے اعتبار سے حاضر و ناظر نہیں مانتے بلکہ روحانیت و نورانیت جس کو حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کہتے ہیں کے اعتبار سے حاضر و ناظر مانتے ہیں اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عظیم تر ہے کہ زمین و آسمان، عرش و کرسی، ملک و ملکوت سب سے وسیع تر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں حالت بشری کے ساتھ نہیں بلکہ بایں طور کہ کائنات کا ذرہ ذرہ روحانیت و نورانیت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گاہ ہے۔ سفر معراج، ہجرت، سفر جہاد وغیرہ کا تعلق جسم اقدس کے ساتھ ہے جب معراج جسمانی تو آپ کا آنا جانا بھی حالت بشری سے متعلق ہوا۔ حالت بشری میں کسی جگہ موجود نہ ہونا روحانی اور نورانی طور پر موجود ہونے کے معارض نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ اعقل سلیم عطا فرمائے۔ امین ثم امین بجاہ طہ و یسین

القول الصحيح

فى

حيات المسيح

عليه السلام

تحمید و تصلیہ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
 اما بعد! حضور سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے
 کائنات علی مشکل کشاکرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام کی وجہ سے دو گروہ نارِ جہنم کے مستحق ہوئے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو حضرت ابن مریم کی بجائے ابن اللہ کہہ کر محبتِ غالب اور دوسرا قدرتِ خداوندی کا
 انکار کر کے (معاذ اللہ) حرامی کہہ کر مبغضِ قال ٹھہرا پہلے نصرانی دوسرے یہودی ہیں
 اسی طرح اے علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تجھے ایک گروہ بہت بڑھا کر خدا اور خلیفہ بلا
 فصل کہہ کر محبتِ غالب رافضی نصیری اور دوسرا گروہ تجھے معاذ اللہ مرتد کافر اور تیری
 خلافتِ رابعہ کا منکر ہو کر مبغضِ قال ہو کر جہنمی ہوگا۔ خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی مثل بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ کی ولادت
 کو آیت الہی اور اپنی قدرت کی دلیل بنایا۔ **إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ**

یہودیوں کا غلط دعویٰ:۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی
 پر لٹکا دیا اور ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ (معاذ اللہ)

نصرانیوں کا عقیدہ: عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر ضرور لٹکائے گئے
 اور شہید ہوئے انہیں دفن بھی کیا گیا مگر وہ قبر سے زندہ ہو کر خدا کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔
 مرزائیوں کا باطل دعویٰ:۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ سولی پر لٹکائے گئے
 مگر انہیں سولی پر موت نہیں آئی زخمی حالت میں سری نگر (کشمیر) کافی عرصہ زندہ رہ کر

فوت ہو گئے۔ وہاں ان کی قبر بھی موجود ہے کسی اور کی قبر یا ایک فرضی قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر قرار دیتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام نے تو فرمایا تھا کہ آسمان سے اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے حجرہ میں دفن ہوں گے مگر یہ بے ایمان حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کے فرمان و نشان کی تکذیب کر کے نارِ جہنم خرید چکے ہیں۔

تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ:۔ جمیع اہل اسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء صالحین، محدثین، مفسرین، متکلمین، بزرگان دین کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بمعہ جسد عنصری اپنی طرف آسمان پر صحیح سالم اٹھالیا اور دوسرے شخص کو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا جسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی چڑھایا لیکن یہودی خود بھی حیران تھے کہ جس شخص کو ہم نے سولی پر لٹکایا ہے اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے مگر باقی اعضاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسد عنصری موت کا ذائقہ چکھے بغیر آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بارہ سال تک منشی مرزا غلام احمد مغل بن مرزا غلام مرتضیٰ اسی عقیدہ کو صحیح اور اسلامی عقیدہ سمجھتا رہا۔ دیکھو مرزا جی کی کتاب براہین احمدیہ صفحہ ۲۹۹۔ یہ حقیقت ہے نبی (علیہ السلام) کا عقیدہ منسوخ نہیں ہوتا۔ ہر نبی (علیہ السلام) پیدا کئی صحیح العقیدہ ہوتا ہے یہ ناممکن ہے کہ ۱۲ سال تک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانے پھر منکر ہو جائے یہ انکار شیطانی چکر ہے۔

۱۔ تفسیر الوسیط صفحہ ۱۳ جلد دوم، زاد المسیر صفحہ ۲۲۵ جلد دوم۔ ابوالجلیل فیضی

اعتراض:- بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا سَخِرَ لِيَّ جِبْتٍ وَرَمَّكَ فِي سَمَاءٍ مِّن مِّن دُونِهَا لِيُبْدِيَكَ لِيَوْمِ تُبْدَىٰ أَيُّكُم بِالْحَقِّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ خدا کے لیے جہت اور مکان ثابت ہوتا ہے۔

جواب:- مرزا جی کی کتاب تحفۃ الندوہ صفحہ ۱۹ میں ہے: خدا آسمان پر دیکھ رہا ہے۔

جب تمہارے عقیدہ کے مطابق خدا آسمان پر ہے تو پھر ایہ پراعترض کیوں؟

اب قرآن سے جواب سنو۔ پارہ ۲۵ سورۃ زخرف میں ہے: هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ

وہ ایسی ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ آسمان کو

بلند فرمایا اس لیے بلندی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھالیا۔

پارہ ۲۲ سورۃ الفاطر إِلَٰهٌ يُّصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اللَّهُ کی طرف ہی پاک

کلمے چڑھتے ہیں اور عمل صالح اس کی طرف چڑھتے ہیں۔

کلمات طیبات کا رفع بھی آسمان کی طرف ہوتا ہے جو ایہ کا مصداق ہے اور رفع کے

معنی چڑھنے کے بھی ثابت ہو گئے۔

اعتراض:- منشی غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ازالہ اوہام صفحہ ۷۲ میں لکھتا ہے رفع

جسمانی ناممکن اور محال ہے۔

جواب:- رفع جسمانی امر ممکن ہے کسی جسم عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا نہ قانون

فطرت کے خلاف ہے نہ سنت اللہ کے متصادم ہے بلکہ ایسی حالت میں سنت اللہ یہی

ہے کہ اپنے خاص بندوں کو آسمان پر اٹھالیا جائے تاکہ اس خالق و مالک قادر علی کل شی

قدیر کا کرشمہ ظاہر ہو اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ کی اپنے خاص الخاص

بندوں کے ساتھ یہی سنت ہے کہ ایسے وقت میں ان کو آسمان پر اٹھالیا جاتا ہے۔

غرضیکہ کسی جسم عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا قطعاً محال نہیں بلکہ ممکن اور امر واقع ہے اور

اسی طرح کسی جسم عنصری کا بغیر کھائے پئے زندگی بسر کرنا بھی محال نہیں۔

اب دلائل ملاحظہ ہوں:-

دلیل نمبر ۱:- نبی مکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد اطہر کے ساتھ معراج کی رات آسمانوں پر جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا حق ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسدہ العنصری آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نازل ہونا بھی بلاشبہ حق اور ثابت ہے۔

دلیل نمبر ۲:- حدیث شریف میں ہے: سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا: اے بلال میں نے جنت میں اپنے آگے تیری جوتیوں کی آہٹ سنی۔

اس کے کئی معانی شارحین نے لکھے ہیں: ایک معنی یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی غلامی کے طفیل اس وقت جنت میں حضور ﷺ کے آگے چلیں گے جس کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ (افادات غزالی زماں)

ثابت ہوا جسد عنصری کا آسمان پر جانا محال نہیں بلکہ امر واقع ہے۔

دلیل نمبر ۳:- حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کا فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑنا

صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ امام طبرانی نے باسناد حسن حضرت عبداللہ بن جعفر طیار

رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے مجھ سے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اے جعفر کے بیٹے عبداللہ تجھ کو مبارک ہو تیرا باپ

فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑتا پھرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت

ابو جلیل فیضی غفرلہ

ابن بخاری شریف صفحہ ۱۵۴ جلد اول۔

جبریل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔ ان ہاتھوں کے عوض میں جو غزوہ موتہ میں کٹ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ کی طرح دو بازو عطا فرمادیئے ہیں، اس روایت کی سند نہایت جید اور عمدہ ہے۔

(زرقانی صفحہ ۲۷۵ جلد ۲، فتح الباری صفحہ ۴۶۳)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جعفر کہ جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے وہ میری ماں کا بیٹا ہے۔

دلیل نمبر ۴:۔ حضرت عامر بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غزوہ بدر معونہ میں شہید ہونا اور پھر ان کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا روایات میں مذکور ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری نے اصحابہ میں اور حافظ ابن عبدالبر نے استیعاب میں اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ صفحہ ۷۸ جلد ۲ میں ذکر فرمایا ہے۔ جبار بن سلمی جو عامر بن فہیرہ کے قاتل تھے وہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعہ کو دیکھ کر حضرت ضحاک بن سفیان کلابی کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور یہ کہا: ترجمہ: عامر بن فہیرہ کا شہید ہونا اور ان کا آسمان پر اٹھایا جانا میرے اسلام لانے کا باعث ہوا حضرت ضحاک نے عامر کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت سر اپا برکت میں لکھ کر بھیجا اس پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:۔

ترجمہ: فرشتوں نے اس کے جسد کو چھپالیا اور وہ علیین میں اتارے گئے۔ حضرت ضحاک بن سفیان کے اس تمام واقعہ کو امام بیہقی اور ابو نعیم اصفہانی دونوں نے اپنی اپنی دلائل النبوت میں بیان فرمایا۔

(شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور للسيوطی صفحہ ۱۷۴)

حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری نے اصابہ میں جبار بن سلمیٰ کے تذکرہ میں اس واقعہ کی طرف اجمالاً ارشاد فرمایا۔ امام سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعہ کو ابن سعد اور حاکم اور موسیٰ بن عقبہ نے بھی ثابت کیا ہے۔ غرضیکہ یہ واقعہ متعدد اسانید اور مختلف روایات سے ثابت اور محقق ہے۔

دلیل نمبر ۵:- حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بھی فرشتے عامر کی طرح آسمان پر اٹھالے گئے۔ ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں اصح قول یہی ہے اگرچہ زمین کے نکلنے کی روایت بھی آئی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اولاً زمین نے ان کے جسد کو چھپا لیا ہو پھر آسمان پر اٹھالئے گئے ہوں ابو نعیم کہتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا اسی طرح سرکار کی امت میں سے عامر بن فہیرہ اور خبیب بن عدی اور علاء بن حضرمی کو آسمان پر اٹھایا۔ (تحقیق سیوطی)

دلیل نمبر ۶:- شرح الصدور للسیوطی صفحہ ۱۷۴ میں ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ رفع الی السماء کی وہ واقعہ بھی تائید کرتا ہے جس کو نسائی اور بیہقی اور طبرانی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں تو اس تکلیف کی حالت میں زبان سے حس نکلا اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو بجائے حس کے بسم اللہ کہتا تو لوگ دیکھنے والے ہوتے اور فرشتے تجھے اٹھا کر لے جاتے۔ یہاں تک کہ تجھ کو آسمان میں لے جا کر گھس جاتے۔

دلیل نمبر ۷:- شرح الصدور صفحہ ۱۷۳ میں ہے:- ابن ابی الدنیا نے ذکر

الموتی میں حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا پہاڑ میں رہتا تھا جب قحط ہوتا تو لوگ اس سے بارش کی دعا کراتے اور وہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے بارانِ رحمت نازل فرماتا اس عابد کا انتقال ہو گیا لوگ اس کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے اچانک ایک تخت آسمان سے اترتا ہوا نظر آیا یہاں تک کہ اس عابد کے قریب آ کر رکھا گیا ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس عابد کو اس تخت پر رکھ دیا اس کے بعد وہ تخت اوپر اٹھتا گیا لوگ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔

دلیل نمبر ۸:- المستدرک للحاکم صفحہ ۶۳۳ جلد دوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جنازہ کا آسمان سے زمین پر اترنا مفصل مذکور ہے۔

ان واقعات سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ کسی جسدِ عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا نہ قانونِ فطرت کے خلاف ہے نہ سنت اللہ کے متصادم ہے بلکہ ایسی حالت میں سنت اللہ یہی ہے کہ اپنے خاص بندوں کو آسمان پر اٹھالیا جاتا ہے۔

اعتراض:- آگے کوزہ نار اور طبقہ زمہریر ہے اس سے بچ کر آنا کیسے ممکن ہے؟

جواب:- جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کا جنت اور آسمانوں سے کوزہ نار اور طبقہ زمہریر سے گزر کر زمین کی طرف ہبوط ممکن بلکہ واقع ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف نزول بھی ممکن ہے۔

اعتراض:- قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَسُولًا نَزَلَ مِنْ رَبِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَدًا مَدِينًا ۝ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَسُولًا نَزَلَ مِنْ رَبِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَدًا مَدِينًا ۝

اسی طرح حقیقت پر مبنی نہیں۔

جواب :- مفعول اول قرآن کریم ہے جس کا انزال آسمان کی طرف سے ہوا جس کا کوئی منکر نہیں دوسرے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نزول از سماوات معراج جسمانی سے ہوا۔ یہ حقیقت ہے تو نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حقیقت اعتراض :- ارشادِ خداوندی ہے: **أَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ** نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حقیقت پر مبنی نہیں۔

جواب :- ☆..... ترجمہ :- بیشک ان اقسام کی نسلیں جنت میں پیدا کی گئیں پھر زمین کی طرف اتاری گئیں۔ (تفسیر خازن صفحہ ۵۶ جلد ۶)

☆..... ترجمہ :- بیشک اللہ تعالیٰ نے ان آٹھ اقسام کو جنت میں پیدا فرمایا پھر ان کو زمین کی طرف نازل فرمایا اور اللہ کا فرمان **ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ** خواہ مذکر ہو یا مونث اونٹ اور گائے اور بھیڑ اور بکری سے اور زوج ہر ایک پر استعمال ہوتا ہے جس کا ساتھی جوڑا ہے۔ قرآن سے ثابت ہو گیا انعام کی طرح نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ (تفسیر کبیر صفحہ ۲۳۲ جلد ۷)

اعتراض :- ارشادِ خداوندی ہے: **وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ** ہم نے لوہے کو نازل فرمایا۔ جس طرح لوہے کا نزول حقیقت پر مبنی نہیں اسی طرح نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حقیقت پر مبنی نہیں۔

جواب :- واقعی اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آسمان سے اتارا حوالہ ملاحظہ ہو۔ طبقات ابن سعد صفحہ ۷۱ جلد ۱، اور تاریخ طبری صفحہ ۸۵ جلد ۱ میں ہے: پھر آدم علیہ السلام پر آسمان

سے لوہے کے تین اوزار اتارے گئے آہرن، ہتھوڑا اور سنی۔

حدیث شریف سے جو جو ہتھیار آسمان سے نازل ہوئے حضرت ابن عباس کی روایت سے ثابت ہو گئے اب قرآن و حدیث سے لوہے کا آسمان سے حقیقہً اترا ثابت ہو گیا۔ ہر چیز کا اصل آسمانوں میں ہے: اللہ تعالیٰ ہر چیز آسمان سے نازل فرماتا ہے۔

ارشاد الہی ہے: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

اعتراض:- قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا لِبَاسٍ كَانُزُولِ حَقِيقَتِهَا بِرَبِّنِي نَهِيں تُو نَزُولِ حَضْرَتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بھي حَقِيقَتِهَا بِرَبِّنِي نَهِيں۔

جواب:- واقعی حقیقہً لباس بھی آسمان سے نازل ہوا۔ تاریخ طبری صفحہ ۸۶ جلد ۱ میں ہے: بیشک بعض پھلوں سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے وقت زادِ راہ عطا فرمائے ان میں کپاس بھی تھی لہذا لباس کا بھی اتارا جانا آسمان سے ثابت ہوا اور جو انجیر کے پتوں والا لباس زیب تن فرما کر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا لباس کا آسمان سے نزول حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی پر امت کا اجماع ہے۔ اجماع امت کا منکر مسلمان نہیں۔

۲:- حضور علیہ السلام کا شب معراج آسمانوں پر جانا اور کرۂ نادر اور زمہریر سے ہوتے ہوئے واپس آنا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔

۳:- فرشتوں کا لیل و نہار طبقہ ناریہ اور کرۂ زمہریر سے مرور و عبور ممکن ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عبور و مرور بھی ممکن ہے۔

۴:- نزول ماندہ:- قرآن کریم میں صراحت مذکور ہے۔ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ

السَّمَاءُ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلَانَا وَآخِرِنَا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے آسمان سے ماندہ (عمدہ کھانا) کا نزول بھی طبقہ ناریہ میں سے ہو کر ہوا ہے۔

منشی مرزا غلام احمد قادیانی کے گمان فاسد اور خیال باطل مندرجہ ازالہ اوہام صفحہ ۷۷ کی بنا پر اس کھانے کا نزول محال ہے۔ اسے کرۂ ناریہ میں سے گزرتے ہوئے جل جانا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہوا۔ کھانا کرۂ ناریہ سے صحیح سالم زمین پر اترنا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صحیح سالم کرۂ ناریہ سے گزر کر آسمان پر گئے اور کرۂ ناریہ سے گزر کر زمین پر اتریں گے۔

۵۔ نص قطعی قرآنی سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل زار ہو گئی اور آپ کو نہ جلایا نہ آگ کوئی بزدل اور سلباً علیٰ ابرہیم کیا خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے طبقہ ناریہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بزدل اور سلباً نہیں بنا سکتا۔ جب کہ اس کی شان یہ ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

۶۔ حضرت سیدہ مریم علیہا السلام کے لئے جنت سے کھانے اترے ارشاد خداوندی ہے۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

جب بھی حضرت زکریا (علیہ السلام) محراب مریم (حجرۂ مریم) میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس کھانا (بے موسم کے پھل وغیرہ) موجود پاتے۔ پوچھتے اے مریم یہ رزق

تجھے کہاں سے ملا فرماتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملا خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب (خلاف عادت) رزق دیتا ہے اور کبھی بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صوم وصال کے روزے بغیر کھائے پیے رکھنا اور زندہ رہنا اور ایکم مثلی (تم میں سے کون میری مثل ہے) فرمانا اس پر دلیل ناطق ہے۔

اصحاب کہف کا تین سو سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہنا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ہے حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کی تسبیح نہ کرتے لَکِبْنَا فِي بَطْنِهَا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں بغیر کھائے پیے زندہ رہتے۔ معلوم ہوا خدا اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو بغیر کھائے پیے زندہ رکھے۔

آسمان میں رزق :- پارہ ۲۶ سورۃ ذاریات میں ارشاد خداوندی ہے :-
 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا نُوْعِدُونَ اور آسمان میں بھی تمہارا رزق ہے اور جو تم وعدہ کئے گئے ہو۔ اب آسمان میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر آسمانی کھانے نہ کھاتے تو اس آیت کا مصداق کون ہوتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جا کر کھانا تناول فرمانے کی قطعی دلیل ہے۔

عقلی دلیل :- تم جب ماں کے لطن میں ہوتے ہو تو بلا طلب تمہاری خوراک تمہاری ماں کے پیٹ میں خدا مہیا فرماتا ہے اور تمہارے باہر آنے سے پہلے ماں کے پستانوں میں تمہارے لیے خوراک رکھ دے لیکن اگر بچہ جنسی آسمان پر کسی نبی علیہ السلام کو بلا لے تو کیا قدرتی کھانا کھلانے سے معاذ اللہ قاصر ہے ماں کے لطن میں تو تمہاری

عقل غذا پہنچنے کو تسلیم کرے لیکن آسمان پر تسلیم نہیں کرتی۔

قرآنی دلیل :- کیا قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالتَّلْوِيْثَ کے ارشادِ الہی کے مطابق آسمان سے مَنْ وَسَلْوٰی نازل ہو سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں سے (جہاں سے مَنْ وَسَلْوٰی اترتا تھا) خدا کھانا مہیا نہیں کر سکتا؟

اعتراض :- اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں تو ٹٹی کہاں جاتی ہے یا وہاں بیت الخلاء ہے۔

جواب :- کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے مرزا جی کی طرح ہیں کہ ٹٹی پیشاب چلتا ہی رہے کیونکہ مرزا جی سلسل البول کے مریض تھے دن میں سو مرتبہ یا ستر مرتبہ پیشاب کرتے تھے (اسرار شریعت مرزائی کتاب) اور کیا آسمانوں میں قادیان کا آب ودانہ ہے کہ نجاست پیدا کرنے جنت میں آدم و حوا علیہما السلام کو کُلَّا مِنْهَا رَغَدًا کا حکم فرمایا کھانے کا حکم تو فرمایا لیکن ان کے بیت الخلاء کا کہیں ذکر نہ فرمایا آسمانی جنتی کھانے تناول فرمانے سے بیت الخلاء کی حاجت نہیں ہوتی۔ ٹٹی پیشاب مرزائیوں کے ذہن میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں تمہاری ٹٹی کہاں جاتی ہے خدا انسان کو جس طرح چاہے زندہ رکھ سکتا ہے اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں اور قیامت تک سوئے ہی رہیں گے ان کو کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے اور ان کے بول و براز کا کیا حال ہوگا؟ جو خدا پہاڑی غاروں میں انسان کا ہر طرح انتظام فرما سکتا ہے وہ آسمان پر نہیں کر سکتا؟ بیشک وہ ہر مقام پر روزی پہنچا رہا ہے پہنچا سکتا ہے۔ هُوَ الَّذِي ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

اعتراض:- زمین سے لے کر آسمان تک کی طویل مسافت کا چند لمحوں میں طے کر لینا کیسے ممکن ہے۔

جواب:- یہ مرزائیوں کا خدا ہے جو ایسا نہ کر سکے مسلمانوں کا خدا علیٰ کلّ شئیٰ و قدیر ہے۔

حکمائے جدید کہتے ہیں کہ نور ایک منٹ میں ایک کروڑ بیس لاکھ میل کی مسافت طے کرتا ہے۔ بجلی ایک منٹ میں پانچ سو مرتبہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے اور بعض ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل حرکت کرتے ہیں علاوہ ازیں انسان بھی جس وقت نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو حرکت شعاعی اس قدر سریع ہوتی ہے کہ ایک ہی آن میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے نیز جس وقت سورج طلوع کرتا ہے تو نور آفتاب ایک ہی آن میں تمام کرۂ ارض پر پھیل جاتا ہے جنات کا شرق سے غرب تک آن واحد میں اس قدر طویل مسافت کا طے کر لینا ممکن ہے تو خداوند قادر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی بندے کو چند لمحوں میں اس قدر طویل مسافت طے کراوے۔ حضرت آصف بن برخیا کا مہینوں کی مسافت سے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے حاضر کر دینا قرآن مجید سے صراحتاً ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا مسخر ہونا بھی قرآن مجید میں مذکور ہے وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں چاہتے اڑا کر لے جاتی اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرتی۔

آج کل ملحدین فی گھنٹہ کئی سو میل کی مسافت کے طے کرنے والے ہوائی جہاز پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر نہ معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بھی ایمان

لاتے ہیں یا نہیں؟ ہوائی جہاز انسان کی بنائی ہوئی مشین ہے اڑتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا بحکم الہی اڑا کر لے جاتی تھی کسی انسان کے عمل کو اس میں دخل نہ تھا اس لیے کہ وہ معجزہ تھا اور ہوائی جہاز معجزہ نہیں۔

اب حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل ملاحظہ ہوں

پہلی قرآنی دلیل:- پارہ ۳ سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے:-

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعَيْنِي إِنَّهُ مُتَوَقِّئُكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت عیسیٰ (علیک السلام) بیشک میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کروں گا اور تیرے پیروؤں گا کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے میں تم میں فیصلہ فرماؤں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو۔

تشریح:- اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے خبر دی اے حضرت عیسیٰ (علیک السلام) میں تمہیں پورا پورا مع جسم و روح لینے والا ہوں کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کہ اس طرح کہ مع جسم کے اٹھانے والا ہوں یا اے عیسیٰ (علیہ السلام) میں تمہیں پوری پوری عمر دوں گا یہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا آپ کی موت رفع الی السماء اور نزول من السماء کے بعد ہوگی۔ یا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے عیسیٰ (علیہ السلام) میں تمہیں سلانے

والا ہوں اور بحالت خواب اپنی طرف اٹھانے والا ہوں آپ کو سلا کر اٹھایا گیا تاکہ آپ کو اتنے دراز سفر میں وحشت نہ ہو۔

رفع کا مفعول :- اگر کوئی جسم ہوگا تو اس سے مکانی بلندی مراد ہوگی جیسے رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ (یسوسف) اگر رفع کا مفعول جسم نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو تو وہاں روحانی بلندی مراد ہوتی ہے۔ روحانی بلندی تو جسمانی بلندی سے پہلے ہی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی۔ اِلَىٰ سے آسمان کی طرف اٹھانا مراد ہے اگرچہ ہر جگہ خدا کی حکومت ہے مگر آسمان خصوصیت سے تجلی گاہ الہی ہے کہ نہ وہاں کسی کی ظاہری سلطنت ہے نہ وہاں کفر و شرک۔ اس لیے اس طرف اٹھانے کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھانا قرار دیا۔

تفسیر کبیر میں ہے :- وفات ایک جنس ہے جس کی بہت سی قسمیں ہیں بعض موت سے ہوتی ہے اور بعض آسمان پر اٹھانے سے ۱۔ وَرَافِعُكَ اِلَىٰ نے وفات کو مقرر کر دیا کہ موت سے نہ ہوگی بلکہ آسمان پر اٹھائے جانے سے ہوگی۔
کتب تفاسیر سے مُتَوَفِّيكَ کی تفسیر :-

۱:- تفسیر ابن عباس صفحہ ۸۳ جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھالیا۔

۲:- ابن کثیر صفحہ ۳۶۳ جلد ۱:-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیند میں اٹھایا اسی واسطے

متوفیک فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

۱۔ تفسیر کبیر صفحہ ۲۳۸ جز ۸ طبع مکتبہ علوم اسلامیہ لاہور ابو الجلیل فیضی غفرلہ

عليه وسلم نے فرمایا: بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری طرف واپس تشریف لانے والے ہیں۔ روزِ قیامت سے پہلے اور کفار سے پاک کرنے والا ہے یعنی تجھے آسمان کی طرف اٹھا کر۔

۳۔ تفسیر کبیر صفحہ ۶۸۹ جلد ۲:-

ترجمہ:- بیشک میں تیری عمر کو پورا کرنے والا ہوں بیشک توفی کے معنی شے کو پورا لے لینا ہے۔ تاکہ دلالت کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف بتمامہ اٹھائے گئے ہیں یعنی جسم بمع روح۔ تحقیق دلیل سے ثابت ہو گیا کہ بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور افعک الی مقتضی ہے اس بات کا کہ بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا۔

۴۔ تفسیر کبیر صفحہ ۵۰۲ جلد ۳:-

نکالا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کی چھت سے اور اٹھائے گئے آسمان کی طرف۔

۵۔ تفسیر خازن صفحہ ۱۹۹ جلد ۱:-

میں بغیر مارنے کے تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔

۶۔ تفسیر معالم التنزیل بغوی صفحہ ۲۹۹ جلد ۱:-

توفی سے مراد نیند ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نیند کی حالت میں اٹھالیا تاکہ ان کو رفع کا ڈرنہ لاحق ہو جائے تو معنی آیت کے ہوں گے کہ میں تم کو سلانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔

اعتراض:- بخاری میں حضرت ابن عباس نے متوفی کے معنی موت کیے ہیں۔
جواب:- اولاً:- یہ قول منقطع ہے مرسل نہیں۔

ثانیاً:- ابن عباس کی تفسیر ابن عباس صفحہ ۳۹ میں ہے: رَافِعُكَ إِلَىٰ آسَمَانٍ پراٹھایا جانا پہلے ہے اور موت آسمان سے نزول کے بعد ہے۔ اسی طرح وَاسْبُجْدِي وَارْكَعِي میں سجدہ کا ذکر پہلے ہے حالانکہ رکوع کے بعد سجدہ ہوتا ہے یہاں بھی اسی طرح ہے۔

وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں تمہیں کافروں سے نکال لوں گا کہ آسمان پراٹھا لوں گا یا ان سے نجات دوں گا یہ تمہیں قتل نہ کر سکیں گے۔ (خازن، مدارک)

تفسیر کبیر میں ہے کفار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مکانی فاصلہ کر دینا مراد ہے کہ کفار زمین پر رہے اور آپ کو آسمان پراٹھالیا اور قرب قیامت اس طرح نجات دے گا کہ جب آپ زمین پر اتریں گے تو زمین سے تمام کفار ختم کر دیئے جائیں گے کہ یا تو وہ ایمان لے آئیں گے یا قتل کر دیئے جائیں گے اور آپ کے زمانہ میں روئے زمین پر کوئی کافر نہ رہے گا۔

اعتراض:- اہل بیت کے لیے وَيُطَهِّرُكَ تَطْهِيراً آیا ہے پھر خدا نے حضرت حسین علیہ السلام کو کیوں نہ اٹھایا؟

جواب:- اہل بیت کے لیے تطہیر عن الرجس آیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تطہیر عن الکفار ہے لہذا آپ کو آسمان پراٹھالیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تہ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مظہر شہادت رسول اور ذبح عظیم کی تفسیر تھی۔ اس لیے آسمان پر نہیں اٹھایا۔

جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا

پہلی تفسیر:- روح المعانی میں ہے: آپ کے مدعیانِ محبت عیسائیوں کو منکروں (یہودیوں) پر دنیاوی غلبہ دوں گا خواہ تلوار سے خواہ حکومت دے کر۔ اس طرح کہ آپ کا دین یہودیت کا نسخہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ عیسائی یہودیوں پر غالب ہیں۔

دوسرا جواب اور دوسری تفسیر:- تفسیر نعیمی میں ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے متبعین صرف مسلمان ہیں کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے فرمانبردار ہیں اور حضور علیہ السلام کی فرمانبرداری سارے نبیوں اور رسولوں کی فرمانبرداری ہے کیونکہ خدا نے جملہ انبیاء کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ان سب کی اتباع ہے حضور علیہ السلام کی اتباع میں سارے انبیاء کا فیضان ہے۔ جس کے پاس سو ہیں اس کے پاس ساری اکائیاں اور دھائیاں ہیں سارے انبیاء جمع کے عدد ہیں اور حضور پر نور علیہ السلام حاصل جمع جیسے حاصل جمع میں سارے اعداد آجاتے ہیں ایسے ہی حضور علیہ السلام کی غلامی میں تمام نبیوں کی غلامی آجاتی ہے یہاں فوقیت سے مراد دینی فوقیت ہے نہ کہ دنیوی سلطنت کیونکہ اس سے پہلے سینکڑوں برس مسلمانوں کی بادشاہت رہی اور اب بھی خدا کے فضل سے مسلمانوں کی بہت حکومتیں ہیں۔ تو کیا کہا جاسکتا ہے کہ پہلے مسلمان سچے تھے اب (معاذ اللہ) عیسائی؟ فوقیت سے مراد دینی فوقیت ہے اور وہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہے۔ حج مسلمانوں ہی کے کعبہ کا ہوتا ہے نہ کہ بیت المقدس کا۔ دھوم دھام سے تلاوت قرآن پاک کی ہوتی ہے نہ کہ تورات و انجیل کی۔

دینی فوقیت ہمیشہ مسلمانوں ہی کو حاصل رہی اور حاصل رہے گی اگر اسلامی حکومتیں متحد ہو جائیں تو دنیا میں سب سے بڑی قوت بن جائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان کبھی بھی کفار سے نہیں ہارے آپس کی نا اتفاقی کا شکار ہوئے ہمیشہ اپنوں نے اپنوں کو نقصان پہنچایا۔

تیسری تفسیر:۔ مقياس النبوة صفحہ ۱۱۲، ۱۱۳ میں ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین وہ کہلا سکتے ہیں جو ان کو ابن اللہ نہ سمجھیں بلکہ نبی اللہ ہونے کا عقیدہ رکھیں اور ان کے نبی اللہ ہونے کا عقیدہ سوائے امت مصطفیٰ ﷺ اور کوئی نہیں رکھتا۔ تو فرمان خداوندی جو تیری اتباع کرے گا یعنی تیری کمان میں تیرا کہا مانے گا اور وہ مسیحی یا ان کا امتی نہ ہوگا بلکہ امت مصطفیٰ کی بادشاہت ہوگی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں مومنین کا غلبہ نزول مسیح کے بعد تمام کفار پر ہوگا۔

اب اس قوم کو جو حضور علیہ السلام کی غلامی میں نہ آئے اور کفر پر مصر رہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار امت محمدیہ کی محبت میں ان کو درست کرے گی۔ حیات مسیح کی دوسری قرآنی دلیل:۔ پارہ ۶ رکوع ۲ آیت ۱۵۸، سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے: وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ نَحْنُ اللَّهُ عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ان کے اس قول کے سبب (گرفتار عذاب و لعنت کیا) کہ

۱:۔ تفسیر نعیمی صفحہ ۳۶۵، ۳۶۵ ملخصاً طبع لاہور ابو الجلیل خان فیضی غفرلہ

ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ نہ انہوں نے اس کو شہید کیا اور نہ سولی چڑھایا بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک اور شخص بنا دیا (ان کو شبہ ڈالا گیا) اور وہ جو اس کے بارہ میں اختلاف کر رہے ہیں اس کے متعلق صرف شک میں ہیں انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی اور بلاشبہ بالیقین انہوں نے اس کو شہید نہیں کیا بلکہ اسی (عیسیٰ علیہ السلام) کو (جس کے بارے میں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ فرمایا) اللہ نے اپنی طرف (یعنی آسمان پر) اٹھالیا اور ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

فائدہ: اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا بَلْ أَمَاتَهُ اللَّهُ بَلْ كُفِّرَهُ اللَّهُ بَلْ تَرْفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فرمایا تو قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سماوی ثابت ہو گئی۔

حاشیہ خزائن العرفان از صدر الافاضل مراد آبادی:- یہود نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور خیال کرتے رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں باوجودیکہ ان کا یہ خیال غلط تھا اور یقینی نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص مقتول کون ہے بعضے کہتے ہیں کہ چہرہ تو عیسیٰ (علیہ السلام) کا ہے اور جسم عیسیٰ (علیہ السلام) کا نہیں لہذا یہ وہ نہیں اسی تردد میں ہیں ان کا دعویٰ قتل جھوٹا ہے صحیح و سالم بسوئے آسمان اٹھالیا۔ احادیث میں اس کی تفصیل وارد ہے۔

۲۔ حاشیہ نور العرفان از مفتی احمد یار خان میں ہے:- یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور عیسائیوں نے ان کی تصدیق کی۔ دونوں جھوٹے اور رب نے دونوں کی تکذیب فرمائی جو منافق حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کا یہودیوں کو پتہ دینے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا اور آپ آسمان پر تشریف لے گئے یہودیوں نے اسی منافق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں سولی دیدی لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا نیز اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سا تھا اور ہاتھ پاؤں اپنے سے جو کوئی آج کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل یا موت کا قائل ہو وہ یہود کی طرح جہالت میں گرفتار ہے جیسے لاہوری یا قادیانی، مرزائی۔

یہاں اٹھانے سے مراد جسمانی اٹھانا ہے نہ کہ روحانی۔ رب تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے۔ رَفَعَ أَبْوَابَهُ عَلَى الْعَذَابِ اگر روحانی بلندی مراد ہوتی تو یہاں بَلْ لَمْ يَمُرَّ جاتا کیونکہ روحانی بلندی شہید ہونے میں ہے نہ کہ شہید نہ ہونے میں ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع نہیں ہوئی۔

۳۔ تفسیر نعیمی جلد ششم صفحہ ۵۰ میں ہے:- خیال رہے کہ اس جملہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی نفی ہے اور سولی پر چڑھانے کی بھی نفی ہے لہذا مرزائیوں کا یہ عقیدہ کہ آپ کو سولی پر لٹکایا گیا مگر جان نہ نکل سکی بے ہودہ اور آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا صَلَبُوهُ يَهُودُ نَظَرُوا سَوَّلِي نَظَرًا وَمَا قَتَلُوهُ فِي سَوَّلِي نَظَرًا وَمَا قَتَلُوهُ فِي سَوَّلِي نَظَرًا وَمَا قَتَلُوهُ فِي سَوَّلِي نَظَرًا (بقول مرزائیہ) سولی پر چڑھا تو دیا مگر وہاں جان نہ نکلی جان نکلنے کی نفی وَمَا قَتَلُوهُ فِي سَوَّلِي نَظَرًا اور سولی پر چڑھانے کی نفی وَمَا صَلَبُوهُ فِي سَوَّلِي نَظَرًا میں ہے پھانسی دینا اور ہے پھانسی پر جان نکلنا کچھ اور پھانسی کی نفی سے پھانسی پر چڑھانے کی مطلق نفی ہو جاتی ہے وَلَا يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَةِ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَاتُ لَمَّا كَفَرُوا وَلَكِنْ أَهْلُ الْقُرْآنِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جسے وہم دور کرنے کے لیے

بولتے ہیں شُبَّهَ باب تفعیل کا ماضی مطلق مجہول ہے جس کا مصدر تشبیہ ہے اور تشبیہ کے معنی ہیں کسی کو کسی کا ہم شکل یا شبیہ بنا دینا یا کسی کو شبہ و دھوکہ میں ڈال دینا یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ مگر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں۔ یعنی یہود کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ (روح البیان) جس کا نام ططلیا نوس یا بودس ذکر ہوتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے ایک حواری سر جس کو جس کو اس کی اپنی خواہش پر آپ کا ہم شکل بنا دیا اور اسے سولی دے دی گئی۔ (ابن کثیر) جس بادشاہ نے سولی دلوائی اس کا نام داؤد تھا رفع کے معنی اٹھانا بلند کرنا مراد ہوتا ہے۔ اٹھانا کبھی جسمانی ہوتا ہے کبھی رتبہ و مرتبہ کا مگر جب اس کے بعد الیٰ یا علیٰ آئے تو اس سے جسمانی اٹھانا مراد ہوتا ہے یونہی جب اٹھانے کا مفعول کوئی جسم ہو تو اس سے بلندی مکانی مراد ہوتی ہے دوسرے کی مثال اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِنتَمِعٰلُ جَب کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ میں رفع کے بعد الیٰ ہے اس لیے جسمانی بلندی مراد ہے۔ ہا کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے اور اپنی طرف اٹھالینے سے مراد ایسے مقام پر اٹھالینا ہے جہاں کسی انسان کی بادشاہت نہ ہو یعنی آسمان پر وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا چونکہ اس اٹھانے پر بہت سے عقلی اعتراضات ہو سکتے تھے کہ جسم انسانی بغیر سیڑھی کیسے آسمان پر چڑھ گیا کرۂ نار اور زمہریر میں کیسے محفوظ رہا، آسمان پر بغیر ہوا اور غذا کیسے زندہ رہا ان تمام خرافات کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے جو چاہے کرے وہ بغیر سیڑھی آسمان پر پہنچا بھی سکتا ہے بغیر ہوا و غذا زندہ بھی رکھ سکتا ہے۔ جیسے مرغی کے بچے کو انڈے میں زندہ رکھتا ہے اور

حکمت والا بھی ہے کہ اس اٹھانے میں اس کی لاکھوں حکمتیں ہیں۔

مرزائیوں کا خیال فاسد:۔ ہے کہ اس آیت میں مطلق قتل اور صلب کی نفی نہیں بلکہ ذلت و لعنت کی موت کی نفی مراد ہے؟

جواب:۔ یہ ہے کہ یہ محض وسوسہ شیطانی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ یہود کے خیال باطل کی تردید ہے تو تب بھی آیت میں یہود کا پورا رد ہے کہ وہ قتل بھی نہیں ہوئے اور نہ صلیب پر چڑھائے گئے اس لیے کہ وہ خدا کے سچے نبی تھے علاوہ ازیں اگر یہود کے اس عزم کی رعایت کی جائے تو وہ **وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْضًا** اور **يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ** کے یہ معنی ہونے چاہئیں کہ معاذ اللہ وہ انبیاء ذلت اور لعنت کی موت مرے۔
(معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

۴:۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۲۸ جلد ۳ میں ہے:۔

ترجمہ:۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چشمہ سے کہ جو مکان میں تھا غسل فرما کر باہر تشریف لائے اور سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے (بظاہر یہ غسل آسمان پر جانے کے لیے تھا) جیسے مسجد میں آنے سے پہلے وضو کرتے ہیں باہر مجلس میں بارہ حواریین موجود تھے ان کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ بیشک تم میں سے ایک شخص مجھ پر ایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ کفر کرے گا بعد ازاں فرمایا کہ کون شخص تم میں سے اس پر راضی ہے کہ اس پر میری شہادت ڈال دی جائے اور وہ میری جگہ قتل کیا جائے اور میرے درجہ میں میرے ساتھ ہو یہ سنتے ہی ایک

نوجوان کھڑا ہوا اور اپنے کو اس جان نثاری کے لیے پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی سابق کلام کا اعادہ فرمایا پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کی میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہی وہ شخص ہے؟ اس کے فوراً ہی بعد اس نوجوان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبابت ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ بعد ازیں یہود کے پیادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے گھر میں داخل ہوئے اور اس شبیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کیا اور قتل کر کے صلیب پر لٹکایا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سند اس کی صحیح ہے اور بہت سے سلف سے اسی طرح مروی ہے۔

اس صحیح روایت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے رفع الی السماء کا بذریعہ وحی پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا اور یہ بھی علم تھا کہ اب آسمان پر جانے کا تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے اور بظاہر یہ غسل آسمان پر جانے کے لیے تھا جیسا کہ عید میں جانے کے لیے غسل ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ذرہ برابر مضطرب اور پریشان نہ تھے بلکہ غایت درجہ شاداں و فرحاں تھے۔

۵۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۲۹ جلد ۳ میں ہے:-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء سے پہلے حواریوں کی دعوت فرمائی اور خود اپنے دست مبارک سے ان کے ہاتھ دھلائے اور رومال کی بجائے اپنے جسم کے کپڑوں سے ان کے ہاتھ پونچھے۔ رفع الی السماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی معراج تھی جس طرح حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم جبریل کی معیت میں آسمان کی معراج کے لیے رونہ ہوئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبریل کی معیت میں معراج کے لیے آسمان پر روانہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آسمان پر تشریف لے گئے اس وقت بھی سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے صحیح مسلم میں نو اس بن ہمعان کی حدیث میں ہے: جس وقت قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اس وقت بھی سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے جس شان سے تشریف لے گئے تھے اسی شان سے تشریف آوری ہوگی۔

نوٹ ضروری:- سلف میں اس بات کا اختلاف ہے کہ جس شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباهت ڈالی گئی وہ یہودی تھا یا منافق عیسائی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخلص حواری۔ گذشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن مخلص تھا اس لیے کہ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر میری شباهت ڈالی جائے گی وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ (واللہ ورسولہ اعلم)

۶۔ تفسیر کبیر صفحہ ۴۳۶ جلد ۱ میں ہے:-

أَيُّدُنُهُ بِرُؤُوحِ الْقُدُسِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ انہیں کے نقحہ سے پیدا ہوئے، انہیں کی تربیت میں رہے اور وہی ان کو آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔

بجسمہ آسمان پر اٹھائے جانے کے دلائل

☆..... یہ حقیقت ہے کہ بَلْ كَفَعَهُ اللَّهُ كِي ضَمِيرِ اس طرف راجع ہے جس طرف

مَا قَتَلُوهُ اور مَا صَلَّبُوهُ کی ضمیریں راجع ہیں اور ظاہر ہے کہ مَا قَتَلُوهُ اور مَا صَلَّبُوهُ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک اور جسد مطہر و اطہر کی طرف راجع ہیں۔ روح بلا جسم کی طرف راجع نہیں اس لیے کہ قتل کرنا اور صلیب پر چڑھانا جسم ہی کا ممکن ہے روح کا قتل اور صلیب قطعاً ناممکن ہے۔ لہذا بَلَّغْتَهُ کی ضمیر اسی جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف مَا قَتَلُوهُ اور مَا صَلَّبُوهُ کی ضمیریں راجع ہیں۔

☆..... یہودی روح کے قتل کے مدعی نہ تھے بلکہ جسم کے قتل کے مدعی تھے اور بَلَّغْتَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ سے اس کی تردید کی گئی۔ لہذا بَلَّغْتَهُ میں رفع جسمانی ہی مراد ہوگا اس لیے کہ کلمہ بَلَّغْتَهُ میں ما قبل کے ابطال کے لیے آتا ہے لہذا بَلَّغْتَهُ کے ما قبل اور ما بعد میں منافات اور تضاد کا ہونا ضروری ہے اس آیت میں ضروری ہے کہ مقتولیت اور مصلوبیت جو بَلَّغْتَهُ کا ما قبل ہے وہ مرفوعیت الی اللہ کے منافی ہو۔ جو بَلَّغْتَهُ کا ما بعد ہے اور ظاہر ہے کہ مقتولیت اور روحانی رفع بمعنی موت میں کوئی منافات نہیں۔ لہذا ضروری ہوا کہ بَلَّغْتَهُ اللَّهُ میں رفع جسمانی مراد ہو کہ جو قتل اور صلیب کے منافی ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ابطال کے لیے بَلَّغْتَهُ اللَّهُ فرمایا یعنی تم غلط کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو صحیح و سالم آسمان پر اٹھالیا۔ بَلَّغْتَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بصیغہ ماضی لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السماء ان کے مزعوم اور خیال قتل اور صلیب سے پہلے ہی واقع ہو چکا ہے۔

☆..... رفع کے معنی اٹھانے اور اوپر لے جانے کے ہیں لیکن رفع کبھی اجسام کا ہوتا ہے۔ جیسے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْكُلُوبَ، اذ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيلُ

رَفَعُ السَّمَوَاتِ، رَفَعَ أَبْوَابَهُ عَلَى الْعَرْشِ اور کبھی رفع معانی اور اعراض کا ہوتا ہے اور کبھی اقوال و افعال کا اور کبھی مرتبہ اور درجہ کا جہاں رفع اجسام کا ذکر ہوگا وہاں رفع جسمانی مراد ہوگا۔ لہذا بَلَّ تَفَعُّهُ اللهُ إِلَيْهِ رَفَعُ جسمانی ہی مراد ہے۔ اس کے سوا کوئی اور معنی مراد لینا قرآن کی تحریف ہے جو کہ کفر ہے۔

☆..... رفعت شان اور بلندی مرتبہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور وہ وَجَّهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ کے لقب ہی سے پہلے ہی سرفراز ہو چکے تھے۔ بَلَّ تَفَعُّهُ اللهُ إِلَيْهِ میں وہی رفع مراد ہو سکتا ہے کہ جو ان کو یہود کے ارادہ قتل کے وقت حاصل ہوا یعنی رفع جسمانی اور رفع عزت و منزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا اس مقام پر اس کا ذکر بالکل بے محل ہے۔ بالیقین یہ رفع جسمانی ہے۔

☆..... رفع درجات میں تو تمام انبیاء شریک ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی طور پر اٹھانے کے ثبوت میں رفع جسمانی کا ذکر سب سے جدا بیان فرمایا۔ اگر یہاں رفع سے بلندی درجات مراد لی جائے تو کیا معاذ اللہ ان انبیاء کے درجات بلند نہیں کئے گئے اور کیا ان کی ارواح آسمان پر نہیں اٹھائی گئیں۔ کیا معاذ اللہ یہ سب نبی ذلت کی موت مرے۔ (معاذ اللہ) مرزا بیو! شرم کرو شرم کرو۔

☆..... آیت کریمہ میں تمام ضمائر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ و مسیح اور ابن مریم اور رسول یہ جسم معین اور جسد خاص کے نام اور لقب ہیں۔ روح کے اسماء اور القاب نہیں لہذا رفع جسمانی ہوا۔

☆..... یہودیوں کی ذلت اور رسوائی اور حیرت و ناکامی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نکال عزت و رفعت بجسدہ العنصری صحیح و سالم آسمان پر اٹھائے جانے میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔

☆..... رفعت شان اور علو مرتبت (معاذ اللہ) مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں زندہ اہل ایمان اور زندہ اہل علم کو بھی حاصل ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے: **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ لِهَذَا يَرْفَعُ رُوحَانِي نَهِيں** بلکہ جسمانی ہے۔

☆..... اگر آیت میں رفع روحانی یعنی موت مراد ہوتی تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ رفع روحانی بمعنی موت یہود کے قتل اور صلیب سے پہلے واقع ہوا حالانکہ مرزا صاحب اس کے قائل نہیں۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود سے خلاص ہو کر فلسطین سے کشمیر پہنچے اور سزی نگر کے محلہ خانبار میں مدفون ہوئے حالانکہ قرآن مجید اس کی تکذیب کرتا ہے اور رفع جسمانی کا اعلان کرتا ہے۔

☆..... رفع روحانی بمعنی موت مراد لینے سے **وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا** کے ساتھ مناسبت نہیں رہتی عزیز حکیم اور اس قسم کی ترکیبیں اس موقع پر استعمال کی جاتی ہیں جہاں کوئی امر خارق عادت پیش آیا ہو اور وہ رفع جسمانی ہے۔

حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تیسری دلیل

پارہ ۶ سورۃ النساء آیت ۱۵۹، ارشادِ الہی ہے۔

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ

شہیداً ترجمہ: کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔
(کنز الایمان)

فائدہ: تمام تفاسیر معتبرہ میں ہے: اگرچہ ابھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ نہیں مانتے مگر عن قریب وہ وقت آرہا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں صحیح و سالم تشریف لائیں گے ان کے آنے پر ان کی وفات سے پہلے تمام یہودی و نصرانی ان پر ویسا ہی ایمان لے آئیں گے جیسا کہ ان کے متعلق قرآن نے خبر دی ہے اور جیسا کہ ان پر مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہودی ان کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور ان میں سے کوئی شخص ان کے قتل یا سولی ہو چکنے کا عقیدہ نہ رکھ سکے گا۔ دنیا دیکھ لے گی کہ اسلام نے جو فرمایا تھا وہ حق تھا اور ان اہل کتاب کے خیالات باطل تھے محض دفع الی السماء سے پہلے تکذیب و عداوت تھی نزول کے بعد تصدیق اور محبت ہوگی۔ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔
جمہور کے نزدیک:-

مشہور و مقبول اور راجح قول یہی ہے کہ **لَيُؤْمِنَنَّ** کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے اور یہ اور **قَبْلَ مَوْتِهِ** کی دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی یہی معنی کیا ہے کہ زمانہ نزول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر کتابی ان پر ایمان لے آئے گا۔
فتح الباری صفحہ ۳۵۲ جلد ۶ میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:-

اس پر ابن عباس نے جزم اور یقین کیا ہے جیسا کہ ابن جریر نے بروایت سعید بن جبیر ابن عباس سے باسناد صحیح روایت کیا ہے اور بطریق ابی رجاہ حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر قبل موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آن میں بھی زندہ ہیں جب نازل ہوں گے اس وقت ان پر سب ایمان لے آئیں گے اور یہی اکثر اہل علم سے منقول ہے اور اسی کو ابن جریر وغیرہ نے راجح قرار دیا ہے۔

تفسیر ابن جریر صفحہ ۱۴ جلد ۶ میں ہے:-

اور قتادہ اور ابو مالک سے بھی یہی منقول ہے کہ قبل موت کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اور موتہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نازل ہوں گے اس حال میں کہ وہ فیصلہ کرنے والے ہوں گے خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور لڑائی کو ختم کر دیں گے (یعنی کوئی کافر نہیں رہے گا کہ اس کے خلاف جہاد کریں) مال کو بہادیں گے

یہاں تک کہ مال کو قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھو۔ **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ**۔ معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اور اسی عقیدہ پر اجماع امت ہے۔

تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۲۳ جلد ۳ میں ہے:-

صحیح قول یہی ہے کہ دونوں ضمیریں (یہ اور مَوْتِهِ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور آیت کی تفسیر اس طرح کی جائے کہ آئندہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ایمان لے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیشک رسول ہیں۔ ابن جریر طبری نے یہی قول اختیار فرمایا ہے سبقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مقصود ہے اور یہی قول حق ہے جیسا کہ ہم اس کو دلیل قطعی سے ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔

دوسرا قول:- ابن جریر اور ابن کثیر فرماتے ہیں ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس پر حق واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔

حیاتِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھی قرآنی دلیل

☆..... **وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْبَهْدِ وَكَهْنًا** (آل عمران) اور (بطور معجزہ عیسیٰ علیہ

۱:- بخاری صفحہ ۴۹۰ جلد اول، مسلم صفحہ ۷۸ جلد اول۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

السلام) لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں۔

تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا (مائدہ) (اے عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ) تو لوگوں سے بات کرنے گا پالنے میں اور پکی عمر میں۔

تفسیر کبیر میں ہے آپ نے بچپن میں بطور معجزہ بنی اسرائیل سے کلام فرمایا اور بڑھاپے میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کریں گے بچپن میں کلام آسمان پر جانے سے پہلے تھا مگر بڑھاپے کا کلام آسمان سے واپس آ کر ہوگا ان وجوہات سے بڑھاپے کا کلام چند معجزات کا مجموعہ ہے۔ آسمان سے نزول فرما کر کلام فرمانا معجزہ ہے ورنہ کہوت میں عام طور پر لوگ بولا ہی کرتے ہیں۔

☆.....طبقات ابن سعد صفحہ ۳۲ جلد ۱ میں ہے:-

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے آسمان کی طرف بتیس سال اور چھ ماہ کی عمر مبارک تھی کہوت یعنی بڑھاپے کا زمانہ آسمان سے واپس تشریف لا کر بسر کریں گے ورنہ آیت کریمہ کا انکار لازم آئے گا۔ اس حوالہ سے ثابت ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل تھے اس کے مقابلہ میں بخاری کا منقطع قول معتبر نہیں۔

حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پانچویں قرآنی دلیل

پارہ ۳ سورہ آل عمران آیت ۱۵۴۔ وَكُفِّرُوا وَاكْفُرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے انہیں بچانے کی

ایسی پختہ اور قوی تدبیر فرمائی جس سے یہود بے خبر رہے اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں میں بہتر اور قوی تدبیر فرمانے والا ہے کہ اس نے خفیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا اور دوسرے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل کر کے تختہ دار پر لٹکوا دیا یہودی اب تک حیران ہیں کہ اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا اور اگر اپنے آدمی کو سولی دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔

حیاتِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چھٹی قرآنی دلیل

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

(پارہ ۲۵ سورہ زحرف آیت ۶۱)

صحابہ کرام اور تمام محدثین و مفسرین نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا قیامت کی پہچان اور نشانی ہے اس میں شک نہ کرو اور میری اتباع کرو۔ یہی (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا) صراطِ مستقیم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور آپ کا آسمان سے اترنا علامت قیامت ہوگی۔ چنانچہ تفسیر درمنثور نے حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، مجاہد و حسن رضی اللہ عنہم سے روایت کی قیامت سے پہلے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔

تفسیر ابن کثیر نے حضرت مجاہد و ابو ہریرہ، ابن عباس ابو العالیہ ابی مالک، عکرمہ، حسن قتادہ، ضحاک رضی اللہ عنہم سے یہی تفسیر نقل کی ہے اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر آنے کی احادیث متواتر ہیں نیز تفسیر کبیر و غیرہ نے اس

آیت کے یہی معنی کئے۔ اے

حیاتِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتویں قرآنی دلیل

پارہ ۷ سورۃ مائدہ - عِيدًا لِأَوْلَادِنَا وَآخِرِنَا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائے مانگی ہمارے اوپر کھانا نازل فرما جب تو ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے گا تو وہ دن میری عمر اول ماننے والے امتیوں کے واسطے یوم عید ہوگا اور میری آخری عمر کے متبعین کے واسطے بھی یوم عید ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اول اور اپنے آخر میں اپنوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ واؤ مغایرت کے لیے درمیان میں رکھ دی آپ کے ماننے والوں کے اولین و آخرین کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر رہا ہے۔

حیاتِ مسیح علیہ السلام کے ثبوت میں احادیث مبارکہ

☆..... صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ شریف میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم (مرزا یو! حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم پر یقین کرو) حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام حاکم عادل ہو کر تم میں اتریں گے صلیب کو توڑ دیں گے (یعنی عقیدہ صلیب ختم ہو جائے گا) خنزیر کو فنا کریں گے (یعنی کوئی خنزیر خور باقی نہیں رہے گا) جزیہ کا حکم ساقط کریں گے (یعنی کوئی کافر نہیں ہوگا) اور اس زمانہ میں ایک سجدہ دنیا بھر سے

ان۔ در منشور صفحہ ۱۰۸۱، ۱۰۸۳، طبع ضیاء القرآن، تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۵۴ جلد چہارم طبع ضیاء القرآن، تفسیر کبیر صفحہ ۶۳۰ جلد ۲۷ طبع لاہور، تفسیر جامع البیان صفحہ ۱۱۵ جلد ۱۳ طبع بیروت

ابو الجلیل فیضی غفرلہ

۱۹۹۵ء۔

افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تصدیق چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو۔

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا الْيُودُ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ

☆..... مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل ہو کر تم میں تشریف لائیں گے ان کے زمانہ میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے (یعنی ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا) حسد و بغض دلوں سے نکل جائے گا مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا۔ ۲

☆..... اسی مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر جہاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں آجائیں۔ ۲

☆..... ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، نکاح کریں گے صاحب اولاد ہوں گے، ۴۵ سال قیام فرمائیں گے (گنبد خضریٰ) میں دفن ہوں گے قیامت کے دن ہم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی مقبرے سے اٹھیں گے اور

ابن بخاری رقم الحدیث ۳۲۲۸، مسلم رقم الحدیث ۲۲۲، ترمذی رقم الحدیث ۲۲۲۰، ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۰۸۷۸، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۳۹۹ جلد یازدہم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۲ جلد پانزدہم، ابن حبان رقم الحدیث ۱۸۶۸، مسند احمد رقم الحدیث ۱۰۱۲۲ جلد سوم، شرح السنة رقم الحدیث ۲۱۷۰ جلد ہفتم۔

۲۔ مسلم صفحہ ۸۷ جلد اول طبع کراچی، مشکوٰۃ صفحہ ۲۷۹ طبع ملتان

ابو جلیل فیضی غفرلہ

ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) ہمارے دائیں بائیں ہوں گے۔

(مشکوٰۃ شریف ۲۸۰، الوفا صفحہ ۸۲۳ طبع لاہور)

نوٹ ضروری:۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ ان احادیث میں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے میں مراد ہوں۔ مگر خیال رہے کہ نہ مرزا کا نام عیسیٰ ہے اور نہ ان کی ماں کا نام مریم بلکہ مرزا جی کا نام منشی غلام احمد اور اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے۔ نہ مرزا جی کبھی مدینہ منورہ گئے اور نہ وہاں مرے اور نہ گنبد خضریٰ میں دفن ہوئے نہ ان کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوئی خود چندوں پر گزارا کیا اب بھی اس کی اولاد قبریں بچ کر پیٹ پال رہی ہے۔ نہ اونٹ بے کار ہوئے نہ معلوم کہ وہ احادیث کے مصداق کیسے بن گئے؟

☆..... ابو داؤد صفحہ ۲۳۶ جلد دوم طبع ملتان اور مسند احمد صفحہ ۲۸۲ جلد دوم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دعوت اسلام فرمائیں گے ان کے دور میں اسلام کے سوا سب دین مٹ جائیں گے اور شیر، اونٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑیا بکری کے ساتھ چریں گے اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور وہ انہیں نقصان نہ دیں گے۔ کیا مرزا جی کے دور میں ایسا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں معلوم ہوا یہ وہ مسیح نہیں جس کی حضور علیہ السلام نے خبر دی۔

☆..... بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

انے مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۲۰۸۴۵ جلد یازدہم، مصنف ابن ابی شیبہ رقم

الحدیث ۱۹۳۷۲ جلد پانزدہم۔ ابو جلیل فیضی غفرلہ

تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارے امام (محمد مہدی علیہ السلام) تم میں سے ہوں گے۔ ۱۔

☆..... ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے امام ہادی حاکم عادل ہوں گے۔ (مختصر تاریخ دمشق صفحہ ۱۵۴ جلد ۲۰)

☆..... احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ فرمایا یہ کیونکر ممکن ہے وہاں صرف میری اور ابو بکر اور عیسیٰ بن مریم کی قبر کی جگہ ہے۔ (مسند احمد جلد ۷)

☆..... ابن ماجہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دو جاں بھاگے گا اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بابل کے پاس پائیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ ۲۔ ملخصاً

☆..... مسلم نے حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ

۱:- بخاری صفحہ ۲۹۰ جلد اول، مسلم صفحہ ۸۷ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۳۳۶ جلد دوم

شرح السنہ جلد ۷ رقم الحدیث ۴۱۷۲، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۲۰۸۴۱۔

۲:- سنن ابن ماجہ صفحہ ۵۲۱ جلد دوم طبع فرید بک شال لاہور۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینار سے اپنے ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے اتریں گے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے تا حد نظر ان کی سانس جائے گی اور ان کی سانس سے کافر مریں گے باب لد کے پاس دجال کو قتل کریں گے۔ (مسلم شریف صفحہ ۴۰۰ جلد دوم، ابو داؤد شریف صفحہ ۲۲۵ جلد دوم)

☆..... ابو داؤد صفحہ ۲۲۶ جلد دوم، مسند احمد صفحہ ۴۰۶ جلد دوم میں باسانید صحیح فتح الباری شرح بخاری صفحہ ۳۵۷ جلد ۶ تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۶ جلد ۳ میں ہے:-

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء باپ شریک بھائی ہیں شریعتیں مختلف اور دین، اصول شریعت سب کا ایک ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا وہ میانہ قد ہوں گے رنگ ان کا سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا ان پر زورنگے ہوئے کپڑے ہوں گے سر کی یہ شان ہوگی کہ گویا اس سے پانی ٹپک رہا ہے اگرچہ اس کو کسی قسم کی تری نہیں ہوگی، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ کو اٹھائیں گے، سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو نیست و نابود کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے دور میں دجال کو قتل کرائے گا پھر تمام روئے زمین پر ایسا امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے سانپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال ٹھہریں گے (ایک اور حدیث ۴۵ سال کی بھی گزر چکی ہے)

پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی آسمان سے نازل ہونے کے بعد قیامت سے پہلے جب یہ سب باتیں ظہور میں آجائیں گے تب ان کی وفات ہوگی۔

☆..... ابن کثیر صفحہ ۲۳۰ جلد ۲ میں ہے: سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کو ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں مرے وہ قیامت کے قریب ضرور لوٹ کر آئیں گے اس حدیث میں راجع کا لفظ صراحۃً موجود ہے جس کے معنی واپس آنے والے کے ہیں یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص دوسری جگہ گیا ہو اور پھر وہ وہاں سے پاس آئے۔

☆..... کنز العمال صفحہ ۲۲۸ جلد ۲ میں ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔
ان دونوں حدیثوں میں مِنَ السَّمَاءِ كَالْفَرْحِ موجود ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔

☆..... کتاب الاذحہ صفحہ ۷۷ میں ہے: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے (اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے زمین پر نہ تھے بلکہ زمین کے بالمقابل آسمان پر تھے)

اور میرے قریب مدفون ہوں گے۔ قیامت کے دن میں حضرت مسیح ابن مریم علیہما السلام کے ساتھ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے بھی کتاب الوفاء میں بیان کیا حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔

ان تمام احادیث اور روایات سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ احادیث میں جس مسیح کے نزول کی خبر دی گئی اس سے وہی مسیح مراد ہیں جو حضرت مریم علیہا السلام کے لطن سے بغیر باپ کے نفخہ جبریل سے آیت اللہ بن کر پیدا ہوئے اور جن پر اللہ نے انجیل اتاری نزول سے امت محمدیہ میں سے کسی دوسرے شخص کا پیدا ہونا مراد نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثل ہو۔ امام بخاری اور دیگر آئمہ حدیث کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم اور آل عمران اور سورۃ النساء کی آیات کو ذکر کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ احادیث میں ان ہی حضرت مسیح ابن مریم کا نزول مراد ہے۔ معاذ اللہ اس کا مصداق اگر مرزا جی ہیں تو مرزا جی اپنے اندر وہ علامتیں بتائیں کہ جو احادیث میں نزول مسیح کی ذکر کی گئیں ہیں۔

۱۔ تمام ملتوں کا ختم ہو کر فقط ایک ملت اسلامیہ بن جانا کہ روئے زمین پر سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہ رہے۔

۲۔ خنزیر کو قتل کرنا اور صلیب کو توڑ دینا یعنی یہودیت اور نصرانیت کو مٹا دینا۔

۳۔ مال کو پانی کی طرح بہا دینا کہ اس کو قبول کرنے والا نہ رہے۔

۴۔ جزیہ کو اٹھا دینا۔

۵۔ اور زمین پر اتنا امن ہو جانا کہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں اور بچے

سانپوں سے کھیلنے لگیں۔

ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت مرزا جی کے زمانے میں نہیں پائی گئی بلکہ اس کے برعکس اسلام کو تنزل اور صلیبی مذہب کو ترقی اور اسلامی حکومت کا زوال اور نصاریٰ کا غلبہ جس قدر مرزا جی کے زمانہ میں ہوا اس کی نظیر نہ دور گذشتہ میں ہے اور نہ آئندہ میں ترقی کی حکومت پر جس قدر بھی زوال آیا وہ تمام کا تمام مرزا جی کے دور منحوس میں آیا۔ مرزا کے دور میں کسر صلیب اور قتل خنزیر کے بجائے (خاکم بدہن) کسر اسلام اور قتل مسلمانان خوب ہوا۔ مرزا جی کے زمانہ میں عیسائی تو کیا مسلمان ہوتے الٹا مسلمان عیسائی بنائے گئے۔ مرزا جی جزیہ کو تو کیا موقوف کرتے خود ہی نصاریٰ کے باج گزار ہو گئے اور اپنی زمین کا ٹیکس اور محصول انگریزوں کو دیتے رہے۔ مسیح موعود کی علامتوں میں سے ایک علامت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اتنا مال بہائیں گے کہ کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ رہے گا مگر مرزا جی مال تو کیا بہاتے خود ہی ساری عمر چندہ مانگنے میں گزری۔ کبھی مکان کے لیے چندہ مانگا اور کبھی مدرسہ کے نام سے اور کبھی مینارہ مسیح کے نام سے اور کبھی لنگر خانہ کے نام سے اور کبھی بیعت کی فیس کے نام سے اور کبھی کتابوں کی اشاعت کے نام سے۔ غرضیکہ ہر حیلہ سے مال جمع کرنے کی تدبیریں کرتے رہے اور تحصیل دنیا کے وہ نئے نئے طریقے نکالے کہ جو کسی بڑے سے بڑے مکار کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہو سکتے تھے اور مرزا جی کی اولاد نے قبریں بیچنے کا دھندہ شروع کیا۔ اس حقیقت کے واضح اور آشکار ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بد عقل اور بد نصیب ایسے مکار پر اپنی ایمان کی دولت کو قربان اور نثار کرنا چاہتا ہے تو اسے اختیار ہے۔ ہمارا کام تو حق و باطل کے فرق کو واضح کر دینا ہے سو الحمد للہ وہ کر چکے دوا کر چکے دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا ہدایت بخشے اور ہدایت پر قائم رکھے۔

آئمت اسلامیہ کا حیات حضرت مسیح علیہ السلام پر اجماع

۱۔ امام احمد بن حنبل کی پیش کردہ حدیث آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں نیز انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی بیسوں حدیثیں جمع فرمائی تھیں۔

(مسند امام احمد)

۲۔ امام اعظم ابوحنیفہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں ذجال کا نکلنا، یا جوج ماجوج کا خروج سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمان سے اترنا اور سارے علامات قیامت حق ہیں۔

۳۔ عینیہ میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا اس حال میں کہ لوگ کھڑے ہوئے (حسی علی الفلاح پر) نماز کی تکبیر سن رہے ہوں گے کہ بادل چھائے گا اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔

علامہ زرقانی مالکی زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر ہمارے نبی ﷺ کی شریعت پر فیصلہ فرمائیں گے وہ اگرچہ امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی نبی بھی ہوں گے کیونکہ نسخ شریعت سے نبوت زائل نہیں ہوتی۔

۵۔ امام شافعی کے مقلدین امام سیوطی، امام رازی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تسلیم کی اسی طرح امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد وغیر ہم محدثین نیز امام غزالی امام ابن جوزی، حضور غوث اعظم تمام آئمہ بزرگوں کا یہی عقیدہ تھا۔ غوث اعظم سے منسوب کتاب غنیۃ الطالبین میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا۔

(تفسیر نعیمی صفحہ ۳۶۱ جلد سوم)

یوم میثاق کا وعدہ:-

میثاق کے دن گروہ انبیاء سے عہد لیا گیا تھا جب تم نبی آخر الزمان ﷺ کا زمانہ پاؤ تو ان کی مدد کرنا، ضروری تھا کہ اس جماعت میں کوئی پیغمبر ایسا بھی ہوتا جو اس عہد پر عمل کر کے سب کی نمائندگی کرتا اس کے لیے بحکم الہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتخب کئے گئے تاکہ یہ عہد فقط قوی نہ رہے عملی بھی ہو۔

اعتراض:- ارشادِ خداوندی ہے قَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جملہ انبیاء وفات پا گئے۔

جواب:- اگر سارے نبی وفات پا گئے ہوتے تو خدا قدمائت فرماتا قد خلت تو حیات مسیح کی دلیل ہے۔ خلت کے معنی موت نہیں بلکہ خالی ہونا، گزر جانا ہے۔ اس لیے قضائے آسمانی کو خلاء کہتے ہیں تنہائی کو خلوت۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ سے پہلے نبی گزر گئے خواہ وفات پا کر یا آسمان پر جا کر۔ ان معانی پر اجماع مفسرین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے گزرے کہ ان پر ابھی تک موت نہیں آئی فنا نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کی نوعیت سب سے مختلف ہے۔

اعتراض:- عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانا، خدا نے معبودان مِنْ دُونِ اللّٰهِ کو اَمْوَاتٌ غَيِّدُ اَحْيَاءُ فرمایا۔ لہذا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے۔

جواب:- اَمْوَاتٌ غَيِّدُ اَحْيَاءُ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں یہ آیت بے جان مردوں، بتوں کے حق میں اتری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بہت بڑی شان ہے خدا نے شہداء کے بارے فرمایا انہیں مُردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں

رزق دیئے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور بت پتھر بے جان اور مُردے ہیں بتوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ایک جیسا ماننا کفر ہے۔

اعتراض:- حدیث شریف میں ہے اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام آج زمین پر زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی پڑتی۔

جواب:- تمام امت کا اجماع ہے کہ اس حدیث میں زندگی سے مراد زمین کی ظاہری

زندگی مراد ہے جس پر شرعی احکام عائد ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان

پر اس طرح زندہ ہیں جس پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے نہ روزہ نہ نماز۔

(تفسیر نعیمی صفحہ ۵۵۰ جلد ۳)

مغالطہ:- مرزائی کہتے ہیں امام رازی بلندی درجات کے قائل ہیں۔

جواب:- اس کے جواب میں قَلْعَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ پڑھ دینا ہی کافی ہے۔ ایک

ہے صرف بلندی درجات اور دوسرے ہے بلندی مکانی۔ امام رازی کیا بلکہ ساری

امت صرف بلندی درجات کی قائل نہیں۔ بلندی درجات کے ساتھ ساتھ ساری

امت مسلمہ بمعہ امام رازی بلندی مکانی دفع الی السماء جسمانی کی بھی قائل ہے۔

اعتراض:- مجمع البحار میں ہے امام مالک موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

قائل ہیں۔

جواب:- امام مالک نے فرمایا مات یہاں آسمان پر جانے کے معنی میں ہے۔ امام

مالک بلکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔

مرزاجی کا اعتراف حقیقت:- ازالہ اوہام طبع پنجم صفحہ ۲۶۳ میں مرزاجی لکھتے ہیں

مات کے معنی لغت میں نوم بھی ہیں (دیکھو قاموس) نیز مرزا صاحب کی اسی کتاب میں ہے لغت میں موت بمعنی نوم (نیند) اور غشی بھی آتا ہے یعنی بحالت نیند اٹھا لیا۔ تعجب ہے کہ مرزائی امام مالک کے اس قول مات میں مرنا مراد کیسے لیتے ہیں جبکہ پوری امت حیات مسیح کی قائل ہے۔

اعتراض:- حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہوں تو لازم آتا ہے کہ وہ درجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں کہ حضور ﷺ زمین پر ہیں۔

جواب:- صدر جہاں بھی بیٹھے صدر ہی ہے اونچے نیچے ہونے پر درجہ کا مدار نہیں۔ ورنہ

تارے چاند سورج اور ملائکہ، حور و غلمان آسمان پر ہی ہیں کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں؟ موتی پانی میں نیچے ہوتا ہے اور بلبلہ اوپر کیا بلبلہ افضل ہے؟ مرزا جی نیچے اور کوئے، گدھین، اُلو اوپو اس طرح تو مرزا جی سے اُلوا افضل ٹھہرا۔

سوال:- حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں وہ یہاں آ کر کون سے احکام چلائیں گے؟

جواب:- نبی کا رب تعالیٰ سے تعلق ہے اور مخلوق سے بھی، ربانی تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا ان

کو ہمیشہ عظمت و وقار حاصل رہتا ہے مگر شیخ کے بعد ان کا تعلق مخلوق سے بحیثیت نبی

ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کہ ان کی شریعت کے احکام جاری نہیں رہتے یہی حال

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حیثیت سے تشریف

لائیں گے کہ اللہ کے نزدیک نبی ہوں گے مگر مخلوق پر حضور علیہ السلام کی شریعت کے

احکام جاری کریں گے۔

نوٹ ضروری قابل توجہ:- حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور صحابی بھی۔

حافظ شمس الدین ذہبی تجرید میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ زرقانی شرح مواہب صفحہ ۳۲۷ جلد ۵ میں فرماتے ہیں: کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جس طرح نبی اللہ اور رسول اللہ ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اس لئے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حضور علیہ السلام سے معراج کی رات وفات سے پہلے بحالت حیات اسی جسد عنصری کے ساتھ ملاقات کی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ باقی انبیاء نے وفات کے بعد یعنی ذائقہ موت چکھنے کے بعد ملاقات کی اس لئے بقیہ نبی صحابی نہیں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحابی ہونے کی تعریف صادق آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کے معاصر ہونا تو دلائل حیات سے معلوم ہو چکا تھا مگر احادیث معراج اور ابن عساکر اور ابن عدی کی روایات سے ملاقات بھی ثابت ہو گئی۔ علامہ تاج الدین سبکی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہونے کو بطور القاب اور معمر اپنے ایک قصیدہ میں ذکر کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ کون شخص ہے کہ جو بلا اتفاق ابو بکر و عمر سے بھی افضل ہے کہ جو تمام صحابہ سے افضل و بہتر ہے وہ شخص علی و عثمان سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ وہ (عیسیٰ علیہ السلام) مصطفیٰ کریم ﷺ کی امت کا ایک فرد ہے۔

حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور محدثین کے نزدیک نبی ہیں مگر حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں جیسا کہ بعض روایات سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضور علیہ السلام سے معلوم ہوئی۔ (اصابہ) اس روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات مذکور ہے۔ اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ حضرت انس بن مالک

رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو پیغمبروں کے صحابی ہیں تو خلافِ حق نہ ہوگا۔

اجماع امت:-

شرح عقیدہ سفارینیہ صفحہ ۹۰ جلد ۲ میں ہے: تمام امت کا اجماع ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے اور اہل اسلام میں سے ان کا کوئی مخالف نہیں۔ صرف فلاسفہ اور ملحد و بے دین لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے جن کا اختلاف قابل اعتبار نہیں اور نیز تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق حکم کریں گے مستقل شریعت لے کر آسمان سے نازل نہ ہوں گے۔ اگرچہ وصف نبوت ان کے ساتھ قائم ہوگا۔

اعتراض:- کسی شخص کا دوسرے کے مشابہ اور ہم شکل ہو جانا ناممکن اور محال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طیطلا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو کر پھانسی پا جائے۔
جواب:- شکلیں بدلنا اور کسی کا دوسرے کے ہم شکل ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے۔

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ کے مشابہ وہم شکل ہو گیا۔

۲۔ بدر کی لڑائی میں شیطان سراقہ کے مشابہ وہم شکل ہو کر کفار مکہ کو جنگ پر اکساتا رہا جب اس نے فرشتوں کو آسمان سے بشروں کے مشابہ ہو کر اترتے دیکھا تو ڈوم دبا کر بھاگا۔ دنیا میں بہت لوگ آپس میں ہم شکل ہوتے ہیں ہاں یہ خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ کوئی آپ کا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ شیطان بھی خواب میں حضور ﷺ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ ان الشیطن لا یتمثل بی۔

۳۔ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کے ہم شکل بن کر آتے تھے۔ جنات مختلف جانوروں کی شکل بن سکتے ہیں۔

۴۔ حضور علیہ السلام نے بہت لوگوں کی شکلیں بدل دیں دیکھو مثنوی مولانا روم۔
۵۔ کُونُوا قِرْدًا پُرغور کرو۔

اعتراض:- حضور علیہ السلام معراج کی رات آسمان پر گئے اور واپس آگئے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تک وہاں رہیں گے کیا وجہ ہے۔

جواب:- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جا کر پھر عہدِ مصطفیٰ ﷺ میں زمین پر

تشریف لانا اور حضور علیہ السلام کا عرشی مہمان بن کر جانا اور کونین میں دھوم دھام

کا ہونا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرکشوں کی سرکوبی کے لیے زمین پر تشریف لانا

اور فرش پر جلوہ گر ہونا ان دونوں میں بڑا فرق ہے حضور علیہ السلام آسمان سے ہو کر

زمین پر اس واسطے رکھے گئے کہ حضور علیہ السلام سے یہاں کا انتظام قائم رہے۔

مرکز دائرہ میں رہنا چاہیے کیونکہ اس کے ہٹنے سے سارا دائرہ بگڑ جائے گا۔

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

(حدائق بخشش صفحہ ۱۱۷)

مغالطہ:- عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

احمد نبی (معاذ اللہ) میرے مرنے کے بعد آئیں گے۔

مرنے کے بعد مرزائیوں کی من گھڑت بات ہے امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام نے فرمایا میرے آسمان پر جانے کے بعد وہ رسول تشریف لائیں گے جن کا آسمانی نام احمد ہے غلام احمد نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق چونکہ آسمان سے ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

خیال رہے بعد ہمیشہ موت کے لیے نہیں آتا ارشادِ خداوندی ہے **عُتِلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمٌ** کیا ولید بن مغیرہ مرنے کے بعد حرام زادہ ہے؟ ہرگز نہیں ارشادِ خداوندی ہے۔

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظٰهِيْرٌ کیا فرشتے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں؟ ہرگز نہیں۔

مِنْ بَعْدِي ضرور ارشاد فرمایا مگر اس سے مراد وصال کے بعد نہیں بلکہ آسمان پر جانے کے بعد مراد ہے۔ خدا ہدایت بخشنے۔

مغالطہ:- قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام **فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِيْ خَدَا** کے حضور عرض کر کے اپنی موت کا اعتراف کریں گے۔

جواب:- **فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِيْ** کا معنی یہ نہیں کہ جب تو نے مجھے موت دیدی۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کا معنی ہے جب تو نے مجھے بجسفہ اٹھالیا۔ دیکھو تفسیر

ابن عباس صفحہ ۸۳، صاوی علی الجلالین صفحہ ۳۱۷، خازن صفحہ ۹۲ جلد ۲ جامع البیان صفحہ ۱۱۱ جز ہفتم، تفسیر کبیر صفحہ ۷۰۰ جلد ۳، تفسیر ابی سعود صفحہ ۷۵۱ جلد ۳، تفسیر نیشاپوری صفحہ ۶۶ جلد ۲، تفسیر معالم التنزیل بغوی صفحہ ۹۲ جلد ۲، تفسیر جواہر الحسان صفحہ ۵۰۳ جلد اول، تفسیر بیضاوی صفحہ ۳۰۰ جلد اول۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

صحااح ستہ

اور

فقہ حنفیہ

یہ کہنا کہ فقہ حنفیہ صحاح ستہ کے خلاف ہے۔ حنفی عامل بالحدیث نہیں یہ قول سراسر غلط ہے اس کے جواب میں یہ مقالہ حاضر خدمت ہے۔

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلیٰ الہ واصحابہ اجمعین اما بعد
فقہ حنفیہ کی تائید میں کافی احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ اگر یہ حدیثیں نہ بھی ہوتیں جب بھی فقہ حنفیہ کی صداقت میں کلام نہیں۔ اس لئے کہ جب فقہ حنفیہ مرتب ہوا صحاح ستہ کا وجود تک نہ تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ (تابعی المتوفی ۱۵۰ھ) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز ادا فرماتے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نماز کے مطابق فقہ حنفیہ کی نماز جو عین اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کو مرتب فرمایا۔ اب صحاح ستہ کی احادیث مبارکہ جو فقہ حنفیہ کی تائید کرتی ہیں ان کو بیان کرتا ہوں جو اصل کتب صحاح ستہ (بخاری مسلم ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) دیکھنا چاہے فقیر ہر وقت دکھانے کے لئے تیار ہے۔

☆..... صحیح بخاری صفحہ ۷۶ جلد اول، صحیح مسلم صفحہ ۲۲۲ جلد اول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اذا اشتد الحر فابردوا بالصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم
جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر کو ٹھنڈا کرو کیونکہ سخت گرمی جہنم کی بھاپ سے ہے۔

☆..... ابو داؤد صفحہ ۹۷ جلد اول

ان اس مضمون کی حدیث بخاری صفحہ ۸۷ جلد اول السنن الكبرى للبيهقي صفحہ ۲۳۸ جلد اول، کنز العمال صفحہ ۲۱۹ جلد ہشتم، نصب الراية صفحہ ۲۲۸ جلد اول میں بھی ہے۔ فیضی

نماز میں صفوں کو چونے گچ کر دو اور صفوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دو اور گردنوں کو برابر کرو۔

فائدہ: معلوم ہوا ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہونا احادیث صحاح ستہ کے خلاف ہے۔

☆..... ابو داؤد صفحہ ۱۱۲ جلد اول

تکبیر تحریرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے دونوں کانوں کے مقابل کیا پھر اللہ اکبر فرمایا۔

☆..... مشکوٰۃ شریف صفحہ ۷۵ بحوالہ بخاری و مسلم ہے۔

حضور اکرم ﷺ تکبیر تحریرہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر کرتے

☆..... مشکوٰۃ شریف صفحہ ۷۷ بحوالہ ابو داؤد ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگوٹھے تکبیر تحریرہ میں کانوں کے برابر کئے۔

☆..... ابو داؤد صفحہ ۷۵ جلد اول

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں سوائے تکبیر اولیٰ کے رفع یدین نہیں۔

☆..... ایسا ہی ترمذی صفحہ ۳۳ جلد اول میں ہے۔

☆..... ابو داؤد ۷۵ صفحہ جلد اول

متواتر دو حدیثیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہتھیلی کو ہتھیلی کی

پشت پر رکھنا ناف کے نیچے سنت ہے۔

☆..... ابو داؤد شریف صفحہ ۱۲۱ جلد اول

حضور ﷺ نماز الحمد سے شروع کرتے (بسم اللہ زور سے نہیں پڑھی)

☆ مسلم شریف صفحہ ۷۲ جلد اول

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نماز الحمد سے شروع فرماتے (بسم اللہ زور سے نہیں پڑھی)

☆ ابن ماجہ صفحہ ۵۹ جلد اول

امام کو جماعت میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا بدعت ہے۔

☆ سنن نسائی صفحہ ۱۴۴ جلد اول

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا اور ہمیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز پڑھائی ہم نے ان سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔

☆ ابو داؤد صفحہ ۱۲۱ جلد اول

ابو داؤد نے بسم اللہ کو زور سے نہ پڑھنے کا باب باندھا ہے۔

☆ اسی طرح امام نسائی نے نسائی صفحہ ۱۴۴ جلد اول میں اسی قسم کا باب باندھا ہے

☆ بخاری صفحہ ۱۰۸ جلد اول

۱- شرح معانی الآثار صفحہ ۱۱۹ جلد اول، جامع ترمذی صفحہ ۳۳ جلد اول، مسند امام اعظم

صفحہ ۵۸، نسائی صفحہ ۱۰۵ جلد اول

۲- مسلم صفحہ ۷۲ جلد اول۔ طحاوی صفحہ ۱۱۹ جلد اول مسند احمد صفحہ ۵۷ جلد اول، ابن

خزیمہ صفحہ ۲۴۹ جلد اول۔ ابو جلیل فیضی غفرلہ

رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے معلوم ہوا فاتحہ خلف الامام

فرض نہیں۔

☆..... سنن نسائی صفحہ ۱۴۶ جلد اول

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے

سے روک دیا۔

☆..... ایسا ہی ترمذی شریف صفحہ ۴۲ جلد اول میں ہے۔

☆..... ایسا ہی مسلم شریف صفحہ ۱۷۲ جلد اول میں دو مقامات پر ہے۔

☆..... ایسا ہی نسائی شریف صفحہ ۱۴۶ جلد اول میں ہے۔

☆..... نسائی شریف صفحہ ۱۴۷ جلد اول

جب امام غیر المفضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔

☆..... صحیح بخاری صفحہ ۱۰۱ جلد اول

حضور اکرم ﷺ نے امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کا پورا طریقہ بغیر فاتحہ کے بتایا

☆..... سنن ابن ماجہ صفحہ ۶۱ جلد اول

اذا قراء فانصتوا جب امام قرأت کرے تم خاموش رہو۔

☆..... یہ حدیث دو مرتبہ ابن ماجہ میں ہے۔

☆..... نسائی شریف صفحہ ۱۴۶ جلد اول

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی شرح

میں ہے۔ اذا قرء فانصتوا جب امام قرأت کرے خاموش رہو۔

☆..... یہ حدیث نسائی شریف میں دو مرتبہ آئی ہے۔

☆..... ترمذی صفحہ ۳۲ جلد اول

”من صلی رکعة لم یقرء فیہا بام القرآن فلم یصل الا ان یکون وراء الامام“
ہذا حدیث حسن صحیح

جس نے بغیر فاتحہ نماز پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی مگر امام کے پیچھے بغیر فاتحہ کے نماز ہو جائے گی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

☆..... یہ حدیث ترمذی شریف میں دو مقامات پر آئی ہے۔ (واقعی بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی جب اکیلا ہو یا امام ہو)

☆..... ترمذی شریف صفحہ ۳۲ جلد اول

نماز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین آہستہ کہی وخفض بہا صوتہ

☆..... بخاری شریف صفحہ ۱۰۹ جلد اول پر دو حدیثیں۔

☆..... ترمذی شریف صفحہ ۴۰ جلد اول۔

☆..... سنن ابو داؤد شریف صفحہ ۱۳۱ جلد اول۔

☆..... سنن نسائی شریف صفحہ ۷۰ جلد اول۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر رفع یدین صحابی کو نماز سکھائی۔

☆..... ابن ماجہ صفحہ ۷۵ جلد اول میں ہے۔

بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا کرنا چاہیے رکوع و سجود میں رفع یدین

نہیں کرنا چاہیے۔ صرف بائیں طرف گر کر بیٹھنا منع ہے۔

☆..... نسائی شریف صفحہ ۱۶۲ جلد اول میں ہے۔

☆..... ابو داؤد صفحہ ۱۴۷ جلد اول میں ہے۔

☆..... سنن نسائی صفحہ ۱۳۲ جلد اول میں ہے۔

جب امام غیر المفضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ رکوع وسجود کی تکبیر کے وقت رفع یدین نہیں سورۃ فاتحہ پڑھنا صرف امام کا کام ہے۔ مقتدی کا نہیں امام کی اقتدا میں فاتحہ پڑھنا جائز نہیں۔

☆..... مسلم شریف صفحہ ۷۰۷ جلد اول

بذات خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بغیر رفع

یدین کے سکھایا۔

☆..... نسائی شریف صفحہ ۱۵۸ جلد اول

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں نہ رفع یدین عند

الركوع والسجواور نہ جلسہ استراحت۔

☆..... ایسا ہی مسلم شریف صفحہ ۱۶۹ جلد اول میں ہے۔

☆..... نسائی شریف صفحہ ۱۶۱ جلد اول

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں رسول

اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں تو آپ نے نماز پڑھی

سوائے ایک دفعہ کے رفع یدین نہیں کیا یعنی ہاتھ نہیں اٹھائے اب بتائیے عبداللہ بن

مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بغیر رفع یدین ہوئی یا نہیں۔

☆..... ایسا ہی ابو داؤد صفحہ ۱۱۶ جلد اول میں ہے۔

☆..... ابو داؤد شریف صفحہ ۱۱۶ جلد اول میں ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے اپنے

دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے قریب کرتے پھر رفع یدین نہ کرتے۔

☆..... یہ حدیث ابو داؤد شریف میں دو مرتبہ آئی ہے۔

☆..... نسائی شریف صفحہ ۱۵۸ جلد اول

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں راوی نے کہا کیوں نہیں! عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ نے صرف پہلی دفعہ رفع یدین کیا پھر نہیں لوٹایا۔

☆..... ترمذی شریف صفحہ ۳۵ جلد اول

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی مثل نماز پڑھی سوائے تکبیر تحریمہ کے پھر رفع یدین نہ کیا، فرمایا یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز ہے جو بغیر رفع یدین کے ہے۔

☆..... ابو داؤد شریف صفحہ ۱۱۲ جلد اول میں ہے۔

تابعین حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز بغیر رفع یدین عند الركوع والسجود مانتے تھے۔

☆..... مسلم شریف صفحہ ۱۸۱ جلد اول

حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم رفع یدین کرتے ہو جیسا کہ گھوڑے اپنی ڈمیں بار بار ہلاتے ہیں نماز میں سکون کرو۔ حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ایک اور واقعہ کے متعلق

ہے۔ اس حدیث سے تعلق نہیں۔

دلیل نمبر ۱:- پہلی حدیث جو ہم نے نقل کی ہے اس میں واقعہ یوں ہے خروج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کا ذکر نہیں بلکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور دوسری حدیث میں واقعہ اور ہے کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو سلام کے وقت اشارہ کرتے اور تیسری حدیث میں مع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔

دلیل نمبر 2:- جو ہم نے عدم رفع یدین کے متعلق حدیث بیان کی ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مالی اراکم رافعی ایدیکم صاف رفع یدین کا ذکر ہے۔ جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور باقی دونوں حدیثوں میں سے ایک میں تو تو مون باید یکم تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو اور تیسری حدیث میں ما شانکم تشیرون باید یکم موجود ہے کیا ہے تمہارا شان کہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو۔ تو صاف ثابت ہوا کہ سلام کے وقت اشارہ کرتے تھے اور پہلی حدیث میں صاف رفع یدین کے الفاظ ہیں جس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔

دلیل نمبر 3:- آخر میں ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلوٰۃ نماز میں سکون اختیار کرو نماز میں سلام کے وقت اشارہ کرنے سے اسکنوا فی الصلوٰۃ فرماتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صادق نہیں آتا کیونکہ وہ فی الصلوٰۃ کا مصداق ہی نہیں۔

☆..... نسائی شریف صفحہ ۱۶۴ جلد اول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینہ قنوت نازلہ پڑھی پھر ترک فرمادی۔

☆..... یہ حدیث نسائی شریف میں تین مقامات پر ہے۔

☆..... نسائی صفحہ ۱۶۴ جلد اول قنوت نازلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک

فرمادی حضرات ابوبکر، عمر، عثمان علی رضی اللہ عنہم نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔

☆..... بخاری شریف صفحہ ۱۳۶ جلد اول صرف ایک مہینہ قنوت نازلہ پڑھی گئی۔

☆..... بخاری شریف میں تین مقامات پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے صرف ایک مہینہ قنوت نازلہ پڑھی۔

☆..... ترمذی شریف صفحہ ۵۷ جلد اول

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی فجر کی دو سنتیں رہ جائیں تو

چاہیے کہ سورج چڑھنے کے بعد ان کو پڑھے۔

☆..... ابوداؤد شریف صفحہ ۲۸ جلد اول میں ہے:-

سرکار ﷺ نے فرمایا وتر حق (بمعنی واجب) ہے پھر جس شخص نے وتر نہیں پڑھے تو

وہ میری امت سے نہیں وتر حق ہے۔ تو جس شخص نے وتر نہیں پڑھے تو وہ ہم سے نہیں وتر

حق ہے تو پھر جس شخص نے وتر نہیں پڑھے تو وہ میری امت میں سے نہیں۔

☆..... ترمذی شریف صفحہ ۵۰ جلد اول

سرکار ﷺ نے فرمایا نماز جوڑا جوڑا ہے ہر دو رکعتوں میں ایک تشہد ہے۔

☆..... مسلم شریف صفحہ ۲۱۲ جلد اول، ابوداؤد شریف صفحہ ۱۵۱ جلد اول

سجدہ پہلے بعد از سلام ہے۔

☆..... ابو داؤد شریف صفحہ ۱۵۳ جلد اول

عید کے دن جمعہ جائز اور ظہر فرض ہوتی ہے۔

☆..... ابو داؤد شریف صفحہ ۱۵۳ جلد اول

سرکار ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس اس دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں تو

جو چاہے اس کو جمعہ بھی جائز ہے اور ہم دونوں کو جمع کرنے والے ہیں۔

☆..... ترمذی شریف صفحہ ۱۱۹ جلد اول

اکثر اہل علم اس پر عامل ہیں۔ جو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کے اصحاب سے 20 بیس رکعت تراویح روایت کی گئی ہے اور یہی حضرت سفیان

ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

اپنے شہروں مکہ معظمہ میں میں نے پایا کہ وہ بیس رکعتیں تراویح پڑھتے تھے۔

☆..... مسلم شریف صفحہ ۲۹۳ جلد اول، بخاری شریف صفحہ ۹۳۸ جلد دوم

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پھیلا کر دعائے نکتے آپ

کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔

☆..... ابو داؤد صفحہ ۲۱۶ جلد اول

میں دو مقامات پر دعا میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے۔

پہلی حدیث میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا

فرماتے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی اندر کی ہتھیلیوں کے ساتھ دعا فرماتے۔

دوسری حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک تمہارا رب زندہ ہے کریم ہے اپنے بندے سے حیا کرتا ہے جب بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے یہ کہ ان کو خالی لوٹا دے۔

☆ ترمذی شریف صفحہ ۳۰۰ جلد دوم

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ اس کی بغلیں ظاہر ہو جائیں سوال کرے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال مگر اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جب تک جلدی نہ کرے۔

☆ ابن ماجہ صفحہ ۲۸۳ جلد اول باب رفع الیدین فی الدعاء

☆ بخاری شریف صفحہ ۹۳۸ جلد دوم باب رفع الایدی فی الدعاء

حضور اکرم ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی صحابہ نے بغلوں کی سفیدی دیکھی

☆ یہی حدیث بخاری شریف میں اس کے ساتھ ہے۔

☆ ابو داؤد شریف صفحہ ۲۱۷ جلد اول

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اسی

قسم کی حدیث ابو داؤد صفحہ ۷۴۷ جلد اول میں ہے۔

☆ ابو داؤد صفحہ ۲۱۸، ۲۱۹ جلد اول میں دو مقامات پر موجود ہے۔

☆ ابو داؤد صفحہ ۲۲۰ جلد اول

ہر نماز کے بعد دعا مانگنا حضور اکرم ﷺ کی وصیت ہے۔

☆ ابو داؤد صفحہ ۲۱۶ جلد اول میں دو حدیثیں اس کے جواز کی ہیں۔

☆ ترمذی شریف صفحہ ۷۶ جلد اول نوافل کے بعد دعا جائز ہے۔

☆..... ابو داؤد شریف صفحہ ۲۱۵ جلد اول نماز کے بعد درود شریف اور دعا جائز ہے

☆..... مسلم شریف صفحہ ۲۹۳، ۳۱۳ جلد اول

تین دفعہ دعا مانگنا جائز اور مستحب ہے۔

☆..... کھانے پر ختم کا ثبوت ابو داؤد صفحہ ۲۸۵ جلد اول میں ہے۔

☆..... نذرانے پر دعا کا ثبوت ابن ماجہ صفحہ ۱۲۹ جلد اول میں ہے۔

ان بیاسی حوالہ جات سے ثابت ہوا ہے۔ فقہ حنفیہ عظیم فقہ ہے۔ جس کی تائید صحاح ستہ سے بھی ہوتی ہے۔ دیگر کتب احادیث میں بھی فقہ حنفیہ کی تائید میں کافی دلائل موجود ہیں۔ ضعیف ضعیف کی رٹ عبث ہے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں یہ ضعف کے وجوہ موجود نہ تھے۔ کیونکہ ضعیف راوی ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔

هذا ما ظهر لي في هذا الباب والله ورسوله اعلم بالصواب

ناجی فرقہ

سوا دا عظیم اہل سنت و جماعت

مذہب اربعہ میں سے

أحق، اصح، اور اقرب الی الحق

مذہب امام اعظم

رحمة الله عليه

ہونے کا ثبوت

سبب تالیف

غیر مقلدین تقریراً و تحریراً یہ عام پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حنفی مذہب قرآن و حدیث کے مخالف اور متصادم ہے سادہ لوح احناف سعودی ویزوں اور ریالوں کے لالچ میں اس پروپیگنڈہ کا شکار ہو رہے ہیں۔

اولاً:۔ اس مقالہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے عین مطابق اور اقرب الی الحق ہے۔

ثانیاً:۔ آج کل دیوبندی صاحبان حنفیت کی آڑ میں اعتزال اور وہابیت پھیلا رہے ہیں خالص حنفیوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگا کر عوام کو اپنے دام تزویر میں پھنسا کر نجدیت کی طرف لے جا کر غیر مقلدین کے لئے راہ ہموار کر رہے ہیں لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے حنفی بھائیوں کو اپنے امام اعظم اور حنفی علماء کے عقائد سے آگاہ کیا جائے۔

مذہب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے ارشادات بزرگان

ارشاد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ :-

خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیرومرشد کتاب بہشت بہشت

صفحہ ۲۵ و کتاب انیس الارواح صفحہ ۲۵ میں فرماتے ہیں امام اعظم کو فی تیس (یا چالیس)

سال تک رات کو نہیں سوئے اور آپ کا پہلو مبارک زمین پر نہیں لگا۔ پھر فرمایا کہ جب

انہوں نے آخری حج کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کعبے کے دروازے پر آئے اور کہا

دروازہ کھولو آج کی رات خداوند تعالیٰ کی عبادت کر لیں کون جانتا ہے کہ دوسری دفعہ

مجھے حج کی قدرت حاصل ہو یا نہ ہو دروازہ کھل گیا امام اعظم اندر چلے گئے خانہ کعبہ کے

دوستونوں کے درمیان نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے آدھا قرآن شریف پڑھ کر رکوع و سجود پورا کر کے (نماز ختم کرنے کے بعد) کہا اے خداوند میں نے تیری اطاعت ایسی نہیں کی جیسا کہ اطاعت کا حق تھا اور میں نے نہیں پہچانا تجھے جیسا کہ تیرے پہچاننے کا حق تھا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے ابوحنیفہ تو نے پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا میں نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے پیرو ہیں اور وہ لوگ جو تیرے مذہب (حنفی) پر چلیں گے انہیں بخشا۔ ثابت ہوا تمام حنفی مغفور ہیں۔

ارشاد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ:-

راحت القلوب صفحہ ۵۶ اور بہشت بہشت صفحہ ۱۵۲ میں فرماتے ہیں:-

مذہب کے شجرے سے ضرور واقف ہونا چاہئے پھر فرمایا کہ جس طرح مرید کو اپنے پیر کا شجرہ جاننا ضروری ہے اسی طرح مذہب کا شجرہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پروردگار سے کس طرح ملتا ہے پھر فرمایا کہ اگر سوال کیا جائے تو کس کے مذہب میں ہے تو کہو کہ امام اعظم کوئی کے مذہب میں ہیں جو بعینہ حضور علیہ السلام کا مذہب ہے اور خدا تعالیٰ تک ملنے کا ذریعہ ہے۔ (ملخصاً)

ارشاد محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ:-

افضل الفوائد مرتبہ امیر خسرو صفحہ ۵۶، ۵۷ اور بہشت بہشت صفحہ ۳۷۲، ۳۷۳

میں ہے امام اعظم نے تیس سال تک پشت مبارک زمین پر نہ لگائی اور نہ اس عرصے میں سوئے پھر جناب کی بزرگی کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں آپ نے ایک سو بیس مرتبہ قرآن شریف ختم کیا ہر روز چار مرتبہ قرآن مجید

ختم کیا کرتے تھے بعد ازاں فرمایا کہ جب امام ابو یوسف نے سنا کہ امام اعظم دن میں چار مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں تو فرمایا کہ چونکہ ہم بھی آپ کے مذہب میں ہیں اس لئے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہئے تاکہ قیامت کے دن آپ کے روبرو شرمندہ نہ ہوں۔
 داتا گنج بخش، جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ثم لاہوری کا ارشاد:-

داتا صاحب کشف المحجوب اردو صفحہ ۲۱۲ میں فرماتے ہیں۔ خواب میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں ابو حنیفہ تجھے اللہ نے میری سنت زندہ کرنے کے لئے بنایا ہے گوشہ نشینی کا عزم نہ کر چنانچہ آپ نے خدمت دین شروع کر دی اور بڑے بڑے مشائخ کرام کے مثل ابراہیم بن ادھم اور فضیل بن عیاض، داؤد طائی، بشرحانی رحمہم اللہ وغیرہ ہم کے استاد ہوئے۔

صفحہ ۲۱۶ میں لکھا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حضور کو کہاں تلاش کروں فرمایا ابو حنیفہ کے علم کے نیچے، میں (یعنی داتا جویری) ایک بار شام میں تھا اور حضرت بلال مؤذن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار کے سرہانے سو رہا تھا کہ اپنے کو مکہ معظمہ میں دیکھا اور اسی خواب میں دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے تشریف لارہے ہیں اور ایک بزرگ معمر کو اپنے پہلو میں اس طرح لے رکھا ہے جیسے بچوں کو شفقت سے لیتے ہیں میں فرط محبت سے دوڑا اور حضور کے پائے اقدس کو چومنے لگا اور میں اس تعجب میں تھا کہ یہ معمر حضور کے اتنے محبوب کون ہیں؟ حضور میرے تعجب کو نور نبوت سے سمجھ

گئے مجھے فرمانے لگے یہ تیرا امام ہے اور تیرے شہر کے لوگوں کا امام ہے یعنی ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس خواب کے بعد اس ہستی پاک کے ساتھ امید قوی ہے اور میرے اہل شہر بھی بالخصوص امیدوار ہیں اور اس خواب سے میرا یہ خیال بھی صحیح ہو گیا کہ حضرت امام انہیں پاک ہستیوں سے میں سے تھے جو اوصاف طبع سے فانی اور احکام شرع کے ساتھ باقی و قائم ہیں۔ اس لئے کہ ان کے چلانے والے حضور علیہ السلام ہی ہیں اور جب ان کے قائد خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں تو فانی الصفت ہوئے اور نبی کی صفت بقا سے قائم ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سے صدور خطانا ممکن ہے جو اس ذات کے ساتھ قائم ہے اس سے بھی خطا نہیں ہو سکتی یہ درحقیقت ایک نہایت لطیف رمز ہے۔

جس کی نماز نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا

اکابرین اولیاء داتا، جویری، خواجہ اجمیری، خواجہ عثمان ہارونی، بابا فرید الدین، خواجہ محبوب الہی دہلوی، پیر سواگ، خواجہ نقشبند، شاہ سلیمان تونسوی، خواجہ نور محمد مہاروی سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سب امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد تھے اگر حنفیوں کی نماز صحیح نہیں تو یہ اللہ کے ولی کیسے ہو گئے؟ اگر ان کو اولیاء اللہ مانتے ہو تو حنفی نماز عین سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطابق ہے۔

مقلدین سے حدیث لینا جائز اور تقلید شرک فی الرسائل؟

غیر مقلدین جن آئمہ حدیث (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی)

سے احادیث لیتے ہیں وہ سب کے سب مقلد تھے ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ تھا

اگر تقلید شرک فی الرسائل ہے تو مشرکین سے احادیث لینا کیسے جائز ہے؟

تحمید و تمہید

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد! غیر مقلدین اپنے رسالہ شمع توحید میں لکھتے ہیں آج سے تقریباً اسی سال پہلے سب مسلمان قریباً اسی خیال کے تھے جس کو آج کل بریلوی حنفی خیال کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں وہابیت نجدیت کی موذی مرض ابھی چند سالوں سے پیدا ہوئی ہے اس کی ساری ذمہ داری ان دیوبندی مولویوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے نجدی وہابی مذہب کو عربی مذہب کے لباس میں پیش کیا جب حریم شریفین کے سرکاری تحواہ خور اماموں کی نمازیں لوگوں نے دیکھیں تو یہاں آکر وہ بھی رفع یدین کرنے لگے اور اہل حدیث کہلوانے لگے اہل حدیث ہونا ان کا محض دعویٰ ہے اگر وہ واقعی اہل حدیث ہوتے تو ہر حدیث پر عمل کرتے۔ وہ حدیثیں تولے لیتے ہیں جن کا مطلب اسماعیل دہلوی نے اپنے خیال کے مطابق سمجھا ہے اور وہ حدیثیں جن پر امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قابل عمل ہونے کے لئے مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے اور تابعی ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھا ان کو چھوڑ دیتے ہیں امام اعظم فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی (میزان الکبریٰ جلد اول صفحہ ۳۵) جب مجھے صحیح حدیث ملی تو میں نے اسے اپنا مذہب قرار دیا میرے مذہب کا کوئی عمل خلاف حدیث نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر حدیث سنت نہیں اور ہر سنت حدیث کے مطابق ہے۔ ہم بحمد اللہ اہل سنت ہیں ہم حدیثوں میں سے سنت رسول تلاش کرتے ہیں ہمیں جس امام پر اعتماد ہے ان کا زمانہ زمانہ نبوی ﷺ کے قریب ہے وہ تابعی ہیں صحابہ کرام کو انہوں

۱۔ شمع توحید صفحہ ۵۲ از ثناء اللہ غیر مقلد وہابی۔ ابو الجلیل فیضی غفرلہ

نے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے جن احادیث سے استدلال فرمایا کہ پہلے ہاتھ کانوں کی
لو تک اٹھاؤ پھر رفع یدین نہ کرو امام کے ساتھ الحمد للہ پڑھو امام کے خلف یعنی سلام
پھیرنے کے بعد تمہاری کوئی رکعت رہتی ہو تو پھر فاتحہ پڑھو۔ آمین آہستہ کہو، ہاتھ زیناف
باندھو ان کو ضعیف کہنا زبردست مغالطہ ہے۔ کیونکہ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ان
احادیث سے استدلال فرما کر اپنا فقہ قرآن و سنت کے مطابق مرتب فرمایا تو وہ ضعیف
راوی جن کی وجہ سے بعد کے محدثین کرام، بخاری و مسلم وغیرہ کو روایت ضعیف ہو کر ملی
امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔

اسناد میں ان کا شامل ہونا بہت بعد کی بات ہے لہذا کسی غیر مقلد وہابی کو یہ ثابت کرنا
آسان نہیں کہ یہ حدیث امام اعظم رضی اللہ عنہ کو ضعیف ہو کر ملی علمائے اہل سنت کو
خیال رکھنا چاہئے کہ ضعیف ضعیف کی رٹ لگانے والے سے وجہ ضعیف پوچھیں پھر یہ
تحقیق کریں کہ یہ ضعیف امام اعظم رضی اللہ عنہ سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟

انشاء اللہ وہابی جی پانی مانگ جائیں گے!

حنفیت عین دین مصطفیٰ (ﷺ) ہے۔ حنفیوں کو غیر مقلدین یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ
امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مذہب دین مصطفیٰ (ﷺ) کے مد مقابل ایک نیا مذہب
ہے۔ (معاذ اللہ) حقیقت یہ ہے کہ ہم نے فروعاً میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کی
تقلید اس لئے کی ہے کہ انہوں نے ہم کو قرآن و سنت سے واضح کر کے بتلایا کہ
حضور ﷺ کا آخری عمل اولاً کانوں تک ہاتھ اٹھانا پھر رفع یدین نہ کرنا، آمین آہستہ کہنا
امام کے پیچھے الحمد للہ پڑھنے کا حکم وغیرہ ہے غیر مقلدین نے اپنے اعمال رفع یدین آمین

بالجہر، امام کے پیچھے الحمد پڑھنا وغیرہ صدیوں بعد کے لوگوں سے اخذ کئے اور ہم نے ایک تابعی سے اخذ کئے اگر اسماعیل دہلوی وغیرہ پر اعتماد کرنا اور ان کی بات مان کر ان کی تقلید کرنا شرک فی الرسالت نہیں تو امام اعظم رضی اللہ عنہ پر اعتماد کرنا کیسے شرک فی الرسالت ہو گیا فقیر نے اس مقالہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اصح طریقہ نماز حنیفوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر مقلدین کو صحیح سمت چلنے کی توفیق بخشے کہ وہ بزرگان احناف کے خلاف ہرزہ سرائی سے باز آئیں و ماتوفیقی الا باللہ

ہر مسئلہ کے ساتھ حوالہ کتب پر اکتفا کیا گیا ہے حوالہ کی تفصیل کے لئے اصل کتب ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی صاحب حوالہ غلط ثابت کر دکھائیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ ان صحیح حوالہ جات کی موجودگی میں غیر مقلدین کو چاہیے کہ اپنا شتر بے مہار اور اسپ بے لگام مذہب چھوڑ کر امام اعظم رضی اللہ عنہ کی غلامی اور تقلید کے صدقے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں گردن کا مسح کرنا مستحب ہے

اس کا ثبوت مندرجہ ذیل کتب میں ہے:- التلخیص الحبیر صفحہ ۶، مسند فردوس مع تسوید القوس صفحہ ۴۴، طحاوی صفحہ ۹۳ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۲۸۱ جلد سوم التلخیص صفحہ ۹۲ جلد اول، معجم طبرانی بحوالہ غایۃ المقصود صفحہ ۱۳۷ جلد اول معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۴۲ جلد دوم، کشف الاستار عن زوائد البزار صفحہ ۸۸ جلد اول، تلخیص صفحہ ۳۴، ابو نعیم بحوالہ زجاجہ صفحہ ۱۰۲۔

فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھنا افضل ہے

اس کا ثبوت مندرجہ ذیل کتب احادیث میں ہے۔ نسائی صفحہ ۶۵ جلد اول، ابو یعلیٰ

مجمع الزوائد صفحہ ۳۰۲ جلد اول، نصب الراية صفحہ ۲۳۹ جلد اول، آثار السنن صفحہ ۵۸، معجم كبير للطبرانی صفحہ ۲۵۸ جلد اول مصنف عبدالرزاق صفحہ ۲۵۹ جلد اول، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۲۱ جلد اول طحاوی صفحہ ۱۲۳، ۱۲۶ جلد اول مجمع الزوائد صفحہ ۳۰۵ جلد اول، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۳۲ جلد اول۔

ظہر کی نماز گرمیوں میں تاخیر سے اور سردیوں میں جلدی پڑھنی چاہئے

اس کا ثبوت مندرجہ ذیل کتب میں ہے۔ نسائی صفحہ ۵۸ جلد اول، بخاری صفحہ ۷۷ جلد اول، مسلم صفحہ ۲۲۳ جلد اول، اعلاء السنن صفحہ ۲۔

عصر کی نماز دو مثل سایہ کے بعد پڑھنی چاہئے

اس کا ثبوت مندرجہ ذیل کتب احادیث میں ہے۔

دارقطنی بیہقی، بحوالہ زجاجہ صفحہ ۱۷۲، ابو داؤد صفحہ ۵۹ جلد اول، ابن ماجہ زجاجہ صفحہ ۱۷۳، صحیح مسلم صفحہ ۱۲۳ جلد اول، المستدرک للحاکم۔

اذان بلا ترجیح

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اور آپ کے بعد مسجد نبوی میں جو اذان پڑھی گئی اس میں ترجیح نہیں ہے۔

ملاحظہ ہو نصب الراية صفحہ ۷۵ اترمذی، ابن ماجہ ابو داؤد، مسند احمد بخاری، المستدرک للحاکم۔

یعنی اشہدان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہلے دو مرتبہ آہستہ آواز سے کہا جائے اور بعد میں دو مرتبہ بلند آواز سے کہا جائے۔ ابو جلیل فیضی غفرلہ

کلمات اذان و اقامت دو درجہ ہیں

اس کا ثبوت مندرجہ ذیل کتب احادیث میں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۰۳
 ۲۰۶ جلد اول، طحاوی صفحہ ۹۳، ۹۵ جلد اول خلافيات بیہقی بحوالہ درایہ صفحہ ۱۱۵
 جلد اول، صحیح ابو عوانہ صفحہ ۳۳۱ جلد اول، ترمذی صفحہ ۲۸ جلد اول، نسائی صفحہ
 ۷۲ جلد اول، دارمی صفحہ ۲۱۷ جلد اول ابن ماجہ صفحہ ۵۲، ابو داؤد صفحہ ۷۳ جلد اول
 دارقطنی صفحہ ۲۴۱ جلد اول، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۲۶۳، ۲۶۲ جلد اول، نصب
 الراية صفحہ ۲۶۷، جامع المسانید صفحہ ۳۰۰، مشکوٰۃ صفحہ ۶۳، آثار السنن صفحہ ۵۲

تکبیر تحریر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے

اس کا ثبوت مندرجہ ذیل کتب احادیث میں ہے۔ مسند احمد صفحہ ۳۰۳ جلد چہارم
 دارقطنی صفحہ ۲۹۴، ۳۰۰، ۳۴۵ جلد اول طحاوی صفحہ ۱۳۵ جلد اول، المستدرک
 للحاکم صفحہ ۲۲۶ جلد اول، سنن کبری بیہقی صفحہ ۹۹ جلد دوم، ابو داؤد صفحہ ۱۰۵
 جلد اول، نسائی صفحہ ۱۰۲ جلد اول، معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۱۸ جلد ۲۲، مسلم صفحہ
 ۱۶۸، ۱۷۳ جلد اول، مرقاة شرح مشکوٰۃ صفحہ ۲۵۴ جلد دوم۔

کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی احادیث ہمارے خلاف نہیں جب ہم کانوں تک ہاتھ
 اٹھاتے ہیں کندھے خود بخود اس میں آجاتے ہیں اور ان احادیث پر ہمارا عمل خود بخود
 ہو جاتا ہے۔ غیر مقلدین منکر احادیث ہیں۔

مردوں کے لئے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے

اس کا ثبوت مندرجہ ذیل کتب احادیث میں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۹۰

۳۹۱ جلد اول، کتاب الآثار صفحہ ۲۸، ابو داؤد نسخہ ابن الاعربی، بیہقی صفحہ ۳۱ جلد سوم، مسند احمد صفحہ ۱۱۰ جلد اول دارقطنی صفحہ ۲۸۶ جلد اول، محلی ابن حزم صفحہ ۳۰ جلد سوم، منتخب کنز العمال صفحہ ۳۵۰ جلد دوم، اعلاء السنن صفحہ ۱۲ نصب الراية صفحہ ۳۱۳ مسند اهل بیت صفحہ ۱۷۱، الجواهر النقی علی البیہقی صفحہ ۳۱ جلد دوم۔ المغنی صفحہ ۲۷۳ جلد اول، ترمذی ۵۹ جلد اول، آثار السنن صفحہ ۷۱، تحفة الاحوذی صفحہ ۲۱۲۔

کوئی غیر مقلد قیامت تک صحاح ستہ سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا

امام نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھے

اس کا ثبوت مندرجہ ذیل کتب احادیث میں ہے۔

مجمع الزوائد صفحہ ۱۰۸ جلد دوم، نسائی صفحہ ۱۰۵ جلد اول، مسلم شریف صفحہ ۱۷۲ جلد اول، بخاری شریف صفحہ ۱۷۱ جلد اول، معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۲۹۳ جلد نہم ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۱۱ جلد اول، تذکرۃ الحفاظ صفحہ ۳۰۶، ۳۰۹ جلد اول۔
غیر مقلدین کا جہری نمازوں میں بسم اللہ جہر پڑھنا بدعت ضلالہ ہے۔
مسلمانو! سوچو! یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہئے

ارشاد خداوندی ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآنی واحد کا صیغہ بیان فرمایا یعنی امام اور اکیلا نماز پڑھنے والا قرأت کرے اور فَاسْتَبِعُوا اور وَأَنْصِتُوا جمع کا صیغہ بیان کر کے مقتدیوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ان تفاسیر معتبرہ و کتب احادیث کے حوالے ملاحظہ ہوں کہ یہ آیت مقتدیوں کو امام کے پیچھے خاموش رہنے کے بارے اتری۔

تفسیر طبری صفحہ ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ جلد نهم، کتاب القراءة للبيهقي صفحہ ۸۷، ۸۸، تفسیر درمنثور صفحہ ۱۵۶ جلد سوم، فتاویٰ کبریٰ صفحہ ۱۶۸ جلد دوم، ابن کثیر صفحہ ۲۸۱ جلد دوم، روح المعانی صفحہ ۱۵۰ جلد نهم، تفسیر مظہری صفحہ ۵۰۷ جلد سوم، فتاویٰ ابن تیمیہ صفحہ ۱۶۸ جلد دوم، تفسیر کشاف صفحہ ۵۲۳ جلد اول، تفسیر بیضاوی صفحہ ۳۰۸ جلد اول، تفسیر معالم التنزیل صفحہ ۲۷۲ جلد دوم، تفسیر ابو السعود صفحہ ۵۰۳ جلد چہارم، جلیل القدر صحابہ ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود ابن معقل کے نزدیک آیت کریمہ قرأت خلف الامام کی ممانعت کے بارے اتری بیہقی میں ہے صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرے قرآن مجید میں محبوب علیہ السلام کو حکم فرمایا جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے قرآن پڑھے لَا تَمُزِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ معلوم ہوا تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنا ضروری ہے۔ مذہب امام اعظم کی تائید قرآن مجید سے ہو رہی ہے۔

☆..... ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واذقرو فانصتوا جب امام قرأت کرے تم خاموش رہو۔ ملاحظہ ہو۔

مسلم صفحہ ۱۷۲ جلد اول، مسند امام احمد صفحہ ۳۱۵ جلد چہارم، صحیح ابو عوانہ

صفحہ ۱۳۳ جلد دوم (دو احادیث) ابن ماجہ صفحہ ۶۱ (دو احادیث) نسائی صفحہ ۷۰ جلد اول (دو احادیث) مسند امام احمد صفحہ ۶۷۳ جلد دوم، کتاب القراءة للبيهقي صفحہ ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۵۵، ابو داؤد صفحہ ۱۴۰ جلد اول، مشکوٰۃ صفحہ ۸۱، دارقطنی صفحہ ۳۲۸ جلد دوم، طحاوی صفحہ ۱۲۸۔

☆..... ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو قراۃ الامام لہ قراۃ تو امام کی قرأت مقتدی کو کافی ہے کیونکہ امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے مقتدی کو قرأت کی ضرورت نہیں ملاحظہ ہو کتاب القراءة للبيهقي صفحہ ۱۲۶، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۶۳، ۱۷۰، ۱۸۳، مؤطا امام محمد صفحہ ۹۵، مسند ابن ابی شیبہ صفحہ ۷۷۷ جلد اول مسند احمد بن منیع بحوالہ فتح القدیر صفحہ ۲۹۵ جلد اول، دارقطنی صفحہ ۳۳۱ جلد اول (قرأت جہری ہو یا سری مقتدی خاموش رہے) ابن ماجہ صفحہ ۶۱، طحاوی صفحہ ۱۰۶۔

☆..... ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی مگر یہ کہ امام کے پیچھے تو فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی۔ ملاحظہ ہو طحاوی صفحہ ۱۴۹ جلد اول، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۱۲۰ جلد اول کتاب القراءة للبيهقي جلد ۱۲ صفحہ ۱۳۶، ۱۷۳، ۱۷۱، دارقطنی صفحہ ۳۲۷ جلد اول۔

☆..... ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر فاتحہ نماز پڑھے نماز نہیں ہوتی یہ حکم اکیلا پڑھنے والے کے لئے ہے۔ ترمذی صفحہ ۱۷۱ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۱۹ جلد اول۔

☆..... ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہوتی ہے سوائے اس نماز کے جو امام کے پیچھے پڑھی جائے۔

ملاحظہ ہو کتاب القراءة للبیہقی صفحہ ۱۷۱۔

☆..... ارشاد مصطفیٰ ﷺ لا قراءة خلف الامام۔ امام کے پیچھے قرأت جائز نہیں۔

(دارقطنی صفحہ ۳۲۰، کتاب القراءة للبیہقی صفحہ ۱۷۵، ۱۷۲، ۱۷۳)

تعال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرأت کی آپ نے سختی سے منع فرمایا پھر سب نے آپ کے پیچھے قرأت ترک کر دی مؤطا امام مالک صفحہ ۶۹، ابن ماجہ صفحہ ۶۱ (دو احادیث)، ترمذی صفحہ ۴۳، ۱۷۱ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۲۰، ۱۲۱ جلد اول نسائی صفحہ ۱۶۲ جلد اول، مسلم صفحہ ۱۷۲ جلد اول، نسائی ۱۰۶ جلد اول (تین احادیث) مسند امام احمد صفحہ ۳۲۵ جلد پنجم، الجواهر النقی صفحہ ۱۶۲ جلد دوم طحاوی صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۳۹، ۱۵۰ جلد اول، مؤطا امام مالک صفحہ ۲۹، ۹۸ کتاب القراءة للبیہقی صفحہ ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۲۶، ۱۲۲، ۱۵۱، ۱۷۶، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۷۶۔

☆..... مرض وفات میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز صحابہ کو پڑھائی آپ نماز میں اس وقت شامل ہوئے جب کہ صحابہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد شروع سے نہ پڑھی بلکہ قرأت وہاں سے شروع کی جہاں ابو بکر پہنچے تھے معلوم ہوا نماز میں الحمد پڑھنا فرض نہیں ملاحظہ ہو ابن ماجہ صفحہ ۸۸ طحاوی صفحہ ۱۷۶ جلد اول مسند

احمد صفحہ ۱۹۷ جلد اول، دار قطنی صفحہ ۳۹۹ سنن کبری للبیہقی صفحہ ۸۱ جلد سوم
☆..... ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو
معلوم ہوا مقتدی کے لئے فاتحہ نہیں۔ بخاری صفحہ ۹۲۷ جلد دوم، نسائی ۱۰۷ جلد
اول دارمی صفحہ ۲۲۸ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۲۳۳ جلد دوم۔

☆..... ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے اگر
فاتحہ پڑھنا فرض ہو تا رکعت نہ ملتی معلوم ہوا مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھنا منع ہے ثبوت
ملاحظہ ہو۔ بخاری صفحہ ۱۰۸ جلد اول، معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۲۷۱ جلد نهم صفحہ
۲۷۰ جلد اول، طحاوی صفحہ ۲۷۲ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۲۹ جلد اول، المستدرک
حاکم صفحہ ۲۱۶ جلد اول، صحیح ابن خزیمہ صفحہ ۳۵ جلد سوم، صحیح ابن حبان
مؤطا امام مالک صفحہ ۷ (دو احادیث) مؤطا امام محمد صفحہ ۱۰۳، دار قطنی صفحہ
۳۲۸ جلد اول، سنن کبری صفحہ ۹۰ جلد اول، التعلیق المغنی علی دار قطنی صفحہ ۳۲۷
غیر مقلدین کا مذہب ”مدرک رکوع کی رکعت نہیں“ احادیث مبارکہ کے خلاف ہے یہ
اہل حدیث نہیں منکر حدیث ہیں۔

☆..... خلفائے راشدین و جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
امام کے پیچھے قرأت سے منع فرماتے تھے ملاحظہ ہو مصنف عبدالرزاق صفحہ ۱۳۸
۱۳۹، ۱۴۰ جلد دوم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۷۶، ۱۷۶ جلد اول، کتاب القراءۃ
للبیہقی صفحہ ۱۲۵، ۱۵۷، ۱۸۲، ۱۸۵، مؤطا امام محمد صفحہ ۹۲، ۹۶
۹۸، ۱۰۰، دار قطنی صفحہ ۳۳۲ جلد اول، مجمع الزوائد صفحہ ۱۱۰ جلد سوم، طحاوی
صفحہ ۱۵۱، ۱۴۱، ۱۲۸ جلد اول، مؤطا امام مالک صفحہ ۶۶، ۶۸، مسلم صفحہ ۲۱۵ جلد اول

نسائی صفحہ ۱۱۱ جلد اول، ترمذی صفحہ ۱۷۱ جلد اول، مسند احمد ۲۲۱ جلد ششم
کتاب الآثار صفحہ ۲۲، الجواهر النقی صفحہ ۱۶۶ جلد ششم۔

☆..... ستر بدری صحابہ کرام قرأت خلف الامام سے منع کرتے تھے۔

(روح المعانی صفحہ ۱۵۱ جلد نہم)

☆..... تابعین عظام قرأت خلف الامام سے منع فرماتے تھے ملاحظہ ہو مصنف ابن

ابی شیبہ صفحہ ۳۷۷، ۳۷۶ جلد اول، کتاب القراءة صفحہ ۹۱، مصنف عبدالرزاق
صفحہ ۱۳۹ جلد سوم، مؤطا امام محمد صفحہ ۲۵۔

☆..... تبع تابعین قرأت خلف الامام سے منع فرماتے تھے۔ تحفة الاحوذی صفحہ

۳۵۷ فصل الخطاب صفحہ ۸۰، فتاویٰ ابن تیمیہ صفحہ ۱۶۷، المغنی ابن قدامہ صفحہ

۱۰۹ جلد اول۔

☆..... حضرت غوث اعظم بھی قرأت خلف الامام کو درست نہیں سمجھتے تھے ملاحظہ ہو

غنیة الطالبین صفحہ ۳ جلد اول۔

☆..... (اقرا بھا فی نفسک یافی نفسہ کا مطلب) سرکار نے دل کے تصور سے

پڑھنے کا حکم فرمایا زبان کے پڑھنے سے منع فرمایا فی نفسک کے معنی تنہا کے بھی

آتے ہیں حدیث قدسی میں ہے۔

من ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی جو مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا

ہوں۔ اب حدیث کا مطلب واضح ہو گیا۔ یعنی تنہا سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو امام کے

ساتھ نہ پڑھو۔

☆..... (خلف الامام فاتحہ پڑھنے کا مطلب) فرمان رسول صلی اللہ عالیٰ علیہ وسلم

ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ غیر مقلدین کی سمجھ کا پھیر ہے۔ بیہقی کی حدیث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام میں حکم مسبوق کے متعلق ہے جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مسبوق امام کے بعد بقیہ رکعتیں ادا کرتے ہوئے سورہ فاتحہ نہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ خلف کا معنی بعد میں مستعمل ہونا قرآن سے ثابت ہے۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّلْمُؤْمِنِينَ يَدِّ يَهَا وَمَا خَلْفَهَا

ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لئے جو اس کے سامنے تھے اور ان لوگوں کے لئے جو اس کے بعد آنے والے تھے (ترجمہ تفسیر ابن جریر طبری صفحہ ۲۶۵ جلد اول) غیر مقلدین اس حدیث خلف الامام والی کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ نص قطعی قرآنی فاستمعوا اور وانصتوا کے خلاف ہے اس لئے خلف کے معنی میں تاویل کی جائے گی کیونکہ فرمان رسول قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن کے مطابق معنی ہوگا مسبوق امام کے بعد والی رکعتوں میں اگر فاتحہ نہ پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ امام کے پیچھے خاموش رہنا ضروری ہے جو کہ حکم خدا ہے۔ مذہب امام اعظم پر قرآنی مہر تصدیق مثبت ہے

☆..... فرضوں کی آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے ان رکعتوں میں فاتحہ کی جگہ تسبیح پڑھنا اور خاموش رہنا بھی جائز ہے۔ ملاحظہ ہو بخاری صفحہ ۱۰۷ جلد اول، معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۶۱ جلد نہم، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۱۰۰ جلد دوم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۷۲ جلد اول۔

☆..... تسبیح کہنے کا ثبوت مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۷۲ جلد اول، مصنف

عبدالرزاق صفحہ ۱۰۱ جلد دوم۔

☆..... خاموش رہنے کا ثبوت۔ مصنف عبدالرزاق صفحہ ۱۰۱ جلد دوم۔

☆..... غیر مقلدین کا نزل الابرار صفحہ ۷۸ جلد اول میں سورۃ ملائے کا حکم دینا

صراحتاً مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دعویٰ اہل حدیث ہونے کا؟

آمین آہستہ کہنی چاہیے

فرشتوں کی آمین ہم نہیں سنتے لہذا فرشتوں کی طرح آمین کہنا آہستہ کہنے کا حکم ہے

ملاحظہ ہو مسند احمد صفحہ ۲۳۲ جلد دوم، نسائی صفحہ ۷۰۱ جلد اول، دارمی صفحہ ۲۲۸

جلد اول، صحیح ابن خزیمہ صفحہ ۲۸۹ جلد اول۔

☆..... حضور ﷺ آمین آہستہ کہتے تھے ملاحظہ ہو۔ ابو داؤد صفحہ ۱۱۳ جلد اول

ترمذی صفحہ ۵۸، ۵۹ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۳۱۶ جلد چہارم، دارقطنی صفحہ

۳۳۳ جلد اول، منحة المعبود فی ترتیب مسند ابی داؤد الطیالسی صفحہ ۹۲

المستدرک للحاکم صفحہ ۲۳۲ جلد دوم، بیہقی صفحہ ۵۷ جلد دوم۔

☆..... صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آمین آہستہ کہتے تھے۔ آیت

کَرِيمَةً لَا تَرْفَعُونَ أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ فِي صَحَابَةِ كَرَامٍ كَوْحَلٍ كَمَا كَرِهَ خَدَاءُ رَبِّهِمْ

آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو اس لئے اس حکم خداوندی کے بعد حضور ﷺ کے

وَلَا الضَّالِّينَ کہنے پر اپنی آواز میں حضور ﷺ کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے بلکہ

آہستہ آمین کہتے تھے آواز بلند کرنے میں جب اعمال کا خطرہ تھا غیر مقلدین کی روایات

اس آیت کے نزول سے پہلے کی ہیں۔ صحابہ کرام و دیگر بزرگان کا آہستہ آمین کہنا

مندرجہ ذیل کتب میں ہے۔ کنز العمال صفحہ ۲۷۴ جلد ہشتم، البناہ شرح ہدایہ

ترک رفع یدین پر اہل مدینہ کا اجماع

ملاحظہ ہو ہدایۃ المجتہد صفحہ ۹۷ جلد اول، بدائع الفوائد صفحہ ۳۲ جلد چہارم۔

ترک رفع یدین پر فقہا کا اجماع

ملاحظہ ہو شرح معانی الآثار صفحہ ۱۵۶ جلد اول، نووی شرح مسلم صفحہ ۱۶۸ جلد اول۔

رفع یدین سنت متروکہ ہے

جسے حضور ﷺ نے ترک فرمادیا ملاحظہ ہو۔ عمدۃ القاری شرح بخاری ثبوت شے بقائے شے کو ہمیشہ مستلزم نہیں ہوا کرتا ثبوت شے اور ہے اور بقاء شے اور ہے غیر مقلدین کی پیش کردہ حدیث دو کذاب زاویوں کی وجہ سے موضوع و من گھڑت ہے۔

نماز میں جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے

ملاحظہ ہو ابو داؤد صفحہ ۱۰۷ جلد اول، ترمذی صفحہ ۶۵، مسند احمد صفحہ ۳۲۳ جلد پنجم، بخاری ۱۱۳ جلد اول، ۵۱۶ جلد دوم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۹۵۳۹۲ جلد اول، معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۲۶۶ جلد پنجم، سنن کبریٰ بیہقی صفحہ ۱۲۵ جلد دوم، الجواہر النقی صفحہ ۲۵۔

عذر کے بغیر اسے جائز بلکہ سنت سمجھنا غیر مقلدین کی جہالت اور سنت رسول ﷺ کے ساتھ کھلی عداوت و بغاوت ہے۔

دونوں قعدوں میں ایک طرح ہی بیٹھنا مسنون ہے اور تو رک مسنون نہیں

ملاحظہ ہو ترمذی صفحہ ۶۵ جلد اول، طحاوی صفحہ ۱۷۸ جلد اول، مسند احمد

مصنف ابن ابی شیبہ، ابن حبان بحولہ نیل الاوطار صفحہ ۲۸۲ جلد دوم، نسائی صفحہ ۱۳۱ جلد اول، مسلم صفحہ ۱۹۲ جلد اول، سنن کبریٰ بیہقی صفحہ ۱۲۰ جلد دوم مجمع الزوائد صفحہ ۸۶ جلد سوم، بخاری صفحہ ۱۱۳ جلد اول، جس کام سے حضور ﷺ نے منع فرمایا غیر مقلدین اسے سنت کہتے ہیں اسی کو عمل بالحدیث کہتے ہیں۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ

فرض واجب اور سنت مؤکدہ کے پہلے قعدے میں

تشہد سے آگے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے

ملاحظہ ہو نسائی صفحہ ۱۳۲ جلد اول، ترمذی صفحہ ۸۵ جلد اول، مسند امام احمد صفحہ ۲۵۹ جلد اول، صحیح ابن خزیمہ صفحہ ۲۵۰ جلد اول، مسند ابی یعلیٰ صفحہ ۳۳۷ جلد ہفتم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۹۵، ۲۹۶ جلد اول۔
حضور ﷺ پہلے قعدہ میں درود پڑھنے سے منع فرمائیں اور غیر مقلدین اسے مستحب کہیں۔ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا صحیح ہے

ملاحظہ ہو ترمذی صفحہ ۱۸۷ جلد دوم، ابو داؤد صفحہ ۲۱۲ جلد اول، نیل الاوطار صفحہ ۳۲۱ جلد دوم، مسند امام احمد صفحہ ۳۰۵ جلد ششم، ابن ماجہ صفحہ ۶۶، مسند احمد صفحہ ۲۲۷ جلد پنجم، ابو داؤد صفحہ ۲۱۳ جلد دوم، نسائی صفحہ ۱۹۲، ترمذی صفحہ ۱۹۶، ۱۷۶ جلد دوم ۸۷ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۲۰۹ جلد اول، ابن ماجہ صفحہ ۲۸۲، جز رفع الیدین للام البخاری صفحہ ۱۷، ۲۳، نسائی، ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ، کوالہ سنۃ رفع

الیدین فی الدعا بعد الصلوۃ المکتوبۃ لمحمد بن عبدالرحمن الزبیدی صفحہ ۲۲، عمل الیوم ولیلہ لابن السنی صفحہ ۴۶، تفسیر ابن کثیر صفحہ ۵۵۲ جلد اول کتاب الزہد والرقاق للامام عبداللہ بن مبارک صفحہ ۴۰۵، البدایہ والنہایہ صفحہ ۳۲۸ جلد ششم، حضور ﷺ ہر نماز کے بعد دعائے نکتے تھے، ابوداؤد صفحہ ۳۱۷ جلد اول قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے قَدْ اَفْرَغْتَ فَاَنْصَبْ فرمایا یعنی پس جب نماز سے فارغ ہو دعا کے لئے ہاتھ اٹھا۔ تفسیر عزیز مطبوعہ دیوبند تمام تفاسیر معتبرہ میں یہی معنی درج ہے بیضاوی جلالین، کبیر، مظہری، جمل، روح البیان، غیر مقلدین کی تفسیر فتح القدیر للشوکانی اور ترجمان القرآن مصنفہ نواب صدیق حسن غیر مقلد۔

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام سے قولاً و عملاً ثابت ہے حضور علیہ السلام و صحابہ کرام نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی انفراداً بھی اجتماعاً بھی اس کو غیر مقلدین کا بدعت و حرام قرار دینا حدیث کی مخالفت ہے یا موافقت؟

عورت اور مرد کی نماز میں فرق

معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۱۸ جلد ۲۲، میں ہے حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا مرد تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورت چھاتی کے برابر۔

جز رفع الیدین بخاری صفحہ ۷۱، مرد و راضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۳۹ جلد اول میں ہے عورت مرد کی طرح تکبیر تحریمہ میں رفع یدین نہ کرے۔ مراسیل ابوداؤد صفحہ ۸، سنن کبریٰ للبیہقی صفحہ ۲۲۳ جلد دوم۔ میں ہے عورت کا حکم سجدہ کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ عورت سجدہ

میں پیٹ کورانوں سے چپکالے بیٹھے توران کوران سے چپکالے ملاحظہ ہو کنز العمال صفحہ ۵۳۹ جلد ہفتم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۶۹، ۲۷۰ جلد اول، بیہقی صفحہ ۲۲۲ جلد دوم جامع المسانید صفحہ ۴۰۰ جلد اول، دیگر فرق مندرجہ ذیل کتب میں ہیں۔ بخاری صفحہ ۱۶۰ مسلم صفحہ ۱۸۰، ترمذی صفحہ ۸۵، ۸۶ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۹۲ جلد اول، السعیہ صفحہ ۱۵۶ جلد اول میں ہے۔ عورتوں کے لئے سنت سینے پر ہاتھ باندھنا ہے ہدایہ صفحہ ۱۰۰، ۱۱۰ جلد اول، کتاب الام صفحہ ۱۱۵ جلد اول، المغنی لابن قدامہ صفحہ ۵۶۲ جلد اول۔

نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے

ملاحظہ ہو منتقی الاخبار مع شرحہ نیل الاوطار صفحہ ۱۷۱ جلد سوم، کنز العمال صفحہ ۲۶۳ جلد ہشتم، المدونۃ الكبرى صفحہ ۸۵ جلد اول، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۳۹، ۳۴۰ جلد اول، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۳۹۸ جلد دوم، المغنی لابن قدامہ صفحہ ۲۲۸ جلد دوم۔ غیر مقلدین کے لئے اقوال صحابہ حجت نہیں اس لئے نابالغ کی امامت جائز کہتے ہیں یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

صفوں کی درستگی کندھے سے کندھا ملانا سنت ہے نہ کہ قدم سے قدم ملانا

ملاحظہ ہو ابو داؤد صفحہ ۹۷ جلد اول، بخاری صفحہ ۱۰۰ جلد اول، ترمذی صفحہ ۵۳ جلد اول، مؤطا امام محمد صفحہ ۸۶، نسائی صفحہ ۱۰۳ جلد اول میں ہے قدموں کو ملانا خلاف سنت ہے۔ المغنی صفحہ ۱۱ جلد دوم عبداللہ ابن عمر قدموں کو بہت دور دور نہ کرتے تھے۔ غیر مقلدین کا مسنون عمل کو چھوڑ کر غیر مسنون چیز پر عمل کرنا یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرأت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے

ملاحظہ ہو ترمذی صفحہ ۶۶ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۲۱، ۱۲۵ جلد اول، نسائی صفحہ ۱۰۷ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۳۵۳ جلد چہارم، کنز العمال صفحہ ۲۶۳ جلد ہشتم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۳۹ جلد دوم۔

نزل الابرار صفحہ ۱۱۰، ۱۳۱ جلد اول میں غیر مقلدین کا اسے جائز سمجھنا حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

نماز میں جان بوجھ کر کلام کرنے یا بھولے سے کلام

کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

ملاحظہ ہو مسلم صفحہ ۲۰۳، ۲۰۴ جلد اول، بخاری صفحہ ۱۶۰، ۱۹۰ جلد اول، مسند حمیدی صفحہ ۵۲ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۳۳ جلد اول، نسائی صفحہ ۱۳۷ جلد اول، ترمذی صفحہ ۹۲ جلد اول، شرح معانی الآثار للطحاوی صفحہ ۳۰۲ جلد اول، دارقطنی صفحہ ۱۷۲ جلد اول، کتاب الحجۃ للامام محمد صفحہ ۲۵۷ جلد اول، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۳۲۹، ۳۳۰ جلد دوم۔

غیر مقلدین کا عرف الجادی صفحہ ۲۳ اور دستور المتقی صفحہ ۱۲۳ میں اسے جائز کہنا حدیث کے ساتھ موافقت ہے یا مخالفت؟

وتر واجب ہیں

ملاحظہ ہو ابو داؤد صفحہ ۲۰۱ جلد اول، المستدرک للحاکم صفحہ ۳۰۲، ۳۰۵، ۳۰۶ جلد اول، ۱۷۵، ۳۰۰ جلد چہارم، بخاری صفحہ ۱۳۶ جلد اول، مسلم صفحہ

۲۵۷ ۲۵۸ جلد اول، دارقطنی صفحہ ۲۲ جلد دوم، ترمذی صفحہ ۱۰۳ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۷ جلد ششم، صحیح ابن حبان بحوالہ الدراہیہ، منحة المعبود فی ترتیب ابو داؤد الطیالسی صفحہ ۱۱۹ جلد اول، کشف الاستار عن زوائد البزار صفحہ ۳۵۲، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۸، ۱۰ جلد سوم، مؤطا امام مالک صفحہ ۱۰۹، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۹۷، ۲۹۰ جلد دوم۔

غیر مقلدین کا وجوب سے انکار حدیث مصطفیٰ ﷺ سے کھلی بغاوت ہے۔

وتر کی تین رکعتیں ایک سلام سے پڑھنی چاہئیں

اور وتر کی پہلی دو رکعت کے بعد قعدہ واجب ہے ملاحظہ ہو بخاری صفحہ ۱۵۲ جلد اول مسلم صفحہ ۲۶۱۲۵۲ جلد اول، نسائی صفحہ ۱۹۱، ۱۹۶، ۱۹۳ جلد اول، طحاوی صفحہ ۱۹۲، ۱۹۶، ۲۰۱ جلد اول، مؤطا امام محمد صفحہ ۱۳۵ دارقطنی صفحہ ۳۵ جلد دوم المستدرک للحاکم صفحہ ۳۰۵ جلد اول، ترمذی صفحہ ۱۰۶ جلد اول، مسند احمد ۲۰۶ جلد سوم صفحہ ۱۵۶ جلد ششم، صفحہ ۲۲۷ جلد اول، صفحہ ۱۲۳ جلد پنجم، ابو داؤد ۲۰۱ جلد اول، ابن ماجہ ۸۳

حضور ﷺ وتر کی دو رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے

ملاحظہ ہو مسند احمد صفحہ ۱۵۶ جلد ششم، نسائی صفحہ ۱۳۰، ۱۹۱ جلد اول، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۵۹ جلد دوم، المستدرک للحاکم صفحہ ۳۰۲ جلد اول، دارقطنی صفحہ ۳۲ جلد دوم، بخاری صفحہ ۱۳۵ جلد اول، ترمذی صفحہ ۸۷ جلد اول، مجمع الزوائد صفحہ ۱۳۹ جلد دوم، مسلم صفحہ ۱۹۲ جلد اول، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب

لابن عبدالبر صفحہ ۷۱ جلد چہارم، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۲۸ جلد سوم، دارقطنی صفحہ ۲۸ جلد دوم، مجمع الزوائد صفحہ ۲۳۲ جلد دوم۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین وتر ایک سلام سے پڑھتے تھے

ملاحظہ ہو طحاوی صفحہ ۲۰۲ جلد اول، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۹۳، ۲۹۴ جلد دوم مصنف عبدالرزاق صفحہ ۳۰ جلد سوم، مؤطا امام محمد صفحہ ۱۲۵۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر تین رکعت پڑھتے تھے

مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۹۵ جلد دوم، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۳۲ جلد سوم۔


جلیل القدر صحابہ اور اکابرین ملت تین رکعات وتر کے قائل ہیں

ملاحظہ ہو۔ مؤطا امام محمد صفحہ ۱۲۶، معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۲۷۲ جلد نہم طحاوی صفحہ ۲۰، ۱۹۲، ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴ جلد اول، کنز العمال صفحہ ۶۶ جلد ہشتم مصنف عبدالرزاق صفحہ ۲۶، ۳۶ جلد سوم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۹۳، ۳۰۲، ۲۹۴ جلد دوم، بخاری صفحہ ۱۲۵ جلد اول۔

اہل اسلام کا اجماع ہے کہ وتر ایک سلام سے تین رکعات ہیں

ملاحظہ ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۹۴ جلد دوم، بعض نسخوں میں چھاپہ کے فرق سے صفحہ ۳۰۲ جلد دوم۔

حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ جمیع اہل اسلام وتر تین رکعات ایک سلام سے پڑھیں اور غیر مقلدین اسے منہی عنہ قرار دیں یہ حدیث کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟



وتر میں دعائے قنوت پڑھنا سارا سال واجب ہے

اور دعائے قنوت کے لئے تکبیر کہنا اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا مسنون ہے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے۔

ان سب باتوں کے ثبوت کے لئے ملاحظہ ہوں اخراجہ السراج بحوالہ آثار السنن صفحہ ۲۰۷، مجمع الزوائد صفحہ ۱۳۹ جلد دوم، قنوت قبل الركوع کا حوالہ کتاب الآثار صفحہ ۴۱، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۰۲-۳۰۷ جلد دوم، قنوت کے لئے رفع یدین بحوالہ جز رفع الیدین للامام البخاری صفحہ ۱۸ (تین احادیث) طحاوی صفحہ ۱۷۱، ۲۵۵ جلد اول، الاستیعاب صفحہ ۴۷۱ جلد چہارم، معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۲۳۸، ۲۳۳ جلد نہم قبل الركوع کا ثبوت۔ مسلم صفحہ ۲۳۷ جلد اول بخاری صفحہ ۱۳۶ جلد اول، صفحہ ۵۲۶ جلد دوم، نسائی صفحہ ۱۹۱ جلد اول، ابن ماجہ صفحہ ۸۴، حلیۃ الاولیاء صفحہ ۹۲ جلد پنجم مجمع الزوائد صفحہ ۱۳۸ جلد اول، صفحہ ۱۳۷ جلد دوم، جامع المسانید صفحہ ۳۱۷ جلد اول، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۰۲ جلد دوم، المغنی لابن قدامہ الحنبلی صفحہ ۱۶۵ جلد دوم۔

فجر کی سنتیں فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے پر بھی پڑھنی جائز ہیں

جب کہ جماعت میں ملنے کا یقین ہو۔

اس کا جواز اور ان کی اہمیت کے لئے ملاحظہ ہو مسلم صفحہ ۲۵۱ جلد اول، بخاری جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۷۸ جلد اول (طحاوی صفحہ ۲۵۷ جلد اول، عبد اللہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہوئے) معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۲۷۷ جلد نہم

مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۵۱ جلد دوم (عبداللہ بن عمر نے جماعت کھڑی ہونے کی حالت میں سنتیں پڑھیں پھر جماعت میں شامل ہوئے ملاحظہ ہو طحاوی صفحہ ۲۵۷، ۲۵۸ جلد اول، تین احادیث) عبداللہ ابن عباس نے بھی ایسے ہی کیا ملاحظہ ہو طحاوی صفحہ ۱۵۸ جلد اول دیگر صحابہ کا بھی اسی طرح عمل تھا۔ ملاحظہ ہو طحاوی صفحہ ۲۵۸ جلد اول چار احادیث، ابن ماجہ صفحہ ۸۱، مؤطا امام مالک صفحہ ۱۱۱۔ یہ نام نہاد عامل بالحدیث اس کے خلاف کہتے ہیں ملاحظہ ہو نزل الابرار صفحہ ۱۳۲ جلد اول۔

فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹنا مسنون نہیں

ملاحظہ ہو مسلم صفحہ ۳۵۳ جلد اول، بخاری صفحہ ۱۵۵ جلد اول، کبھی کبھی آپ کا لیٹنا اس لئے نہیں ہوتا تھا کہ یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو لیٹا ہوا دیکھتے تو پتھر مارتے تھے۔

مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۲۸، ۲۲۹ جلد دوم (تین احادیث ممانعت کی) مؤطا امام محمد صفحہ ۱۲۲۔

مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مسنون نہیں

ملاحظہ ہو ابو داؤد صفحہ ۱۸۲ جلد اول، کتاب الآثار صفحہ ۳۲، مصنف عبدالرزاق صفحہ ۲۳۵ جلد دوم، کشف الاستار صفحہ ۳۳۲ جلد اول، طبرانی بحوالہ نصب الراية صفحہ ۱۳۱ جلد دوم۔

نماز تراویح

حضور ﷺ کی حیات ظاہری میں بھی تھی۔ مسلم صفحہ ۲۵۹ جلد اول، نسائی صفحہ

۲۳۹ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۹۵ جلد اول، معرفة السنن والآثار للبيهقي صفحہ ۳۹ جلد چہارم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۹۲ جلد دوم، بیہقی صفحہ ۲۹۶ جلد دوم۔

☆..... معجم کبیر للطبرانی، مسند حمیدی، تاریخ جرجان صفحہ ۲۷۵ میں ہے حضور ﷺ نے ایک رات صحابہ کرام کو ۲ رکعت عشاء ۲۰ رکعت تراویح اور تین وتر پڑھائے۔ پورا مہینہ بقاعدہ جماعت نعمت البدعة (بدعت حسنہ) حضرت عمر نے جاری فرمائی۔ ملاحظہ ہو بخاری صفحہ ۲۶۹ جلد اول، کنز العمال صفحہ ۴۰۹ جلد ہشتم۔

☆..... ۲۰ رکعت تراویح مندرجہ ذیل کتب احادیث سے ثابت ہے۔ کنز العمال صفحہ ۴۰۹ جلد ہشتم، ابو داؤد صفحہ ۲۰۲ جلد اول، سیرا اعلام النبلاء صفحہ ۴۰۰ جلد اول مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۹۳ جلد دوم (دو احادیث) مؤطا امام مالک صفحہ ۹۸ جلد اول سنن کبریٰ للبیہقی صفحہ ۲۹۶ جلد دوم، مختصر قیام اللیل صفحہ ۱۵۷۔

☆..... حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں ۲۰ رکعت تراویح پڑھی جاتی تھیں۔ ملاحظہ ہو سنن کبریٰ للبیہقی صفحہ ۲۹۶ جلد دوم، معرفة السنن والآثار صفحہ ۴۲ جلد چہارم، مراقی الفلاح مع حاشیہ صفحہ ۳۳۲۔

☆..... حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ۲۰ رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی ملاحظہ ہو سنن کبریٰ للبیہقی صفحہ ۲۹۶ جلد دوم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۹۳ جلد دوم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ۲۰ رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ مختصر قیام اللیل للمروزی صفحہ ۱۵۷۔

☆..... ۲۰ رکعت تراویح پر اجماع صحابہ ملاحظہ ہو۔ المغنی لابن قدامہ صفحہ ۱۶۷ جلد دوم، ارشاد الساری شرح بخاری صفحہ ۵۱۵ جلد سوم، مرقاة شرح مشکوٰۃ صفحہ

۱۹۴ جلد سوم، شرح النقایہ صفحہ ۲۳۱ جلد دوم، اتحاف السادة المتقين صفحہ ۷۰۰ جلد

سوم، جلیل القدر تابعین سے ۲۰ رکعت تراویح کا ثبوت ملاحظہ ہو۔ سنن کبریٰ للبیہقی

صفحہ ۳۹۶ جلد دوم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۹۳ جلد دوم (۱۶ احادیث) مختصر

قیام اللیل للمروزی صفحہ ۵۸، کتاب الآثار صفحہ ۴۱، ترمذی صفحہ ۱۶۶ جلد اول۔

امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کے نزدیک ۲۰ رکعت نماز

تراویح ہے۔ ملاحظہ ہو ہدایۃ المجتہد ۱۵۲ جلد اول۔

☆..... امام شافعی کے نزدیک ۲۰ رکعت ہیں ملاحظہ ہو۔ ترمذی صفحہ ۱۶۶ جلد اول

مختصر قیام اللیل للمروزی صفحہ ۲۱۔

☆..... امام احمد بن حنبل کے نزدیک تراویح ۲۰ رکعت ہیں۔ المغنی لابن قدامہ

صفحہ ۱۶۷ جلد دوم۔ حضرت غوث الاعظم کے نزدیک ۲۰ رکعت ہیں غنیۃ الطالبین صفحہ

۲۵ جلد دوم۔ امام غزالی کے نزدیک ۲۰ رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے ملاحظہ ہو احیاء

العلوم صفحہ ۲۰۱ جلد اول۔

☆..... ابن تیمیہ کے نزدیک ۲۰ رکعت ہیں ملاحظہ ہو۔ فتاویٰ ابن تیمیہ صفحہ ۱۱۲ جلد ۲۳

☆..... مشرق و مغرب کے جمہور علماء کا ۲۰ رکعت پر اجماع و اتفاق ہے۔ ملاحظہ ہو

بحر الرائق صفحہ ۶۶ جلد دوم۔ تراویح ۲۰ رکعت ہیں جمہور علماء کا قول ہے۔

☆..... مشرق و مغرب کے علماء کا اسی پر عمل ہے۔ ملاحظہ ہو در مختار مع حاشیہ

شامی صفحہ ۲۵ جلد دوم اجماع ۲۰ رکعت تراویح پر ہے۔ مائت بالسنة صفحہ ۳۶۳۔

☆..... شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجة اللہ البالغہ صفحہ ۱۸ جلد دوم میں ۲۰ رکعت

تراویح لکھی۔

- ☆..... حضور ﷺ نے تراویح کی ۲۰ رکعت اور تہجد کی ۸ رکعت پڑھیں۔
- ☆..... تہجد اور تراویح الگ الگ نمازیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بعد نماز تہجد پڑھی۔ ملاحظہ ہو۔ مسلم صفحہ ۳۵۲ جلد اول۔
- ☆..... حضرت طلق بن علی نے تراویح کے بعد نماز تہجد پڑھی ملاحظہ ہو۔ ابو داؤد صفحہ ۲۰۳ جلد اول۔ تمام بزرگان دین تراویح کے بعد تہجد الگ پڑھتے تھے ملاحظہ ہو۔ مدخل ابن الحاج صفحہ ۲۹۹ جلد دوم، ہدی الساری مقدمہ فتح الباری صفحہ ۲۵۳ جلد دوم۔
- ☆..... حضور ﷺ نماز تہجد ہمیشہ اذان مرغ کے وقت پڑھتے تھے ملاحظہ ہو بخاری صفحہ ۱۵۱ جلد اول۔ اس کے برعکس نماز تراویح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علمائے امت نے ہمیشہ شروع رات میں پڑھی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ شرح ترمذی ابو الطیب سنہ صفحہ ۱۴۹ جلد دوم۔
- ☆..... شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تراویح و تہجد کے درمیان فرق کے قائل ہیں ملاحظہ ہو حاشیہ مالا بدمنہ صفحہ ۶۹، فتاویٰ عزیزی صفحہ ۲۸۱ تا ۲۸۶۔
- ☆..... غیر مقلدین کے ثناء اللہ امرتسری کے نزدیک تہجد و تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں ملاحظہ ہو۔ اہل حدیث کا مذہب صفحہ ۹۶، ۹۷۔
- ☆..... غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین تراویح کے بعد تہجد (پچھلی رات) پڑھا کرتے تھے۔ (الحیاء بعد المماتہ صفحہ ۱۳۸)
- لفظ تراویح اور اس کے ساتھ آٹھ رکعت کی ایک حدیث بھی غیر مقلدین کے پاس نہیں۔ خواہ مخواہ کے اہل حدیث بنے ہوئے ہیں۔

سجدہ سہو واجب ہے

سجدہ سہو واجب ہے اور وہ قعدہ اخیرہ میں سلام پھیر کر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد التحیات پڑھ کر سلام پھیرنا چاہیے ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری صفحہ ۵۸ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۲۰۵ جلد اول، نسائی صفحہ ۱۴۰، ۱۴۹ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۲۸، ۱۲۹ جلد اول، ترمذی صفحہ ۹۰، ۸۳ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۲۲۷ جلد چہارم، ابن ماجہ صفحہ ۸۶، المدونۃ الكبرى صفحہ ۱۳۶ جلد اول، طحاوی صفحہ ۲۹۸، ۲۹۹ جلد اول۔

☆..... مقتدی کو اگر سہو ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ملاحظہ ہو۔ دارقطنی صفحہ ۳۷۷ جلد اول، کتاب الآثار صفحہ ۳۷، رحمة الامة فی اختلاف الائمة صفحہ ۲۳۳، الاجماع صفحہ ۳۰۔

☆..... بے وضو سجدہ تلاوت جائز نہیں۔ ملاحظہ ہو ترمذی صفحہ ۱۳ جلد اول، بیہقی ۳۲۵ جلد دوم۔

شرعی مسافر کا سفر ساڑھے ستاون میل اور ۵ دن سے کم کا قیام ہے

نماز میں قصر کے لیے مسافت سفر تین دن رات کا سفر ہے جو محققین علمائے احناف کے نزدیک ساڑھے ستاون میل قریباً نوے کلومیٹر ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب الآثار صفحہ ۳۹ کتاب الحجۃ صفحہ ۱۶۸ جلد ۱، کنز العمال صفحہ ۲۳۴ جلد ۸۔

☆..... مسافر جب تک کسی جگہ پندرہ دن اقامت کی نیت نہ کر لے اس وقت تک قصر کرے گا۔ ملاحظہ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۵۵ جلد دوم، کتاب الحجۃ للامام محمد صفحہ ۱۷۰، ۱۷۱ جلد اول، کتاب الآثار صفحہ ۳۹، جامع المسانید صفحہ ۴۰۴ جلد اول

☆..... دوران سفر قصر کرنا واجب ہے پوری نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ملاحظہ ہو۔ بخاری صفحہ ۱۳۸، ۱۳۹ جلد اول، مسلم شریف صفحہ ۲۳۱، ۲۳۲ جلد اول، (عمدة القاری صفحہ ۱۳۳ جلد ۱ رواہ ابن حزم بسند صحیح) مجمع الزوائد، ابن ماجہ صفحہ ۷۶ مجمع الزوائد صفحہ ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵ جلد ۲، ترمذی صفحہ ۱۲۲ جلد اول، المدونة الكبرى صفحہ ۱۲۱، مجمع طبرانی صفحہ ۲۸۹ جلد ۲ میں ہے جو سفر میں چار رکعت پڑھے وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے۔

☆..... دوران سفر اگر ممکن ہو تو سنتیں بھی پڑھنی چاہئیں۔ ملاحظہ ہو ترمذی صفحہ ۱۲۳ جلد اول، طحاوی صفحہ ۲۸۵، ۲۸۷ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۴۰۵ جلد ۲، ابو داؤد صفحہ ۱۷۹ جلد اول و صفحہ ۶۳ جلد اول، بخاری صفحہ ۱۳۹ جلد اول، مسلم صفحہ ۲۳۲ جلد اول، مجمع الزوائد صفحہ ۲۳۸ جلد ۲ و صفحہ ۱۶۳ جلد ۲، نووی شرح مسلم صفحہ ۲۳۲ جلد اول، زاد المعاد فی ہدی خیر المعاد صفحہ ۱۳۱ جلد اول۔

جمعہ اور ظہر کا ایک ہی وقت ہے

جمعہ اور ظہر کا ایک ہی وقت ہے۔ ملاحظہ ہو: بخاری صفحہ ۱۲۳ جلد اول، مسلم صفحہ ۲۸۳ جلد اول، معجم اوسط للطبرانی بحوالہ تلخیص الحبیر صفحہ ۵۹ جلد ۲، مؤطا امام مالک صفحہ ۶، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۰۸، ۱۰۹ جلد ۲۔

جمعہ کی دو اذانیں مسنون ہیں

جمعہ کی دو اذانیں مسنون ہیں۔ ملاحظہ ہو: بخاری صفحہ ۱۲۵ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۵۵ جلد اول، نسائی صفحہ ۱۵۶ جلد اول۔ جمعہ کی دوسری اذان (جو پہلے کہی جاتی ہے)

صحابہ کرام کی موجودگی میں دی جاتی تھی کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہ کیا ہر دور میں اس پر عمل ہوتا رہا کسی امام اور کسی فقیہ و مجتہد نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ کیونکہ حضور ﷺ کا فرمان ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو یہ اذان چونکہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم سے جاری ہوئی ہے اس لیے یہ ان کی سنت ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کے مطابق اس پر عمل ضروری ہے۔

خطبہ جمعہ کے درمیان نماز پڑھنا اور بات چیت کرنا مکروہ ہے

خطبہ جمعہ کے درمیان نماز پڑھنا اور بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ بخاری صفحہ ۱۲۲، ۱۲۷ جلد اول، مسلم صفحہ ۲۸۰، ۲۸۳ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۷۵ جلد ۵، مسند احمد صفحہ ۲۳۱ جلد اول، مجمع الزوائد صفحہ ۱۸۴ جلد دوم، مؤطا امام مالک صفحہ ۸۸، مسند امام شافعی صفحہ ۱۳۹ جلد اول، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۱۱، ۱۱۲ جلد دوم، نصب الراية صفحہ ۲۰۴ جلد دوم، المدونة الكبرى صفحہ ۱۳۸ جلد اول مصنف عبدالرزاق صفحہ ۲۲۵، ۲۱۰، ۲۰۸ جلد سوم، طحاوی صفحہ ۲۵۲، ۲۵۵ جلد اول

جمعہ کی نماز سے پہلے اور بعد میں دس رکعات سنت مؤکدہ ہیں

ملاحظہ ہو۔ معجم اوسط للطبرانی بحوالہ نصب الراية صفحہ ۲۰۶ جلد اول، مجمع الزوائد صفحہ ۱۹۵ جلد دوم، رواہ النجار بحوالہ کنز العمال صفحہ ۷۴۹ جلد ہفتم مسلم صفحہ ۲۸۸ جلد اول، بخاری صفحہ ۱۲۸ جلد اول، ابو داؤد صفحہ ۱۶۱ جلد اول مصنف عبدالرزاق صفحہ ۲۲۷ جلد سوم، معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۳۱۰ جلد نہم مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۳۲ جلد دوم، طحاوی صفحہ ۲۳۱، ۲۳۳ جلد اول، ترمذی صفحہ ۱۱۷ جلد اول۔

عید اور جمعہ ایک دن ہوں تو جمعہ پڑھنا فرض ہی ہوگا

کسی دن عید اور جمعہ کی نماز اکٹھے ہو جائیں تو اس دن جمعہ کی نماز ساقط نہیں ہوتی اس کا پڑھنا فرض ہی رہتا ہے۔ ملاحظہ ہو بخاری صفحہ ۸۳۵ جلد دوم، مؤطا امام مالک صفحہ ۱۶۵، کتاب الام صفحہ ۲۳۹ جلد اول، ترمذی صفحہ ۱۱۹ جلد اول، نسائی ۱۷۸ جلد اول، جامع الصغیر صفحہ ۱۱۳، زرقانی علی المؤطا امام مالک صفحہ ۳۶۴ جلد اول البناہ شرح الہدایہ صفحہ ۱۰۱۹ جلد دوم، المحلی لابن حزم صفحہ ۹۳ جلد سوم۔

عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں چھ ہیں

ملاحظہ ہو طحاوی صفحہ ۴۳۸، ۴۳۹ جلد دوم، ابو داؤد صفحہ ۱۶۳ جلد اول، مسند احمد صفحہ ۴۱۶ جلد چہارم، طحاوی صفحہ ۳۳۳ جلد اول، ۴۴۰ جلد دوم (دو حدیث) مصنف عبدالرزاق صفحہ ۲۹۳، ۲۹۴ جلد سوم، صفحہ ۳۰۴ جلد نہم، معجم کبیر للطبرانی صفحہ ۳۰۵ جلد نہم، مصنف ابن ابی شیبہ ۱۷۵ جلد دوم، غیر مقلدین جو ۱۲ تکبیرات کہتے ہیں اس کے ثبوت میں ان کے پاس ایک بھی صحیح صریح مرفوع حدیث نہیں نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے چاہئیں باقی میں نہیں

ترمذی صفحہ ۲۰۶ جلد اول، دارقطنی صفحہ ۷۵ جلد دوم، بیہقی صفحہ ۳۸ جلد چہارم مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۹۶، ۲۹۷ جلد سوم، المدونۃ الکبریٰ صفحہ ۱۷۶ جلد اول المحلی صفحہ ۱۸۱ جلد سوم، نیل الاوطار از قاضی شوکانی غیر مقلد صفحہ ۶۷ جلد چہارم۔

نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بطور قرآۃ پڑھنا جائز نہیں

ملاحظہ ہو ابو داؤد صفحہ ۱۰۰ جلد دوم، ابن ماجہ صفحہ ۱۰۹، مؤطا امام مالک صفحہ ۲۰۹

۲۱۰ جلد اول، بدائع الصنائع صفحہ ۳۱۳ جلد اول، مغنی ابن قدامہ صفحہ ۲۸۵ جلد دوم
مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۲۹۵، ۲۹۸، ۲۹۹ جلد سوم (گیارہ احادیث) مصنف عبد
الرزاق صفحہ ۲۹۱ جلد سوم، نسائی صفحہ ۲۱۸ جلد اول (دو احادیث) المدونۃ الكبرى صفحہ
۱۷۴ جلد اول، زاد المعاد صفحہ ۱۲۱ جلد اول میں ہے فاتحہ پڑھنے والی حدیث کی سند صحیح نہیں

نماز جنازہ میں دعائیں وغیرہ آہستہ آواز سے پڑھنی چاہئیں

ملاحظہ ہو۔ نسائی صفحہ ۲۱۸ جلد اول، ابن ماجہ صفحہ ۱۰۹، مسند احمد صفحہ ۳۵۷ جلد سوم
التلخیص الحبیر صفحہ ۱۲۳ جلد دوم، نووی شرح مسلم صفحہ ۳۱۱ جلد اول المغنی لابن
قدامہ صفحہ ۲۸۶ جلد دوم، نیل الاوطار للشوکانی غیر مقلد صفحہ ۶۶ جلد چہارم۔

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے

ملاحظہ ہو۔ ابو داؤد صفحہ ۹۸ جلد دوم، ابن ماجہ صفحہ ۱۱۰، مصنف عبدالرزاق صفحہ
۵۲۷، ۵۲۸ جلد سوم، منحة المعبود فی ترتیب مسند ابی داؤد الطیالسی صفحہ
۱۶۵ جلد اول، مصنف ابی شیبہ صفحہ ۳۶۲، ۳۶۵ جلد سوم، سنن کبریٰ
للبیہقی صفحہ ۲۳۵ جلد دوم، مسلم صفحہ ۳۱۳ جلد اول، وفاء الوفا صفحہ ۵۳۱ جلد دوم
بخاری صفحہ ۱۷۷ جلد اول المدونۃ الكبرى صفحہ ۱۷۷ جلد اول، موطا امام
محمد صفحہ ۱۶۵، زاد المعاد از ابن قیم صفحہ ۱۴۰ جلد اول۔

نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کے ڈر سے تیمم جائز ہے

ملاحظہ ہو۔ دارقطنی، بیہقی فی المعرفة، ابن عدی، مصنف ابن ابی شیبہ
بحوالہ زجاجہ صفحہ ۱۴۹۔

نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے

ملاحظہ ہو۔ ابو داؤد صفحہ ۱۰۰ جلد دوم، ابن ماجہ صفحہ ۱۰۹، البدائع الصنائع صفحہ ۳۱۱ جلد اول، مظاہر حق جلد پنجم جلد رابع، بحث اسماء الرجال مطبوعہ شیخ غلام علی لاہور صفحہ ۸۳، اشعة اللمعات صفحہ ۶۸۶ جلد اول، فتح القدیر، مواہب اللدنیہ، مرقاة شرح مشکوٰۃ، منتخب کنز العمال کتاب الجنائز، کشف الغمہ للشعرانی طبع مصر صفحہ ۱۶ جلد دوم، عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ ۶۶۵، ۶۶۶ جلد پنجم فتح الباری شرح بخاری صفحہ ۳۶۹ جلد چہارم، مبسوط از شمس الائمہ امام سرخسی صفحہ ۶۷ جلد دوم، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۳۲ جلد سوم، بیہقی، زاد الآخرة نهر الفائق، بحر زخار شرح الصدور صفحہ ۵۳، مفتاح الصلوٰۃ صفحہ ۱۲ عالمگیری اردو صفحہ ۲۸۸ جلد اول، جلاء الافہام از ابن قیم جوزی مترجم صفحہ ۲۱۷۔

اذان میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم گرامی سن کر انگوٹھے

چوم کر آنکھوں سے لگانا مستحب ہے۔

حاشیہ تفسیر جلالین اصح المطابع صفحہ ۲۵۷، تفسیر روح البیان صفحہ ۲۱۰ جلد دوم ۲۲۸، ۲۲۹ جلد ہفتم، مضمورات، صلوٰۃ مسعودی، مقاصد حسنہ صفحہ ۳۸۳، ۳۸۴ (چار احادیث) موضوعات کبیر صفحہ ۱۰۸ از علامہ علی قاری، طحطاوی علی مراقی الفلاح صفحہ ۲۲ طبع مصر، رد المحتار صفحہ ۳۷۰ جلد اول، شرح نقایہ، فتاویٰ مولانا

۱: البحر الزخار المعروف بہ مسند البزار تصنیف امام احمد عمرو بن عبد الخالق بزار (المتوفی ۲۹۲ھ) ابو جلیل فیضی غفرلہ

جمال بن عبداللہ عمرکی، تکملہ مجمع بحار الانوار صفحہ ۵۱۱ جلد سوم، کفایت الطالب
 الربانی صفحہ ۱۶۹ جلد اول، اعانت الطالبین صفحہ ۲۳۷، شرح کفایت الطالب
 الربانی صفحہ ۱۷۱ جلد اول، فتاویٰ جواہر فتاویٰ سراج المنیر، فتاویٰ مفتاح الجنان
 نعم الانتباه منیر العینین صفحہ ۱۲۳، انجیل بر نباس صفحہ ۶۰، ۶۱، خصائص کبریٰ صفحہ
 ۱۶ جلد اول، سیرۃ حلبیہ صفحہ ۸۰ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ صفحہ ۲۲ جلد چہارم نزہۃ
 المجالس صفحہ ۸۹ جلد اول، تاریخ خمیس، مثنوی شریف دفتر اول صفحہ ۲۶، امام مسجد نبوی
 حضرت شمس الدین محمد بن صالح مدنی نے اپنی تاریخ میں اسے جائز لکھا، فتاویٰ عبدالحی
 صفحہ ۲۳ جلد سوم کنز العباد، فتاویٰ صوفیہ، کتاب الفردوس قہستانی، حواشی
 بحر الرائق ارشاد الطالبین، قرآن خوانی، شرح تحفہ نصائح صفحہ ۱۶، جواہر
 الجلالی حاشیہ زینحاجامی از علامہ محمد خطاب، شرح زینحاجامی از گھلوی صفحہ ۱۹، قصص
 الانبیاء، پکی روٹی صفحہ ۱، علم الفقہ از عبدالشکور لکھنوی دیوبندی (عبدالستار تونسوی کا
 استاد) صفحہ ۱۲۳ جلد دوم، تذکرۃ الموضوعات، محیط خزائن الروایات، مقدمہ
 الصلوۃ تہذیب الصلاۃ، جواہر مجددیہ، بستان المحدثین، مرقاة شرح مشکوٰۃ

قنوت فجر بدعت ہے

ملاحظہ ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۰۸ جلد دوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کچھ عرصہ پڑھی پھر ترک فرمادی یہ سنت متروکہ ہے۔ ملاحظہ ہو بخاری، مسلم صفحہ
 ۲۳۷، جامع المسانید صفحہ ۳۲۲، ۳۳۰ و ترووں کے سوا حضور علیہ السلام نے کبھی
 قنوت نہیں پڑھی ملاحظہ ہو طحاوی صفحہ ۱۷۳، ۱۶۹، جامع المسانید صفحہ ۳۲۲۔

قنوت فجر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ملاحظہ ہو ابن ماجہ -

طلوع فجر کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ ہر نفل ممنوع ہے

ملاحظہ ہو۔ صحیح مسلم صفحہ ۲۷۰ جلد اول، طبرانی، نصب الراية صفحہ ۲۵۶

ابن ابی شیبہ، معارف السنن صفحہ ۱۲۵۔

اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگنا حکم رسول ﷺ ہے

ملاحظہ ہو صحیح مسلم، نسائی، تبلیغی نصاب دیوبندی، ہشتی زیور تھانوی دیوبندی

علم الفقہ از عبدالشکور لکھنوی دیوبندی، شامی وغیرہ۔

عمامہ باندھ کر نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے

ملاحظہ ہو۔ جامع الصغیر صفحہ ۲۱ جلد دوم، کنز العمال صفحہ ۱۸ جلد ہشتم۔

ننگے سر نماز پڑھنا درست نہیں

فتاویٰ علمائے اہل حدیث صفحہ ۲۸۸، ۲۸۹ جلد چہارم، الاعتصام جلد ۱۱ شمارہ نمبر ۱۱۸ اہل

حدیث، فتاویٰ ثنائیہ صفحہ ۲۲۵ جلد اول، فتاویٰ ستاریہ صفحہ ۵۹ جلد سوم۔

افسوس ہے ان پر جو اپنے ہی علماء کے فتوؤں کے خلاف عمل کرتے ہیں۔

دفن کے بعد قبر پر اجتماعی دعا و دعاؤز کرنا وغیرہ جائز ہے

صحیح مسلم صفحہ ۳۱۳ جلد اول۔

قبر پر اذان کہنا جائز ہے

ملاحظہ ہو۔ رد المحتار، بوادر النوار صفحہ ۸۷۸ از تھانوی۔

کفتی لکھنا جائز ہے

نوادرا اصول صفحہ ۲۱۷ از حکیم ترمذی، فتاویٰ کبریٰ للمکی باب الجنائز صفحہ ۱۲ جلد دوم، درمختار باب صلاة الجنائز صفحہ ۱۲۶ جلد اول، فتاویٰ بزازیہ علی حاشیہ فتاویٰ ہندیہ صفحہ ۲۷۹ جلد ششم طبع پشاور۔

جنارہ کے آگے کلمہ پڑھنا جائز ہے

حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ صفحہ ۴۰۸، ۴۰۹ جلد دوم، لواقع الانوار القدسیہ للشعرانی، عہود المشائخ للشعرانی۔

یک دم تین طلاق دینے سے تین ہی واقع ہوں گی

ملاحظہ ہو۔ تفسیر صاوی، نووی شرح مسلم، بیہقی صفحہ ۳۳۶ جلد ہفتم طبرانی، ابو داؤد، تفسیر روح المعانی، غیر مقلدین کی پیش کردہ صحیح مسلم والی حدیث منسوخ ہے۔ ابو داؤد اور بیہقی والی روایت ضعیف اور مجہول لوگوں سے مروی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق ایک ہی دی تھی تین والی روایات ضعیف ہیں۔ سوائے ابن تیمیہ کے کوئی بھی تین طلاقوں کو ایک نہیں مانتا۔

ثنا میں جل ثناء ک کا ثبوت

ملاحظہ ہو۔ کتاب الفردوس مصنفہ حافظ الحدیث ابن شجاع۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عباس سے روایت ہے جس میں جل ثناء ک والی ثناء درج ہے۔

۱: امام ابو شجاع شیروہ بن شہر دار بن شیروہ الدیلمی (المتوفی ۵۰۹ھ) کتاب کا پورا نام اس طرح ہے الفردوس بما ثور الخطاب ابو الجلیل فیضی غفرلہ

ادعیہ ماثورہ پر اگر زائد دعا پڑھی جائے جائز ہے

ملاحظہ ہو۔ غیر مقلدین کا فتاویٰ نذیریہ صفحہ ۲، ۳ جلد دوم، عون المعبود شرح ابی داؤد صفحہ ۲۰۹ جلد چہارم۔

نماز کے بعد امام کا منہ پھیرنا جائز ہے

ملاحظہ ہو بخاری صفحہ ۱۱ جلد اول، مسلم ۲۲۷ جلد اول۔

سلام پھیرنے کے بعد ذکر کرنا جائز ہے

ملاحظہ ہو مشکوٰۃ صفحہ ۸۲، ۸۸، بخاری، مسلم وغیرہ۔

حنفیوں والی دعائے قنوت کا ثبوت

مندرجہ ذیل کتب میں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۰۱ جلد دوم، ابو داؤد نصب الراية صفحہ ۱۳۲ جلد دوم۔

بریلوی، دیوبندی اختلافات ختم کرنے کی

نئی تجویز

دونوں اطراف کے علماء کرام اختلافات کو ختم کر دیں تو سنی
مسلمان ایک مضبوط قوم بن کر لا دینی قوت کو پچھاڑ سکتے ہیں۔

نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد

ایک اصول ایک ضابطہ

”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی ادنیٰ توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے دونوں مکاتیب فکر (دیوبندی، سنی بریلوی) کے علماء اصولی طور پر اس کلیہ پر ایمان رکھتے ہیں“

اس اصول اور ضابطہ کو تسلیم کر لینے کے بعد جھگڑا چند عبارات کے بارے میں باقی رہ جاتا ہے علماء دیوبند کہتے ہیں جو مفہوم اعلیٰ حضرت اور علمائے مکہ و مدینہ کا ہے اس پر ہم بھی دستخط کرنے کو تیار ہیں ہمارے اکابرین کی عبارات کا جو مطلب اعلیٰ حضرت بریلوی نے سمجھا وہ اگر اس مطلب پر کفر کا فتویٰ نہ دیتے تو خود کافر ہو جاتے ملاحظہ ہو علماء دیوبند کی کتاب اشد العذاب مصنفہ مرتضیٰ حسن در بھنگلی ناظم شعبہ تعلیمات دیوبند اور ماہنامہ الرشید ساہیوال دارالعلوم دیوبند نمبر۔

اصولی اختلاف نمبر ۱۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علماء حرمین سے فتویٰ حاصل کرنے کے لئے جو عبارات مکہ و مدینہ بھیجیں ان میں سے ایک عبارت تحذیر الناس مصنفہ قاسم نانوتوی بانی دیوبند کی بھی ہے اس کتاب میں بانی دیوبند نے اثر ابن عباس کے فقرہ ہر طبقہ زمین میں نبی کنبیکم پر بحث کی ہے حالانکہ یہ اثر اسرائیلیات سے ہے اور موضوع ہے یالیس کمثلہ کے کاف کی طرح کنبیکم کا کاف زائدہ ہے مگر بانی دیوبند نے بحث یہ چھیڑ دی کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ماننا عوام کا خیال ہے اور نہ آگے پیچھے

آنے میں بالذات کوئی فضیلت ہے اور یہاں خاتمیت مرتبی مراد ہے حالانکہ حضور کی خاتمیت مرتبی دوسری آیات سے ثابت ہے یہاں صرف اور صرف خاتمیت زمانی ہی مراد ہے جو اس معنی میں ہیرا پھیری کرے دائرہ ایمان سے خارج ہے آگے چل کر بانی دیوبند نے لکھا ”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم لے کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا“ آج کل کے نئے دیوبندی کہتے ہیں کوئی نبی سے مراد جھوٹا مدعی نبوت ہے جو ابا گذارش ہے جھوٹے مدعی نبوت کو نانو تووی صاحب کا نبی لکھنا ہی کافر ہونے کے لئے کافی ہے بالفرض امر محال کے لئے آتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد سچے نبی کا پیدا ہونا محال ہے اور جھوٹے مدعی نبوت کا پیدا ہونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ممکن بلکہ امر واقع ہے کہ تیس دجال کذاب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد مدعی نبوت پیدا ہوں گے ۲ عبارت میں لفظ بالفرض اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ نبی سے مراد سچا نبی ہے اور جو بد بخت حضور ﷺ کے بعد سچے نبی کے پیدا ہونے کو ختم نبوت کے منافی نہیں سمجھتا وہ ختم نبوت زمانی کا منکر اور دائرہ اسلام و ایمان سے خارج ہے یہی ہے وہ مفہوم جس پر اعلیٰ حضرت اور علمائے حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا اسی مفہوم پر کفر کا فتویٰ دینے کیلئے امید ہے تمام علماء دیوبند

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی یا آپ کی صفت کے ساتھ پورا صلوٰۃ و سلام لکھنا واجب ہے۔ ص یا صلعم لکھنا مکروہ تحریمی ہے بلکہ بعض فقہانے اس کو کفر کہا ہے ملاحظہ ہو حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار صفحہ ۶ جلد اول طبع بیروت۔

۲۔ ابوداؤد رقم الحدیث ۵۲۳۲، مسلم رقم الحدیث ۲۸۸۹، ترمذی رقم الحدیث ۲۲۰۲، ابن حبان

ابو جلیل فیضی غفرلہ

رقم الحدیث ۳۹۵۲، بخاری رقم الحدیث ۷۱۲۱

بھی تیار ہوں گے اور جھگڑا ختم ہو جائے گا اور اگر علماء دیوبند تیار نہ ہوں تو پھر دجال قادیانی اور اس کی امت خبیثہ کو کس دلیل سے کافر کہتے ہیں؟ اگر دجال قادیانی اور اس کی خبیثہ امت کافر ہے تو عبارت تحذیر الناس کا مفہوم کیسے اسلامی ہے؟ اگر عبارت تحذیر الناس اسلامی ہے تو مرزا کیوں کافر ہے؟ اشر فاعلی تھا نوی لکھتا ہے جب نانو تووی نے تحذیر الناس لکھی تو سوائے مولانا عبدالحی کے کسی عالم نے اس کی تائید نہ کی بلکہ ان کے بڑے شیخ محمد تھا نوی نے اس کی تردید میں کتاب لکھی۔

اصولی اختلاف نمبر ۲۔

علماء دیوبند کے خلیل احمد نے براہین قاطعہ نامی کتاب لکھی جس کی تائید رشید احمد گنگوہی نے کی اسکی مندرجہ ذیل عبارت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علمائے حرین کے سامنے پیش کی بعینہ اسی کے قائل کو علمائے حرین نے کافر لکھا ہے کفر یہ عبارت یہ ہے ”شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم علیہ السلام کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل ہے محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم (علیہ السلام) کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے“ (براہین قاطعہ مصدقہ گنگوہی) صدر دیوبند حسین احمد ٹانڈوی کانگریسی نے اسی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا پس مضمون اس تقریر براہین قاطعہ کا یہ ہے کہ ایک خاص علم کی وسعت آپ کو نہیں دی گئی اور ابلیس لعین کو دی گئی ہے۔ (شہاب ثاقب صفحہ ۱۱۲ مصنفہ صدر دیوبند) اسی براہین قاطعہ اور شہاب

ثاقب میں ہے ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو چہ جائیکہ زیادہ المہند علی المفند عقائد علمائے دیوبند نامی کتاب میں اکابرین دیوبند نے لکھا ہمارا پختہ عقیدہ ہے جو شخص اس کا قائل ہو کہ فلاں کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ وہ کافر ہے اگر اس تحریر میں حقیقت ہے تو دیوبندیوں کا فرض ہے کہ مصنف و مصدق براہین قاطعہ پر جو علمائے حریمین کا فتویٰ ہے اس پر دستخط کر کے اختلاف کو ختم کر دیں۔

اصولی اختلاف نمبر ۳۔

اشرف علی تھانوی سے کسی نے حضور علیہ السلام کے لئے علم غیب کے نفس حکم کے بارے پوچھا تھانوی نے سرے سے نفس حکم ہی کا انکار کر دیا اطلاق عالم الغیب کی بحث ہی نہیں اور نہ ہی سائل کا یہ سوال تھا تھانوی نے کہا کل علم غیب تو عقلا نقلا باطل ہے باقی رہا بعض تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے (الایمان ارتضیٰ من رسول الایہ کا انکار) ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے (معاذ اللہ) ملاحظہ ہو تھانوی کی تصنیف حفظ الایمان صفحہ ۷۷ بعینہ اسی عبارت کے قائل کو علمائے حریمین نے کافر کہا۔

مصنف حفظ الایمان کو کفر سے نکالنے کے لئے علماء دیوبند کا اختلاف

۱۔ صدر دیوبند حسین احمد گانگریسی شہاب الثاقب نامی کتاب میں لکھتا ہے عبارت حفظ الایمان میں لفظ ایسا کلمہ تشبیہ بمعنی مثل اور مانند کے ہے (بمعنی اتنا کے بالکل نہیں) اور مرتضیٰ حسن در بھنگی اس کے برعکس رسالہ توضیح البیان صفحہ ۷۷ (بحوالہ حقائق الدین) میں

لکھتا ہے کہ اس عبارت حفظ الایمان میں لفظ ایسا کلمہ تشبیہ نہیں بلکہ بمعنی اس قدر اور اتنا کے ہے۔

۲۔ صدر دیوبند کہتا ہے کہ اگر لفظ ایسا کو اس عبارت میں بمعنی اتنا اور اس قدر کے لیا جائے تو عبارت میں توہین شان رسالت ہوگی ناظم شعبہ تبلیغ دیوبند در بھنگی کہتا ہے اگر لفظ ایسا کو بمعنی اتنا اور اس قدر کے لیا جائے تو ہرگز توہین شان رسالت نہ ہوگی۔

۳۔ صدر دیوبند کہتا ہے کہ حضور کے علم کو پاگلوں جانوروں رذیلوں کے علم سے تشبیہ دینا کفر ہے۔

۴۔ ناظم دیوبند کہتا ہے کہ جو شخص ایسا کو بمعنی اتنا اور اس قدر کے کہتا ہے وہ علم نبوی کو بچوں پاگلوں جانوروں کے برابر مان کر کافر ہو گیا۔

ناظم در بھنگی کہتا ہے جو شخص ایسا کو بمعنی اتنا کہتا ہے وہ علم نبوی کو پاگلوں، جانوروں کے علم کے برابر مان کر کافر نہیں ہوا۔

۵۔ صدر دیوبند کہتا ہے تھانوی صاحب نے ایسا بمعنی مثل کے کلمہ تشبیہ مراد لے کر لکھا ہے ایسا کو اگر بمعنی اتنا مراد لیا ہے تو کافر ہو گئے جو شخص ایسا کو بمعنی اتنا کے کہتا ہے وہ محض جاہل ہے ایسا کلمہ تشبیہ میں متعین ہے اور در بھنگی کہتا ہے اگر تھانوی نے ایسا بمعنی مثل کے کلمہ تشبیہ مراد لے کر لکھا ہے تو یقیناً کافر ہو گئے اگر اتنا اور اس قدر کے معنی میں کہا ہے جو یہاں متعین ہیں بالکل کافر نہیں جو کلمہ تشبیہ مراد لیتا ہے وہ محض جاہل ہے۔ اب مصیبت تھانوی کے لئے ہے۔

اگر اس نے ”ایسا“ کلمہ تشبیہ کے لیے لکھا تو ناظم شعبہ تبلیغ دیوبند کے فتویٰ کی رو سے کافر ہو گئے اور اگر اس نے اتنا اور اس قدر کے معنی میں لکھا تو صدر دیوبند کے فتویٰ کی

رو سے کافر ہو گئے۔

دیوبندیوں کا فرض ہے کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی مولوی کے قول کو ٹھکرا کر اتحاد امت کا مظاہرہ کریں یہ ملاں کسی کام نہ آئیں گے۔

علمائے دیوبند کی اکابر پرستی

مودودی جماعت کے کسی صاحب نے یہ بتائے بغیر کہ یہ عبارت بانی دیوبند نے تصفیۃ العقائد نامی کتاب میں لکھی ہے اس کے بارے دیوبند کے مفتی سے فتویٰ پوچھا مفتی صاحب نے بلا دھڑک کفر کا فتویٰ دے دیا۔ عبارت یہ ہے ”دروغ صریح (ایسا جھوٹ جس میں تاویل قبول نہیں) بھی کئی طرح پر ہوتا ہے اور ہر قسم سے نبی ﷺ کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے بالجملہ سے علی العموم کذب (جھوٹ) کو منافی شان نبوت (شان نبوت کے خلاف) بایں معنی سمجھنا کہ یہ (جھوٹ) معصیت (گناہ) ہے اور انبیاء علیہم السلام معاصی (گناہوں) سے معصوم ہیں خالی غلطی سے نہیں“

یہی بات کوئی اور کہے تو کافر اور بانی دیوبند نا تو توئی کہے تو وہ مسلمان؟ اکابر پرستی چھوڑ کر اہل سنت کے ساتھ متفق ہو جاؤ۔

فرقہ اسماعیلیہ

علمائے دیوبند کے پیر و مرشد حاجی، مداد اللہ شاکم امدادیہ میں فرماتے ہیں سب سے پہلے مولوی اسماعیل دہلوی نے مسلک پیران خود پر انکار کیا اور اپنے بزرگوں

از۔ سہ روزہ ”دعوت“ دہلی ۱۷ جنوری ۱۹۵۶ء، ”حقیقت“ صفحہ ۱۰۔ از عامر عثمانی فاضل دیوبند و مدیر ماہنامہ تجلی دیوبند۔ ناشر فرینڈز پبلی کیشنز پاک گیٹ ملتان۔ صدر صابر عفی عنہ

سے چند مسائل میں اختلاف کیا۔

پہلا اختلافی مسئلہ :-

مولوی اسماعیل دہلوی نے ایضاح الحق کتاب میں خدا کے لئے جہت سمت اور زمان و مکان ثابت کیا اسی عقیدہ پر علمائے دیوبند نے کفر کا فتویٰ دیا۔
(ملاحظہ ہو انوار آفتاب صداقت)

دوسرا اختلافی مسئلہ :-

تقویت الایمان نامی کتاب میں حضور علیہ السلام کی شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت کا انکار کیا اس انکار کی وجہ سے مولانا فضل حق خیر آبادی مجاہد جنگ آزادی و شہید جزیرہ انڈیمان نے ابطال الطغویٰ نامی کتاب میں ملاں مذکور پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اس پر شاہ احمد سعید مجددی نے دستخط کئے شاہ احمد سعید مجددی امام ربانی کی اولاد اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (مولوی اسماعیل کے چچا) کے شاگرد اور خواجہ دوست محمد قندھاروی بانی خانقاہ موسیٰ زئی شریف کے پیر و مرشد اور غلام خان کے پیر و استاد مولوی حسین علی پھروئی کے دادا پیر اور غلام حبیب چکوالی اور خان محمد خانقاہ سراجیہ والے اور عبدالمالک قریشی کے پیر پیران ہیں۔

تیسرا اختلافی مسئلہ :-

مولوی اسماعیل نے حضور علیہ السلام کی مثال و نظیر پیدا ہونا ممکن قرار دیا اور صاف لکھا کہ کروڑوں نبی محمد علیہ السلام کے برابر پیدا کر ڈالے حالانکہ اس مسئلہ پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کی مثل و نظیر ناممکن محال اور ممتنع بالذات ہے دیوبندی شریعت کے امیر عطاء اللہ بخاری کے پیر اول سرکار مہر علی شاہ گولڑوی نے

اس عقیدہ کا ردِ بلیغ فرمایا ملاحظہ ہو فتاویٰ مہریہ اور شہید جنگ آزادی مولانا فضل حق خیر آبادی کا رسالہ امتناع نظیر۔

چونہا اختلافی مسئلہ۔

مولوی اسماعیل نے جب کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہے تو علمائے حق نے اس غلط عقیدہ پر گرفت فرمائی کہ جب خدا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا پیدا ہونا ممکن مانا جائے تو اس سے امکان کذب باری تعالیٰ لازم آئے گا جو صریح گمراہی ہے اس پر ملاں اسماعیل دہلوی نے رسالہ یکروزی لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے (معاذ اللہ) جو کام ہم کر سکتے ہیں خدا بھی کر سکتا ہے اس پر اعلیٰ حضرت فاضل پریلوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ جلد اول میں دیوبندیوں کے جھوٹے خدا کی سرخی جما کر اس کا ردِ بلیغ فرمایا جس پر منیر خان عارف دیوبندی ساکن علاقہ جدون اپنے رسالہ ”ایک نئی تصویر“ میں بطور اعتراض نقل کرتا ہے حالانکہ وہ گرفت ہے جس کا جواب سوائے توبہ کے علماء دیوبند کے پاس اور کوئی نہیں عقیدہ امکان کذب باری تعالیٰ یعنی دیوبندیوں کا خدا جھوٹ بول سکتا ہے کی تائید مولوی گنگوہی نے فتاویٰ رشیدیہ میں کی مولوی خلیل احمد نے براہین قاطعہ میں اور شیخ الہند محمود الحسن نے جہد المقل میں کی علمائے حق کے دلائل قاہرہ کی ضربات شدیدہ سے مبہوت اور بدحواس ہو کر اشرافیہ تھانوی نے اپنی آخری تصنیف بوادر النوار مطبوعہ دیوبند صفحہ ۲۸۱ میں لکھا یہ مسئلہ قابل ترک ہے اس عنوان کو ترک کر دینا چاہیے موجودہ دیوبندی علماء حق کی بات نہیں مانتے اپنے حکیم الامت کی مان کر اس عقیدہ سے توبہ

کر کے اس کو ترک کر دیں تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔

پانچواں اختلافی مسئلہ :-

مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی تصنیف صراط مستقیم میں لکھا نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال گاؤں کے خیال سے زیادہ برا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال سے شرک لازم آئے گا۔ بیل اور گدھے کے خیال سے شرک لازم نہیں آتا اس عبارت پر کافی مناظرے ہوئے مناظرہ جھنگ اسی عبارت پر ہوا تھا دیوبندی مناظر کی شکست اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دیوبندی اس کے جواب سے عاجز ہیں۔

دیگر اختلافی مسائل :-

تقویت الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی نے کافی توہین آمیز فقرات لکھے ہیں مثلاً ”حضور مر کرمٹی میں مل گئے“ ”حضور گاؤں کے چوہدری کی مثل ہیں“ ”ذره ناچیز سے کمتر ہیں“ ”چوہڑے چمار سے ذلیل ہیں“ ”ناکارہ لوگ ہیں“ وغیرہ وغیرہ

تجلیات دوستیہ: نقشبندی کہلوانے والے دیوبندی پیر دوست محمد قریشی عبد الممالک عبداللہ و عبدالحی بہلوی، غلام حبیب چکوالی، خان محمد خانقاہ سراجیہ کنڈیاں والے ان سب کے دادا پیر خواجہ دوست محمد قندھاروی بانی خانقاہ عالیہ موسیٰ زئی شریف نے اپنے ملفوظات مسمی بہ تجلیات دوستیہ میں اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں کو گمراہ فرقہ اسماعیلیہ کے نام سے منسوب کر کے اپنے مریدین کو اس گمراہ فرقہ سے دور رہنے کا حکم فرمایا دیوبندی پیرا گرا اپنے دادا پیر کی مان لیں تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔

فاضل بریلوی کی احتیاط :- اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا کہ مولوی اسماعیل دہلوی اپنے کفریات سے توبہ کر کے مرا ہے تو آپ نے التزام و

لزوم کفر کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے کفر سے کف لسان فرمایا اپنے ملفوظات میں فرمایا خود احتیاطاً کافر کہنے سے کف لسان کریں گے اگر کوئی اسماعیل کو کافر کہے گا اسے روکیں گے نہیں اسماعیل دہلوی اس جہان سے توبہ کر کے گیا تم بھی ان اختلافی باتوں سے توبہ کر لو۔ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ (انشاء اللہ)

منیر خان دیوبندی کے رسالہ ایک نئی تصویر کا جواب

اختلاف نمبر ۱ کا جواب:- اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قصہ موضوع روایت سے نہیں لیا بلکہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ شیطان بھی نماز پڑھتا ہے اور قرآن سے ثابت ہے وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے **إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ** مشکوٰۃ شریف میں بخاری شریف کے حوالہ سے ہے شیطان نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الكرسی اور اس کے فوائد بتائے امداد المشتاق صفحہ ۷۷ میں مولوی تھانوی لکھتا ہے بعض کتب میں مدح ابلیس کی پائی جاتی ہے کہ چونکہ توحید و عشق اس کا اعلیٰ درجہ کا تھا سجدہ آدم گوارہ نہ کیا۔ منیر خان کے اکابرین کے نزدیک تو اس کا علم معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زائد ہے ملاحظہ ہو براہین قاطعہ صفحہ ۵۱ مصدرہ گنگوہی۔ لغت کی کتب معتبرہ میں شیطان کا لقب شیخ نجدی لکھا ہے حالانکہ شیخ نجدی تیرہویں صدی میں پیدا ہوا۔ بخاری شریف ۲ میں شیخ نجدی کو قرن الشیطان ۳ بمعنی دیوبند

۱:- مشکوٰۃ شریف صفحہ ۱۸۵، بخاری شریف صفحہ ۳۱۰ جلد اول

۲:- بخاری ۱۴۱، ۲۳۸، ۲۶۳، ۲۶۶، ۲۹۶، ۲۹۸ جلد اول۔ مسلم جلد اول ۵۲، جلد

دوم صفحہ ۳۹۳، ۳۹۴ پانچ حدیثیں، ۷۹۸، ۷۹۹، ۱۰۵۰، باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر

فرمایا فیروز اللغات فارسی میں ہے دیوبند قارون کا لقب ہے بند کا معنی گروہ جماعت اور قرن ہے اور دیو کا معنی شیطان ہے اب مفتی احمد یار خان پر اعتراض کرنا منیر خان کی جہالت اور دماغ میں دیوبند ہونے کی علامت ہے۔

اختلاف نمبر ۲ کا جواب :- غیاث اللغات صفحہ ۱۵۱ میں خاوند کا معنی خداوند کا مخفف لکھا ہے کریم اللغات میں خاوند کا معنی مالک لکھا ہے اب اعلیٰ حضرت کے ملفوظ صفحہ ۸۳ جلد دوم کی عبارت کا معنی یہ ہوگا میرا خاوند میرا مالک حسی لایموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا خاوند بیوی کا تصور منیر خان کے ذہن میں اس لئے آیا کہ اس کے ذہن میں دیوبند ہے مولوی سرفراز گلکھڑوی تبرید النواظر میں لکھتا ہے خدا کو میاں کہنا جائز ہے حالانکہ خاوند کو بھی میاں کہا جاتا ہے امید ہے طبیعت صاف ہو جائے گی کیونکہ دیوبندیوں کا خدا ان کا میاں (خاوند) ہے اور تمام دیوبندی میاں صاحب کی بیویاں ہو گئیں۔

شرم ان کو مگر نہیں آتی

بقیہ صفحہ گذشتہ :- ترمذی ۵۱ جلد دوم، مسند احمد صفحہ ۷۳، ۱۲۱ جلد دوم

۳: حضرت ابو مسعود (المتوفی ۴۰ھ) رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کے مشرق سے شیطان کے دو سینگ نکلیں گے (مسلم ۵۲ جلد اول) شیطان کے دو سینگ سے مراد دو ایسے شخص ہیں جن سے بہت گمراہی پھیلنی تھی اور جن کا ظہور نجد سے ہونا تھا۔ صوبہ نجد میں عیینہ ایک مقام ہے مسیلمہ کذاب اور محمد بن عبد الوہاب امام الوہابیہ اس جگہ سے پیدا ہوئے اور ان کی وجہ سے امت میں بہت فتنے ظاہر ہوئے اور لوگوں کے عقائد متزلزل ہوئے۔ علمائے محدثین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے قرن الشیطان سے مراد یہی دو شخص لیے ہیں۔

ابو الجلیل فیضی غفرلہ

اختلاف نمبر ۳ کا جواب :- اعلیٰ حضرت خدا کے لئے معاذ اللہ برائی نہیں لارہے ہیں بلکہ تمہارے اکابرین کے جھوٹے عقیدے (جو کچھ ہم کر سکتے ہیں معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے) کی تردید فرما رہے ہیں توبہ کے سوا اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے۔

اختلاف نمبر ۴ کا جواب :- امام زرقانی شارح مواہب اللدنیہ کی عبارت کے ناقل اعلیٰ حضرت ضرور ہیں (ملاحظہ ہو زرقانی صفحہ ۱۶۹) علمائے دیوبند امام زرقانی کو جلیل القدر امام مانتے ہیں۔ مواہب جس کی شرح زرقانی ہے اس کا ترجمہ علمائے دیوبند نے لکھا اور اسے معتبر کتاب مانا ہے۔ شب باشی کا غلط تصور دیوبندیوں کے گندے ذہن کی پیداوار ہے۔ جمال الاولیاء صفحہ ۷۸ میں تھانوی لکھتا ہے۔

محمد الحضرمی کئی کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھے۔ شب باش ہونے کا جو معنی تھانوی کی عبارت کا کرو گے۔ اعلیٰ حضرت کی عبارت کا وہی سمجھ لو۔

اختلاف نمبر ۵ کا جواب :- اعلیٰ حضرت نے امام عبدالوہاب شعرانی اور سید احمد کبیر بدوی کے حوالے سے واقعہ نقل فرمایا مولوی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء صفحہ ۵۷، ۱۶۸، ۲۰۸ میں ان دونوں بزرگوں کو اولیاء اللہ اور ائمہ دین شمار کیا ہے اب تھانوی کے بارے کیا حکم ہے۔۔۔۔۔؟

منیر خان اعتراض کرنے کے خبط کو پرے پھینک کر احادیث و فقہ کی روشنی میں کینر باندی شرعی کا ہبہ ناجائز ثابت کرے یا پھر اعتراض بازی سے باز رہے۔

اختلاف نمبر ۶ کا جواب :- یہ واقعہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ عاشق الہی میرٹھی نے تبویز شرح ابویز میں لکھا ہے۔ گنگوہی نے امداد السلوک اور صدر دیوبند حسین

احمد ٹانڈوی نے شہاب ثاقب میں بھی لکھا ”مرید جہاں بھی ہو اس کا پیر اس کے ساتھ ہوتا ہے“ اب جو فتویٰ اعلیٰ حضرت پر لگاتے ہو وہ اپنے بڑوں پر بھی لگاؤ۔

اختلاف نمبر ۷ کا جواب :- فتاویٰ رشیدیہ کی عبارت سے واضح ہے کہ امام صاحب کے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کو کرایہ پر دینا گناہ نہیں۔

اب جاہل دیوبندی کا اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہے۔ ان کی حقیقت کے ڈھول کا پول کھل گیا!

اختلاف نمبر ۸ کا جواب :- انگریز کے غلام اور نمک خوار کون۔۔؟ انگریزوں سے چھ سو روپے ماہوار مولوی اشرف علی تھانوی لیتے رہے۔ (مکالمۃ الصدرین صفحہ ۱۶) مولوی نانوتوی اور گنگوہی اپنی مہربان سرکار (انگلشیہ) کے دلی خیر خواہ تھے تازیت دلی خیر خواہ ہی ثابت رہے۔ (تذکرۃ الرشید صفحہ ۷۹ جلد اول)

گنگوہی نے کہا جب میں حقیقت میں سرکار (گورنمنٹ برطانیہ) کا فرمانبردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیگانہ ہوگا اور مارا بھی گیا تو سرکار (گورنمنٹ برطانیہ) مالک ہے اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ (تذکرۃ الرشید صفحہ ۸۰ جلد اول)

مدرسہ دیوبند کے کارکنوں اور مدرسین کی اکثریت ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ (برطانیہ) کے قدیم ملازم اور حال پشتر تھے جن کے بارے گورنمنٹ (برطانیہ) کو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ تھی۔ (سوانح قاسمی حاشیہ صفحہ ۲۴۷ جلد دوم)

تھانوی کا ارشاد :- انگریزوں نے ہمیں بہت آرام پہنچایا۔

(الاضافات الیومیہ صفحہ ۶۹۷ جلد ۴)

مسٹر پامرا ایک خفیہ معتمد انگریز نے دارالعلوم دیوبند کے بارے لکھا کہ یہ مدرسہ مخالف سرکار (انگریزی) نہیں بلکہ موافق سرکار و مدد و معاون سرکار برطانیہ ہے۔

(کتاب مولانا احسن نانوتوی صفحہ ۲۱۷ بحوالہ برق آسمانی)

اختلاف نمبر ۹ کا جواب :- ضلع صوابی کا بے خبر دیوبندی لکھتا ہے دیوبندی علماء کہتے ہیں کسی غیر محرم عورت پر قصداً نظر ڈالنا حرام ہے۔

جواباً گزارش ہے کہ! دیوبندی مولویوں کا عمل اس کے برعکس ہے!

”ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں ایک باریہ

سہارن پور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے سب مرید نیاں اپنے میاں

صاحب کی زیارت کے لئے حاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی میاں صاحب بولے

کہ فلانی کیوں نہیں آئی رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیرا

کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں اور بہت

روسیاہ ہوں میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں میں زیارت کے قابل نہیں میاں صاحب

نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں جب

وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آتی تھیں اس نے کہا حضرت

روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں میاں صاحب بولے بی تم شرماتی

ہو کیوں ہو کرنے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی

اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوۃ اگرچہ میں روسیاہ و گناہ گار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر

پیشاب بھی نہیں کرتی“ (تذکرۃ الرشید صفحہ ۲۲۲ جلد دوم)

تھانوی کی نانی اور ماں پیر غلام مرتضیٰ کے پاس بیٹا لینے گئیں۔

(اشرف السوانح صفحہ ۱۹ جلد اول طبع ملتان)

تھانوی نے لکھا مولوی اسماعیل اپنے ننگے پیر بیٹیر شاہ کا درشن کرنے کے لئے جاتے تھے

(ابرواح ثلاثہ صفحہ ۳۸۳ مصنفہ تھانوی طبع لاہور)

ملفوظات کے جس واقعہ کا حوالہ جاہل دیوبندی نے دیا وہ محض پہلی نظر سے بلا اختیار

دیکھنا ہے جو شرعاً معاف ہے۔

اختلاف نمبر ۱۰ کا جواب :- حضور اول ہیں۔ (نشر الطیب تھانوی)

حضور اول، آخر، ظاہر، باطن ہیں۔

(مدارج النبوت مصنفہ شیخ محقق محدث دہلوی وسیرت محمدیہ مصدقہ علمائے دیوبند)

صوابی ضلع کے دیوبندی کو اعلیٰ حضرت کے اس مصرعہ پر سخت اعتراض ہے۔

اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے

اب آپ ملاحظہ فرمائیں یہ اپنے بزرگوں کے بارے کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔

خدا دیوبندی کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا (حسین احمد کانگریسی ان کا خدا تھا)

(الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۱۱۳)

حسین احمد خدا کی قدرت کاملہ کے نمونہ خدا کی رحمت آیت من آیات اللہ تھے۔

(الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۱۵۱)

(الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۲۲)

حسین احمد خدا کا سایہ ہے۔

(الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۴۷)

حسین احمد کعبہ دل قبلہ جاں ہے۔

(الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۳۹۰)

حسین احمد کار ساز ہے۔

حسین احمد جمال حق نما ہے۔ (الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۲۶۹)

حسین احمد نور الوجود اور مولی المولی ہے۔ (الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۲۶۵)

حسین احمد کی شکل و صورت میں حضور کی زیارت ہوگی۔ (الجمعیۃ شیخ الاسلام نمبر صفحہ ۴۷)

قیامت میں خدا کی تجلی مثالی (نبی ولی کی صورت میں) ہوگی۔

(بودار النوادر صفحہ ۵۷۰ مصنفہ تھانوی مطبوعہ دیوبند)

خدا کا دیدار صورت پیر میں ہوگا۔ (بودار النوادر صفحہ ۷۹۳ مصنفہ تھانوی مطبوعہ دیوبند)

خدا کبھی صورت لیلی میں نظر آتا ہے۔ (تذکرۃ الرشید صفحہ ۲۴ جلد دوم)

فکر شاہ ولی اللہ کے علمبردار حوالہ توجہ سے پڑھیں ”شاہ ولی اللہ ولی الہند انفاس

العارفین ترجمہ اردو صفحہ ۷۳۱ میں فرماتے ہیں جسے تم خدا جانتے ہو ہمارے نزدیک وہ

محمد ہے اور جسے تم محمد جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک خدا ہے کی تاویل کرتے ہوئے

فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام حق سبحانہ و تعالیٰ کے آئینہ اور اس کے مظہر اتم

ہیں اور حقیقت محمد یہ تعین اول، جامع تعینات اور مظاہر ہے اور تمام کائنات ان کے

نور سے ظہور پذیر ہوئی ہے اس اعتبار سے اس نے یہ بات کہی ہے ”فتاویٰ رشیدیہ میں

گنگوہی نے ایسے اشعار کے معنی تاویل سے درست بتائے ہیں۔

امید ہے طبیعت صاف ہوگئی ہوگی۔

آخری گزارش! علمائے دیوبند ان مسائل میں اپنے اکابرین کے پیر و مرشد حضرت

حاجی امداد اللہ مہاجر کی جو کہ حاضر و ناظر، علم غیب، نور، عرس، میلاد، قیام، گیارہویں

شریف کے قائل تھے کی بات مان لیں تو سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور اہلسنت

ایک عظیم قوت بن کر باطل قوتوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔

قول متين

درباره

غنية الطالبين

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی الہ واصحابہ اجمعین . اما بعد۔
 آج کل غیر مقلدین نے شور مچا رکھا ہے کہ غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ جس کی تم ہر مہینے گیارہویں مناتے ہو وہ اپنی تصنیف غنیۃ الطالبین میں
 فرماتے ہیں فرقہ حنفیہ کا شمار گمراہ فرقوں میں ہے یہ فرقہ گمراہ ہے۔ (معاذ اللہ)

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھی گئی مستند کتاب
 ”قلائد الجواہر فی مناقب الشیخ عبدالقادر“ از قلم محقق اعظم ولی کامل محمدی
 تازنی (المتوفی ۹۶۳ھ) رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ از مولانا زبیر فضل عثمانی ترتیب و تصحیح
 از قلم مولانا محمد اطہر نعیمی و شمس بریلوی۔ مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی صفحہ ۹۳ میں
 واضح لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم خود حنفی المذہب تھے۔

کوئی اپنے فرقہ کو گمراہ کہہ سکتا ہے؟

اشہر روایت کی رو سے آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے غیر
 مقلد نہیں تھے۔ غیر مقلدین کے نزدیک تقلید شخصی شرک فی الرسائل ہے گویا ان
 کے نزدیک غوث اعظم مشرک تھے۔ (معاذ اللہ)

اب مشرک کی بات کی کیا وقعت ہے؟

حقیقت یہ ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا امام
 احمد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ملاحظہ ہو کتاب غنیۃ
 الطالبین کی نسبت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ خیال
 ہے کہ وہ سرے سے حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہی
 نہیں مگر یہ نفی مجرد ہے اور امام ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی کہ اس

کتاب میں بعض مستحقین عذاب نے الحاق کر دیا ہے۔ فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں ترجمہ۔ خبردار دھوکہ نہ کھانا اس سے جو امام الاولیاء سردار اسلام و مسلمین حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیۃ الطالبین میں واقع ہوا کہ اس کتاب میں اسے حضور (غوث اعظم رضی اللہ عنہ) پر افتراء کر کے ایسے شخص نے بڑھا دیا ہے کہ عنقریب اللہ عزوجل اس سے بدلہ لے گا حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑی ہیں۔ (فتاویٰ ضویہ جلد ۲۹ صفحہ ۲۲۲ مطبوعہ جامعہ نظامیہ لاہور)

فقیر کے کتب خانہ میں فتاویٰ حدیثیہ کا جو نسخہ ہے وہ مطبوعہ مطبع مصطفیٰ الحلبی مصر ہے اس کے صفحہ ۳۷ کی عبارت ملاحظہ ہو جس کا ترجمہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔

”وایاک ان تغرب ما وقع فی الغنیۃ لامام العارفین وقطب الاسلام والمسلمین الاستاذ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانہ دسہ علیہ فیہا من سینتقم اللہ منہ والافہو بری من ذلک“ بلفظہ

علم عقائد اہل سنت کی سب سے معتبر ترین کتاب شرح لشرح العقائد المسمی النبر اس مطبوعہ ملک دین محمد لاہور صفحہ ۶۷۷ میں ہے۔

فی غنیۃ الطالبین المنسوبة الی الغوث الاعظم عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز فالنسبة بہا غیر صحیحہ والاحادیث الموضوعۃ فیہا وافرة یعنی غنیۃ الطالبین کی نسبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بالکل غلط ہے اس میں موضوع (من گھڑت) حدیثیں کافی موجود ہیں۔ جب ہمارے بزرگوں کے نزدیک غنیۃ الطالبین غوث پاک کی تصنیف ہی نہیں تو ہمارے لئے اس کتاب کا کوئی قول حجت نہیں۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اسی کتاب (غنیۃ الطالبین) میں تمام اشعریہ یعنی اہل سنت و جماعت کو بدعتی، گمراہ اور گمراہ گر لکھا ہے کہ:- خلاف ما قالت الاشعریۃ من ان کلام اللہ معنی قائم بنفسہ واللہ حسیب کل مبتدع ضال مضل بخلاف اس کے جو اشاعرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا معنی ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بدعتی گمراہ و گمراہ گر کے لئے کافی ہے۔

کیا کوئی ذی انصاف کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ سرکار غوثیت اعظم کا ارشاد ہے جس کتاب میں تمام اہل سنت کو بدعتی گمراہ گمراہ گر لکھا ہے اس میں حنفیہ کی نسبت کچھ ہو تو کیا جائے شکایت ہے۔ لہذا کوئی محل تشویش نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ جلد ۲۹ صفحہ ۲۲۳ مطبوعہ رضافاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ لاہور)

(لہذا ثابت ہوایہ کتاب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نہیں) بالفرض محال اگر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہو! تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں:

”پھر یہ خود صریح غلط اور افتراء پر افتراء ہے کہ تمام حنفیہ کو ایسا لکھا ہے۔

(غنیۃ الطالبین مطبوعہ پشاور صفحہ ۹۱ پارہ اول) کے یہاں صریح لفظ یہ ہیں ہم بعض اصحاب ابی حنفیہ وہ بعض حنفی ہیں جو گمراہ ہیں۔

اس سے نہ حنفیہ پر الزام آسکتا ہے نہ معاذ اللہ حنفیت پر آخر یہ تو قطعاً معلوم ہے اور سب جانتے ہیں کہ حنفیہ میں بعض معتزلی تھے جیسے زرخشری صاحب کشاف و عبدالجبار و مطرزی صاحب مغرب و زاہدی صاحب قنیہ (جس نے دعا بعد نماز جنازہ کو ناجائز لکھا) و حاوی و مجتبیٰ۔ پھر اس سے حنفیت و حنفیہ پر کیا الزام آیا

بعض شافعیہ زیدی رافضی ہیں اس سے شافعیہ و شافعییت پر کیا الزام آیا۔ نجد کے وہابی سب حنبلی ہیں پھر اس سے حنبلیہ و حنبلیت پر کیا الزام آیا؟ جانے دور رافضی خارجی، معتزلی، وہابی سب اسلام ہی میں سے نکلے اور اسلام کے مدعی ہوئے۔ پھر معاذ اللہ اس سے اسلام و مسلمین پر کیا الزام آیا؟

کتاب مستطاب بھجة الاسرار میں بسند صحیح حضرت ابو التقی محمد بن ازہر صریفینی سے ہے ”مجھے رجال الغیب کے دیکھنے کی تمنا تھی مزار پاک امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور ایک مرد کو دیکھا دل میں آیا کہ یہ مرد ان غیب سے ہیں وہ زیارت سے فارغ ہو کر چلے یہ پیچھے ہوئے ان کے لئے دریائے دجلہ کا پاٹ سمٹ کر ایک قدم بھر کا رہ گیا کہ وہ پاؤں رکھ کے اس پار ہو گئے۔ انہوں نے قسم دے کر روکا اور ان کا مذہب پوچھا فرمایا حنفی مسلم وما انا من المشرکین ہر باطل سے الگ (حنفی) مسلمان اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

یہ سمجھے کہ حنفی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کے لئے حاضر ہوئے۔

حضور اندر ہیں دروازہ بند ہے ان کے پہنچتے ہی حضور نے اندر سے ارشاد فرمایا: اے محمد ”آج روئے زمین پر اس شان کا کوئی ولی اللہ حنفی المذہب نہیں“

(بھجة الاسرار مطبوعہ بیروت صفحہ ۱۵۲)

کیا معاذ اللہ گمراہ بد مذہب لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں؟ جن کی ولایت کی خود سرکار غوثیت نے شہادت دی۔

(فتاویٰ رضویہ جلد ۲۹ صفحہ ۲۲۳، ۲۲۴ مطبوعہ رضافاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ لاہور)

معلوم ہوا غنیۃ الطالبین غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف نہیں جس میں حنفیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے۔

فتاویٰ رضویہ صفحہ ۲۱ جلد ۲۹ مطبوعہ رضافاؤنڈیشن فہرست مضامین میں ہے:-

غنیۃ الطالبین سرکار غوثیت کی تصنیف نہیں ہے نیز اس میں الحاق بھی کر دیا گیا ہے۔ غیر مقلدین اس کتاب میں سے اپنے مطلب کی باتیں رفع یدین وغیرہ کو تو مانتے ہیں مگر نماز تراویح کی عشرين رکعة ہیں رکعتیں کیوں نہیں مانتے؟
جب کہ اسی کتاب میں صاف لکھا ہے کہ نماز تراویح میں رکعت ہے۔

اَفْتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَكُفَرُوْنَ بِبَعْضِ

مسئلہ علم غیب

نبی کا معنی :- نبوت اطلاق علی الغیب کا عین ہے یا لازم۔ نبی صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہمیشہ غیب کی خبر دینے والے کے ہوتے ہیں۔ نیز نبی اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضائی الامور جو اعلیٰ درجہ کا غیب ہے کا مخبر ہوتا ہے تو نبی کا معنی ہمیشہ مطلع علی علم الغیب ہوا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ مواہب للبدنیہ صفحہ ۳۵، ۳۶ جلد دوم از امام قسطلانی شارح بخاری، شفا شریف صفحہ ۱۰۲ از امام الحدیث قاضی عیاض اور شرح مواہب از امام زرقانی، شرح شفا از علامہ علی قاری حنفی و نسیم الریاض شرح شفا از امام خفاجی۔ جب اطلاع علی علم الغیب نبوت کا عین یا لازم ثابت ہو تو مطلقاً نبی علم غیب ثابت کرنے والا منکر نبوت ہوگا۔

ایک مغالطہ :- منکرین علم غیب نبی یہ مغالطہ دیتے ہیں جو علم خدا نے بذریعہ وحی نبی کو بتا دیا وہ علم غیب نہیں رہتا۔

جواب :- وحی کا تعلق حواس خمسہ سے نہیں اس کا تعلق قلب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے جو غیب ہے لہذا وحی کے ذریعہ بتایا ہوا علم، علم غیب ثابت ہوا۔ ارشاد خداوندی ہے تِلْكَ مِنْ آيَاتِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَوَسَّيْ جگہ فرمایا ہے ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ بتائی ہوئی خبروں کو غیب فرمایا۔ نیز ارشاد الہی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور وہ خدایا نبی (غیب بتانے پر کنجوس نہیں۔ معلوم ہوا وحی کے ذریعہ بتایا ہوا علم، علم غیب ہے۔ نیز ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِمُ مِنْ رَسُولِهِ مَنْ يَشَاءُ

یعنی خدا کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تم کو غیب پر مطلع کرے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے (بذریعہ وحی) غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ نیز ارشاد الہی ہے

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ

وہ غیب جاننے والا (ہے) تو اپنے غیب پر کسی کو (کامل) اطلاع نہیں دیتا۔ مگر جنہیں پسند فرمایا جو اس کے (سب) رسول ہیں۔

سب رسول اس کے پسندیدہ ہیں لہذا ان کو علم غیب عطا ہوا۔

غیب کی دو قسمیں :- علمائے حق اہل سنت نے غیب کی دو قسمیں ذاتی اور عطائی (ملا دلیل علیہ اور علیہ دلیل) بیان فرمائیں قسم اول ذاتی کو خاصہ خداوندی قرار دیا اور قسم ثانی عطائی کو علم غیب تسلیم کرتے ہوئے محبوبان حق کے لئے ثابت فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیں زیر تحت

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، تفسیر بیضاوی تفسیر کبیر للرازی روح البیان زیر آیت قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ

نسیم الرياض، خازن صفحہ ۱۵۷ جلد دوم زیر آیت لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، جمل صفحہ ۲۱۷ جلد دوم

تحت لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ شرح مواقف، شرح جامع الصغير، تفسیر عرائس البیان

زیر آیت وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ تفسیر عنایت القاضی، صاوی علی الجلالین صفحہ ۱۹ جلد دوم،

روح البیان زیر آیت وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ تفسیر المودج الجلیل زیر آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ

فِي أَوْي حَلِيثِهِ، فتاویٰ امام نووی شارح مسلم، جامع الفصولین، ردالمحتار

شرح فقہ اکبر، فتاویٰ مہریہ

خدا عزوجل اور رسول ﷺ کے علم میں فرق

پہلا فرق :- اللہ کا علم ذاتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مستفاد۔ اسے

بالواسطہ بالعرض اور وہی عطائی کہتے ہیں۔ (تفسیر ابوالسعود صفحہ ۹۲ جلد ۲)
 دوسرا فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم واجب ہے اور حضور ﷺ کا علم ممکن۔ (شامی)
 تیسرا فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، سرمدی اور ابدی حقیقی ہے۔

چوتھا فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی اور حضور ﷺ کا علم متناہی۔
 پانچواں فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیر مخلوق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق۔
 چھٹا فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم کسی کے زیر قدرت نہیں اور حضور ﷺ کا علم مقدور۔
 ساتواں فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم ممتنع التعلیل اور حضور ﷺ کا علم ممکن التبدیل۔
 آٹھواں فرق:۔ اللہ تعالیٰ کا علم واجب البقاء اور حضور ﷺ کا علم جائز الفناء۔
 (ماخوذ از الدولة المکیہ از اعلیٰ حضرت محدث بریلی مصدقہ علمائے عرب و عجم)

ان فرقوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شرک کا ثنائیہ بھی باقی نہیں رہتا۔

اعتراض:۔ جب اہل سنت نے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب کلی مآکان
 وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثابت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی کب ہوا؟
 بلکہ علم الہی کے ساتھ برابری ہوگئی جو کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔
 جواب:۔ علم مآکان وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور کل شے کا تفصیلی علم ذرے ذرے
 قطرے قطرے کا علم متناہی اور محدود ہے اور علم الہی کے مقابلے میں بعض قلیل بلکہ کالعدم ہے
 ملاحظہ فرمائیے آیت کریمہ وَمَا أَوْتَيْنَاهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کی تفسیر

۱۔ بہار صفحہ ۲۴۲ جلد ۲۔ صاوی صفحہ ۳۶۲ جلد ۲۔ ۳۔ کبیر للوازی صفحہ ۲۵۳ جلد ۲۔
 تفسیر معالم التنزیل بغوی صفحہ ۱۲۸ جلد ۲۔ ۵۔ تفسیر خازن صفحہ ۱۲۸ جلد ۲۔
 اور آیت کریمہ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ کی تفسیر۔ ا۔ صاوی صفحہ ۲۳۱ جلد ۲۔ ۲۔ تفسیر

جملہ صفحہ ۳۸۳ جلد ۲-۳۔ تفسیر کبیر صفحہ ۷۸ جلد ۳۰۔ اور آیت کریمہ
 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ كِتَابًا لَّوَجَدْنَا حِسَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تفسیر کبیر صفحہ ۷۶ جلد ۲۔ جملہ صفحہ ۵۰ جلد ۳ اور سورہ
 لقمان کی آیت وَلَوْ أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ كَنُوزًا لَّوَجَدْنَا حِسَابَهُ تفسیر کبیر صفحہ ۱۵۷ جلد ۲۵، اور جملہ
 صفحہ ۲۰۹ جلد ۳ اور سورہ جن کی آیت وَأَخْطَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا نَدَتْ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ حِسَابِكُمْ تفسیر کبیر
 صفحہ ۷۰ جلد ۳، اور مدارک صفحہ ۳۲ جلد ۲، اور روح البیان ان آیات کی تفسیر کے علاوہ
 مندرجہ ذیل کتب معتبرہ سے صاف ثابت ہے کہ غیب السموات والارض کان
 یکون کلیات جزئیات کل شے وغیرہ علم الہی کے مقابلہ میں قلیل بعض اور متناہی و محدود
 ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ۱۔ حل العقده شرح بردہ از علامہ علی قاری حنفی۔ ۲۔ حواشی
 بیضاوی از امام شہاب خفاجی۔ ۳۔ روح البیان۔ ۴۔ صحیح بخاری واقعہ حضرت
 خضر علیہ السلام۔ ۵۔ شرح عقائد نسفی صفحہ ۲۷-۶۔ شرح مواقف۔ ۷۔ کیمائے
 سعادت۔ ۸۔ تفسیر حسینی۔ ۹۔ تفسیر خازن صفحہ ۱۲۵ جلد ۳۔ ۱۰۔ تفسیر صاوی علی
 الجلالین صفحہ ۳۳۵ جلد ۲۔ ابتداء سورۃ اسراء۔

جواب ۱:- اگر ہم فرض کریں کہ کوئی گمان کرنے والا علم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم کو جمیع معلومات الہیہ کا محیط جانے تو اتنا ضرور ہے کہ اس کا گمان باطل اور وہم خطا
 مگر دوسرے فرقوں کے سبب علم الہی سے برابری اب بھی نہ ہوئی۔
 نیز شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو عرفاء (عارفین) فرمایا
 مشرک نہیں فرمایا۔ (مدارج النبوت)

نیز امام ابواسحاق مصنف المدلول المنقول فی بیان شمول علم الرسول اور

عارف ابوالحسن البکری مفتی بحرور (المتوفی ۱۲۷۶ھ) کا یہی عقیدہ ہے۔ (نجم الرحمن)

ایک علمی سوال :- لَنْ اَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کے فرمان کے موجب کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قدرت ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جمیع معلومات کا علم عطا فرمادے یا نہیں؟ اگر قدرت ہے تو زیرتخت قدرت کا اثبات شرک کہاں رہا اور اگر جواب نفی میں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعتقاد میں جھوٹ پر تو قادر ہو اور شمول علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قادر نہ ہو ذرا فرق بتادیں تو عنایت ہوگی۔ (نجم الرحمن صفحہ ۴۱)

اعتراض :- حضور علیہ السلام کو جب کبھی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام بھیج کر وحی کے ذریعے کچھ باتیں بتلا دیتا تھا تو آپ جانتے تھے ورنہ آپ نہیں جانتے تھے آپ کا علم نہ دائمی تھا نہ غیب۔ (عام مغالطہ)

جواب :- ۱۔ بیشک حضور علیہ السلام کا علم وحی الہی اور تعلیم ایزدی کے ذریعے حاصل ہوا۔ ۲۔ لیکن وحی الہی صرف پیغام جبریل میں منحصر نہیں۔ ۳۔ رؤیا الانبیا وحی۔

(الحديث) انبياء عليهم السلام کی خواب بھی وحی ہے اور آپ کا ہر کلام وحی ہے۔

۳۔ وحی القاء کے ساتھ بھی ہوتی تھی یعنی قلب اطہر میں کسی بات کا ڈال دینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم ضرور لائے لیکن علم قرآن حضرت جبریل کے واسطے کا محتاج نہیں۔ امام قسطلانی شارح بخاری نے مواہب اللدنیہ صفحہ ۳۹ جلد ۲ میں ایک طویل حدیث نقل فرمائی جس میں یہ الفاظ بھی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شب معراج مجھے تمام قرآن مجید تعلیم فرمایا۔ یہ بات بھی قرآن وحدیث کی روشنی میں بالکل بظاہر ہے کہ حضرت جبریل نے جو بات حضور علیہ السلام کو بتادی حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کو معلوم ہوگئی ورنہ نہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے میں تمہیں اپنے پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے سے دیکھتا ہوں اور محدثین نے تخصیص کو رد فرما کر عموم کو ترجیح دی۔ (تحقیقات غزالی زماں رحمة اللہ علیہ)

نور نبوت :- حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیز صفحہ ۵۱۸ جلد ۱ میں **وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور نبوت سے ایسی باتیں جانتے ہیں جو غیب ہیں اور یہ بھی تعلیم ایزدی میں شامل ہے جب نور نبوت دائمی ہے تو یہ علم مبارک بھی جو نور نبوت کے ذریعہ حاصل ہو رہا ہے یقیناً دائمی ہوگا یہ نہیں کہ کبھی تو یہ کمال حاصل ہو جائے اور کبھی زائل ہو جائے۔

نبی کی خاص صفت :- زرقانی صفحہ ۲۰۰ جلد ۱ میں امام غزالی سے منقول ہے کہ نبی میں چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کی ذات میں ایک ایسا نور ہمیشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان باتوں کا ادراک کرتا ہے جو غیب میں آئندہ ہونے والی ہیں۔

عدم توجہی :- منکرین علم غیب رسول جن وقائع سے حضور علیہ السلام کی بے علمی ثابت کرتے ہیں ہمارے نزدیک انہیں بے علمی اور جہالت پر محمول کرنا صحیح نہیں۔ ہمارے نزدیک کسی حکمت کی بنا پر خواہ اسے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے باوجود کسی امر خاص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اور عدم توجہی بے علمی کو مستلزم نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے لطائف المنن کتاب الابریز البواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر صفحہ ۷۱ جلد ۲ وغیرہ۔

ایک نکتہ :- اگر علم غیب بمعنی ملکہ غیب لے لیا جائے جیسا کہ مطول تلویح

مختصر المعانی اور میرزا ہند وغیر میں ہے اور جمیع معلومات سے مراد صرف ماسگان
 وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہو جو محدود اور متناہی ہے تو کسی قسم کا خدشہ اور اعتراض باقی
 نہیں رہتا اور تمام نصوص قرآنیہ و احادیث نبویہ بآسانی متفق ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ملکہ
 اس امر کو کہتے ہیں جس کی طرف توجہ کی جائے اور وہ فوراً معلوم ہو جائے (بخم الرحمن صفحہ ۴۱)
 نبی کا معنی:- جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ نبی صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو ہمیشہ مطلع
 علی الغیب ہونے پر دلالت ہے۔ کبریت احمر صفحہ ۷۱ جلد ۲ میں ہے:-

فهذا الغیب فهو علم الرسالة۔ پس یہ غیب ہی ہے جو علم رسالت ہے۔

ثبوت علم غیب عطائی

اب ہم دلائل قویہ سے ثابت کرتے ہیں کہ وحی کے ذریعہ بتلایا ہوا علم بھی علم غیب ہے۔
 دلیل نمبر ۱:- وَعَلَيْكَ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ

(قرآن مجید)

اللہ نے آپ کو وہ علم غیب عطا فرمایا جو تو نہ جانتا تھا۔ امام سیوطی نے جلالین صفحہ ۸۰
 میں، امام احمد صاوی نے حاشیہ جلالین طبع مصر صفحہ ۲۴۵ جلد ۲ میں، امام بغوی نے
 معالم التنزیل صفحہ ۴۹۶ جلد ۱ میں، امام محقق ابراہیم بن علی بغدادی نے خازن
 صفحہ ۴۹۶ جلد ۱ میں، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان صفحہ ۳۸۲ جلد ۲ میں اس عطائی علم
 کو علم غیب قرار دیا ہے اور کچھ مفسرین نے علم ماسگان وَمَا يَكُونُ قرار دیا ہے۔ لہذا کتابت
 ہو اس آیت میں علم غیب کا ذکر ہے اور جو اللہ تعالیٰ پڑھاتا ہے وہ علم غیب عطائی ہے
 اور جو علم غیب عطائی ہے وہ اللہ کے سکھانے پڑھانے کا محتاج ہے۔

اعتراض:- اس آیت کا شان نزول دیکھئے۔ (براہین اہل سنت صفحہ ۱۰۸)

جواب :- آیات الہیہ کا عموم مورد اسباب پر بند نہیں ہوتا۔ اصول حنفیہ دیکھئے۔

اعتراض :- دعویٰ تو علم محدود کا تھا اور دلیل غیر محدود کی دیدی۔ (براہین صفحہ ۱۰۸)

جواب :- مفسرین نے جو علم مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ اور علم غیب اس کی تفسیر کی ہے تو وہ علم الہی کے مقابلے میں بعض ہے دعویٰ دلیل کے مطابق ہے مخالف نہیں۔

اعتراض :- اس آیت کے نزول سے جب سب کچھ معلوم ہو گیا تو باقی قرآنی آیات کیوں آئیں؟ (براہین اہل سنت صفحہ ۱۰۹)

جواب :- معترض کو عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ ۱۔ سورۃ الفاتحہ دو دفعہ نازل کیوں ہوئی؟ تحصیل حاصل بے سود ہے۔ (العیاذ باللہ منہ) جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا۔ ۱۔

۲۔ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کا معنی مَا حَدَّثَ وَمَا يَحْدُثُ ہے۔ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ حَيْثُ ہر ہر موضوع بحث سے خارج ہے کیونکہ حوادث کائنات جو محل نزاع ہیں ہم ان سے بحث کر رہے ہیں اور قرآن بلفظہ قدیم ہوا (عِنْدَ الْمُتَقَلِّمِينَ) اور معراج کی رات بھی علم کائنات و حوادث ہی تھا جس کی تصدیق وحی متلو سے ہو گئی۔ (مکتوبات دفتر ثالث) اعتراض :- وَيُعَلِّمُكُمُ الْكَلِمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ارشاد الہی سے تمام صحابہ اور جمیع مومنین کو غیب دان ماننا پڑے گا۔ (براہین اہل سنت صفحہ ۱۰۹)

۱۔ قرآن مجید میں نماز کی فرضیت سے متعلق اَقِمُوا الصَّلَاةَ کئی مرتبہ نازل ہوئی فرضیت کا علم تو ایک آیت کے نازل ہونے سے ہو گیا تھا متعدد بار نزول کئی وجوہ کی بنا پر ہوا۔ ماننا پڑے گا۔ قرآن مجید کا نزول صرف احکام شرعیہ کی تعلیم کیلئے نہیں ہوا بلکہ اس کی اور بھی حکمتیں ہیں جنہیں اللہ عزوجل اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ ابو جلیل فیضی عمر لہ

جواب :- نقض اجمالی وارو کرنے کے لیے مادہ نقض میں بعینہ ای دلیل کا استعمال

لازمی شرط ہے۔ کما تقریر فی علم المناظرہ ہماری دلیل میں اجزاء کا مجموعہ

۱۔ فاعل معلم صاحب فیض عام ہے۔ ۲۔ مخاطب معلم صاحب استعداد نام ہے۔

۳۔ اور ما لم تکن تعلم کا معنی علم غیب اور علم ما کان و ما یكون مفسرین نے بیان

فرمایا ہے۔ کیا یہ تین اجزاء آپ کی دلیل میں ہیں؟ ہرگز نہیں۔

ب :- اگر جمع کا لفظ جمع کے مقابل ہو جائے تو تقسیم افراد کی افراد پر ہوتی ہے یہ مسئلہ علم

اصول اور صدر شرح وقایہ میں مبرہن ہے۔ اس قاعدہ کی رو سے یَعْلَمُكُمْ میں خطاب جمع

کو ہے اور آگے مقابل میں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جمع کا صیغہ ہے۔ لہذا ایک علم ایک

مخاطب کا ثابت ہو گا نہ کہ مخاطبین کے لیے علم ما کان و ما یكون ثابت ہو جائے گا۔ غور

کیجئے۔

دوسری قرآنی دلیل :- سورۃ جن پارہ ۲۹۔ ارشاد الہی ہے

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ

ذاتی غیب دان اپنے خاص غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا کسی کو مسلط نہیں فرماتا۔

۱۔ ضمیر کم جمع اور مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بھی جمع ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع

سے ہو تو تقسیم احاد کی طرف احاد کی ہوتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ امت کے تمام افراد کو حضور علیہ

الصلوة والسلام نے وہ سب کچھ بتلادیا جو سب لوگوں کے لیے ہے اور اس کے بعد ان

کیسے ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ان کے لیے اور نہ ان کے لیے

امت کا علم آگے نہیں بڑھا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قرآنی آیات اور احادیث میں

رب زدنی علما شاہد و عادل ہے۔

تفسیر مدارک صفحہ ۳۱۹ جلد ۲ میں ہے (خدا اپنے علم کے مقابلہ میں) بعض علم غیب کے لیے رسولوں کو جن لیتا ہے۔ اس تفسیر میں علم اور غیب دونوں الفاظ اکٹھے آئے ہیں۔

اعتراض:- آیت میں اظہار غیب کا ذکر ہے۔ علم غیب کا نہیں۔ (براہین صفحہ ۱۷۲)

جواب:- اظہار علی الغیب ہی علم غیب ہے۔ دیکھئے تفسیر مدارک

نسفی حاشیہ خازن طبع مصر صفحہ ۳۱۱ جلد ۲۔

اعتراض:- اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ جمیع غیب کی اطلاع دے دیتے ہیں۔

(براہین اہل سنت صفحہ ۱۱۲)

جواب:- آیت کریمہ میں اگر لفظ غیبہ میں لفظ غیب جو اسم جنس اور مضاف ہے اور اس

کی اضافت ضمیر کی طرف عہد خارجی کی ہو تو غیب سے مراد غیب وقوع قیامت ہوگا۔ جیسا

کہ شرح مقاصد صفحہ ۱۵۱ جلد ۲ میں ہے:- اس کی بعض پسندیدہ رسولوں کو اطلاع ہے

اور اگر اضافت عہد خارجی نہ ہو تو پھر لازماً استغراق مراد ہوگا اور قاضی بیضاوی کے کلام

سے بھی یہی نظر آتا ہے۔ کیونکہ فرماتے ہیں علی الغیب المنصوص بہ علمہ تو بنا

بریں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام مغیبات کا علم کسی کو نہیں دیتا مگر اس کو جسے رسولوں

میں سے پسند فرمائے اس کو تمام مغیبات کا علم دے دیتا ہے۔

تیسری قرآنی دلیل:- پارہ ۳۰ سورہ تکویر میں ارشاد الہی ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور وہ رسول علم غیب پر بخیل نہیں۔

بعض قاریوں نے ضنین کو ظنین پڑھا ہے یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ و السلام کا علم غیب

ظنی نہیں یقینی ہے۔ معالم التنزیل بغوی اور خازن صفحہ ۳۵۷ جلد ۲ میں ہے: کہ حضور

ﷺ کے پاس علم غیب آتا ہے آپ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔

اعتراض :- مفسرین کو اختلاف ہے کہ ہونے سے مراد قرآن ہے یا رسول ﷺ۔

(براہین اہل سنت صفحہ ۱۱۶)

جواب :- اگر اس سے مراد قرآن ہو تو معترض کو اس سے کیا فائدہ پہنچا۔ جب حضور علیہ

السلام سارے قرآن کے کما حقہ عالم ہیں اور قرآن غیب پر بخیل نہیں اور کس کے لیے

نہیں؟ اللہ کے حبیب کے لیے۔ لہذا اس طرح بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غیب

دان ثابت ہوئے۔

ترجیح اور وجہ ترجیح :- ۱۔ تفسیر کبیر صفحہ ۷۲ جلد ۳۱ میں ہوئے سے مراد صرف حضور علیہ

الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

۲۔ تفسیر کبیر صفحہ ۳۵۳ جلد ۱۰ میں ہوئے سے مراد صرف رسول علیہ الصلوٰۃ و

السلام ہے۔

۳۔ امام سیوطی نے جلالین میں لکھا ہوئے سے مراد صرف حضور علیہ الصلوٰۃ و

السلام ہیں۔

۴۔ صاوی علی الجلالین صفحہ ۲۹۵ جلد ۲ ہوئے سے مراد صرف حضور علیہ الصلوٰۃ و

السلام کی ذات ہے۔

۵۔ جمل علی النجلاں صفحہ ۲۹۷ جلد ۲ ہوئے سے مراد صرف حضور علیہ الصلوٰۃ و

السلام کی ذات ہے۔

۶۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر ابن عباس صفحہ ۲۷۷ طبع مصر میں ہوئے

سے مراد صرف حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی ذات لی اور غیب کا معنی وحی کیا یعنی وحی کے ذریعے بتایا ہوا علم بھی علم غیب ہے۔

۷۔ قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی صفحہ ۵۲۳ جلد دوم میں ہُو سے مراد صرف حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی ذات لی۔

۸۔ تفسیر حسینی صفحہ ۳۱۱ جلد ۲ میں بھی ہُو سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی ہی ذات ہے۔

۹، ۱۰۔ خازن صفحہ ۳۵۷ جلد ۲، اور مدارک میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی ذات مراد لی گئی ہے۔

۱۱۔ تفسیر عزیزی مطبوعہ دیوبند صفحہ ۱۰۹ پارہ ۳۰ میں مراد حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی ذات لکھا ہے۔

اعتراض:- جب حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام نے امت کو غیب بتلانے میں بخل نہ فرمایا تو ساری امت غیب دان ہوئی۔ (براہین اہل سنت صفحہ ۱۱۷)

جواب:- اگر معترض نے معلم اور متعلم کے فرق کو ملحوظ رکھا ہوتا تو ایسا جاہلانہ اور عامیانہ

اعتراض نہ کرتا۔ حضور ﷺ کے علم کے حصول کا ذریعہ حواس خمسہ سے ماوراء وحی الہی ہے

جو غیب ہے اور امت کو جو پڑھ کر سنایا گیا وہ امت نے کانوں سے سن لیا غیب نہ رہا۔

کیونکہ غیب کی تفسیر ماغاب عن الحس ہے۔ دیکھو تفاسیر معتبرہ کبیر بیضاوی، روح

المعانی، روح البیان، صاوی، جمل، خازن وغیرہ۔

از عین نیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ نصلی علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وَّحٰی یُوحٰی ۗ

حدیث نمبر ۱۔ صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ ۹۱ مترجم صفحہ ۹۱ باب ۸۔ حب

الرسول ﷺ من الایمان۔ حدیث نمبر ۱۳۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال والذی نفسی بیدہ لایؤمن

احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین۔

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کہ اس (ذات پاک) کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم

میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی

اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

حدیث نمبر ۲۔ ایک اور مرتبہ سرکار ﷺ نے اپنی محبت کو عین ایمان قرار دیتے ہوئے

یہ الفاظ ارشاد فرمائے جو دلائل الخیرات صفحہ ۵۵، ۵۶، مطبوعہ کراچی میں بروایت

حضرت انس بن مالک مروی ہیں۔

ارشاد نبوی: قال رسول اللہ ﷺ لایؤمن احدکم حتی اکون احب

الیہ من نفسہ ومالہ وولده ووالدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ:- حضور پر نور

ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اس

کی جان، مال، اس کے بیٹے اور اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔

حدیث نمبر ۳۔ دلائل الخیرات مطبوعہ تاج کمپنی کراچی صفحہ ۵۹ پر سرکارِ پاکستان

ارشاد ہے: الا لا ایمان لمن لا محبة له۔ الا لا ایمان لمن لا محبة له الا لا ایمان لمن لا محبة له، الا لا ایمان لمن لا محبة له۔

ترجمہ:- خبردار! اس کا ایمان نہیں جس کو میری محبت نہیں۔ خبردار! وہ مومن نہیں جسے میری محبت نہیں۔ خبردار! وہ ایمان دار نہیں جسے مجھ سے پیار نہیں۔

حدیث نمبر ۴:- امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں بہ سند صحیح یہ حدیث روایت کی: قال رسول اللہ جبک الشنی یعمی ویصم۔ ارشاد فرمایا کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو (اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے) اندھا اور (محبوب کا عیب سننے سے) بہرا کر دیتی ہے۔

فائدہ: اگر کسی کو محبوب میں عیب و نقائص نظر آتے ہیں تو وہ اپنے دعوائے محبت میں جھوٹا ہے۔ (مقالات کاظمی صفحہ ۲۷۳ جلد ۳)

حدیث نمبر ۵:- جلاء الافہام صفحہ ۷۳، ۷۴ طبرانی سے بہ سند روایت کیا ہے:

عن ابی درداء قال قال رسول اللہ ﷺ اکثر والصلوة علی یوم الجمعة فانه یوم مشہود تشہد لیس من عبد یصلی علی الا یبلغنی صوتہ حیث کان قلنا وبعده وفاتک قال وبعده وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء۔ ذکرہ الحافظ المنذری فی الترغیب وقال رواہ ابن ماجہ باسناد حید۔

ترجمہ:- طبرانی نے بہ سند صحیح کہا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پر نور ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو اس لیے کہ وہ یوم مشہود ہے اس

دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں کوئی بندہ (کسی جگہ سے) مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے وہ جہاں بھی ہو۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں۔ میری وفات کے بعد بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ اس حدیث کو حافظ منذری نے ترغیب میں ذکر کیا اور کہا کہ ابن ماجہ نے (سنن کے علاوہ اپنی دیگر کتب تاریخ و تفسیر وغیرہ میں) بہ سند حیدر روایت کیا۔ (مقالات کاظمی صفحہ ۶۴ جلد ۲)

اس کی سند پر کلام کرنے والوں کا امام کاظمی نے ردّ بلغ فرمایا (مقالات کاظمی صفحہ ۶۵ جلد ۲)

حدیث نمبر ۵:- ابو داؤد اور بیہقی نے روایت کی: عن اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ انه قال من افضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا على الصلوة فيه فان صلاحكم تعرض على قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلواتنا وقد ارميت يعني بليت فقال الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء۔ ترجمہ:- اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے سب دنوں سے افضل ترین جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے۔ سرکار ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔

(مقالات کاظمی صفحہ ۲۳، ۲۴، جلد ۲)

حدیث نمبر ۷:- بیہقی نے شعب الایمان اور صفہائی نے ترغیب میں روایت کی کہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من صلی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا بلغته۔

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کے نزدیک (قلبی محبت کے قرب سے) مجھ پر درود شریف پڑھا میں اسے خصوصی توجہ کے ساتھ خود سنتا ہوں اور جس نے (محبت سے خالی ہونے کی وجہ سے) دور کی حالت میں مجھ پر درود شریف پڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔

حدیث نمبر ۸:- محبت والے قریب اور محبت سے خالی دور ہیں حدیث سے ثابت۔

(دلائل الخیرات صفحہ ۶۳ مطبوعہ تاج کمپنی کراچی)

وقیل لرسول الہ ﷺ اریت صلواۃ المصلین علیک ممن غاب عنک ومن یأتی بعدک ما حالہما عندک فقال اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم و تعرض علی صلواۃ غیرہم عرضاً۔

حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا آپ نے ان درود پڑھنے والوں کا حال دیکھا جو (بظاہر) آپ سے غائب ہیں اور آپ کے پروردگار نے ان کے بعد ہوں گے ان دونوں کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا: اہل محبت (جو بظاہر دور اور بعد میں پیدا ہوں گے ان دونوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہنچاتا ہوں۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے درود (خود سن تو سکتا ہوں مگر ادھر توجہ نہیں فرماتا اور) مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔

حدیث نمبر ۹:- دونوں (دور و نزدیک والوں) کا درود فرشتہ پیش کرتا ہے۔ اس حدیث

کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ان کے علاوہ امام طبرانی و عقیلی و ابن النجار اور ابن عساکر ابوالقاسم اصہبانی نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا آپ فرماتے ہیں میں نے آقا ﷺ کو فرماتے سنا: ان اللہ تعالیٰ ملکا اعطاء اسماع الخلاق قائم علی قبری فما من احد یصلی علی صلاة الا ابلغتها۔

ترجمہ:- بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ کریم نے تمام جہان کی بات سن لینے کی قوت عطا کی ہے وہ قیامت تک میری قبر پر حاضر ہے جو بھی مجھ پر درود شریف عرض کرتا ہے یہ فرشتہ اسی وقت مجھ پر پیش کر دیتا ہے۔

حدیث نمبر ۹:- زرقانی علی المواہب میں اور عبدالرؤف مناوی شرح جامع صغیر میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ایسی قوت عطا کی ہے کہ انسان اور جن اور ان کے علاوہ تمام مخلوق الہی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے سب سننے کی طاقت ہے خواہ کسی بھی جگہ سے یہ آواز نکلے۔

فائدہ: جب ایک فرشتہ حضور ﷺ کے دربان اور در کے خادم کو خدا نے یہ طاقت بخش دی ہے تو حضور ﷺ کے متعلق یہ عقیدہ کہ حضور ﷺ ہمارا درود خود سنتے ہیں بالکل شرک نہیں۔

حدیث نمبر ۱۰- جلاء الافہام صفحہ ۷۳ مطبوعہ دارۃ الطباعة المنیریہ میں منکرین کے پیشوا ابن قیم نے یہ حدیث پیش کی ہے:- صلوا علی فی کل یوم الاثنین والجمعة بعد وفاتی فانی اسمع صلوتکم بلا واسطۃ۔

ترجمہ:- حضور علیہ السلام نے فرمایا سو موار اور جمعہ کو میرے وصال کے بعد زیادہ

درود شریف پڑھا کرو کیونکہ میں تمہارا درود بلا واسطہ سنتا ہوں۔ یہی حدیث مبارک حافظ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے کتاب انیس الجلیس صفحہ ۲۲۲ پر درج فرمائی ہے۔ حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جسے ایک لاکھ حدیث متن اور سند سمیت زبانی یاد ہو۔

جب درود حضور ﷺ بلا واسطہ سنتے ہیں تو فرشتوں کے پیش کرنے کی حکمت محدث دیوبند کی زبانی:۔ انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فیض الباری شرح صحیح البخاری صفحہ ۳۰۲ جلد ۲ میں لکھتا ہے:

ترجمہ عبارت عربی:۔ جاننا چاہیے نبی کریم ﷺ پر درود پیش کرنے کی حدیث (حضور کے) علم غیب کی نفی پر دلیل نہیں بن سکتی اگرچہ علم غیب کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرح ہے کیونکہ فرشتوں کی پیش کش کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ درود شریف کے کلمات بعینہ بارگاہ عالیہ نبویہ میں پہنچ جائیں۔ حضور ﷺ نے ان کلمات کو پہلے جانا ہو یا نہ جانا ہو۔ بارگاہ رسالت میں کلمات درود کی پیش کش بالکل ایسی ہے جیسے رب العزت کی بارگاہ میں یہ کلمات طیبات پیش کئے جاتے ہیں اور اس کی بارگاہ الوہیت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ کلمات ان چیزوں میں سے ہیں جن کے ساتھ ذات رحمن جل مجدہ الکریم کو تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ (درود و اعمال کی) پیش کش علم کے منافی نہیں۔ لہذا کسی چیز کا پیش کرنا کبھی علم کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایسا اوقات دوسرے معانی کے لیے بھی اس فرق کو خوب پہچان لیا جائے۔ (فیض الباری شرح بخاری از محدث دیوبند بحوالہ مقالات کاظمی صفحہ ۶۲ جلد ۲)

حدیث ۱۱:- ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں اور امام بیہقی نے اپنی کتاب حیات الانبیاء میں روایت کی۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی ﷺ قال الانبیاء احياء فی قبورہم یصلون۔

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہم السلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۲:- اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۵۰۶ مترجم مطبوعہ سعیدی کراچی میں ہے: انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی جوضی الآن وانی اعطیت (مسلم میں قد اعطیت ہے) مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولكن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔

ترجمہ:- میں تمہارا آگے جانے والا آگے کا سامان ہوں اور میں تم پر گواہ یا نگران محافظ یا حاضر و ناظر ہوں اور میں یہاں سے ابھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئیں ہیں یا یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور کہا مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے مگر مجھے ڈر ہے کہ تم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے (صحیح بخاری و مسلم) فائدہ: معلوم ہوا حضور ﷺ کے حاضر و ناظر شفیع، مختار زمین کے خزانوں کا مالک ماننا ہرگز ہرگز شرک نہیں۔

حدیث نمبر ۱۳:- صحیح بخاری صفحہ ۲۱۷ مطبوعہ سعیدی کراچی۔ اور یہ حدیث

صحیح بخاری میں دوسرے مقامات پر اور ترمذی میں ایک مقام پر صحیح سند سے مروی ہے: عن ابن عمر قال (ﷺ) اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان۔

ترجمہ:- ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے دعا فرمائی یا اللہ ہمارے شام و یمن میں برکت نازل فرما، ابن عمر نے کہا لوگوں نے عرض کی ہمارے نجد کے لیے بھی دعا مانگئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطانی گروہ یا شیطان کا سینگ وہیں سے نکلے گا۔

فائدہ: جس گروہ کو نبی ﷺ شیطانی گروہ قرار دے ہم اسے صحیح نہیں مان سکتے۔

حدیث نمبر ۱۲:- صحیح بخاری مترجم صفحہ ۲۲۳ جلد ۱ مطبوعہ سعیدی کراچی۔ سرکار ﷺ نے صحابہ کو نماز کسوف پڑھائی صحابہ کرام نے اختتام نماز پر عرض کی: ہم آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا دست کرم آگے دراز ہوتا تھا۔ فقال انی رأیت الجنة وتناولت عنقودا ولو اصبته لا کلتم منه ما بقیت الدنيا وارید... الخ۔

ترجمہ:- آپ نے فرمایا: کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اگر میں اسے لے لیتا تو تم اس سے اس وقت تک کھاتے جب تک دنیا قائم ہے اور مجھے دوزخ دکھایا گیا کہ آج کی طرح کا منظر میں نے کبھی نہ دیکھا تھا اور دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ ایسا کیوں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے کفر کے سبب سے۔ کہا گیا: کیا وہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بلکہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتیں اگر ان میں سے

کسی کے ساتھ تم زندگی بھر احسان کرتے ہو اور وہ تم سے کچھ برائی دیکھے تو وہ کہیں گی کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔

حدیث نمبر ۱۵:- مصنف شیخ اسماعیل حقی صفحہ ۳۷۰ جلد ۲، اور مدارج النبوة مصنفہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی: حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اول ما خلق اللہ نوری ثم خلق بما فیہ من نورہ۔

ترجمہ:- سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا فرمایا پھر جملہ اشیاء جو عالم میں ہیں کو حضور ﷺ کے نور سے بنایا۔

حدیث نمبر ۱۶:- مصنف شیخ اسماعیل حقی صفحہ ۳۷۰ جلد ۲۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: انا من اللہ والمؤمنون منی۔ میں اللہ (کے پیدا کردہ نور) سے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۷:- مصنف شیخ اسماعیل حقی صفحہ ۳۷۰ جلد ۲، اور دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب میں ہے (بحوالہ احکام ابن القطان) ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ۱۴ ہزار سال پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا۔

فائدہ: دیوبندی مولوی تھانوی لکھتا ہے اس میں زیادہ کی نفی نہیں۔

حدیث نمبر ۱۸:- امام بخاری کے استاذ محدث عبدالرزاق نے اپنی جید عند سے جسے مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں نور محمدی کے ثبوت میں بطور پہلی حدیث نقل کیا۔ سرکار ﷺ نے فرمایا: یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور

نیک من نورہ۔ اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء (زمین، آسمان، ملائکہ جن وانس، عرش و کرسی، لوح و قلم وغیرہ) سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں من بیانہ ہے جیسے قرآن میں من روحی ہے۔ لہذا یہاں ٹکڑا حصہ یا جزو ہونا لازم نہیں آتا۔

حدیث نمبر ۱۹:- صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۹۳۵، صحیح مسلم صفحہ ۲۶۰ جلد ۱ سنن ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۸۳، سنن ابو داؤد صفحہ ۱۹۲ جلد ۱۔ میں سرکار کی دعا ہے: اللہم اجعل لی نوراً فی قلبی.... الی.... واجعل لی نوراً۔ اس طویل حدیث کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ میرے قلب میں نور اور میرے آگے اور میرے پیچھے نور اور میری دائیں جانب نور اور میری بائیں جانب نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اور میرے کان میں نور اور میری آنکھ میں نور اور میرے بالوں میں نور اور میرے پوست میں نور اور میرے گوشت میں نور، اے اللہ اور زیادہ کر دے میرے لیے نور اور عطا کر اور زیادہ نور اور بنا دے میرے لیے نور اور بنا دے میرے اعصاب میں نور بنا دے میری ذات کو نور اور بنا دے مجھے مجسم نور۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے آخر میں وارد ہے: الہی بنا دے میرے دل میں نور۔

حضور ﷺ کی ہر دعا منظور و مقبول ہے۔ تو ثابت ہوا حضور ﷺ کے تمام اعضاء مبارکہ میں نور ہی نور تھا بلکہ خود حضور ﷺ نور ہی تھے۔ اس لیے آپ کا سایہ نہ تھا۔

حدیث نمبر ۲۰:- مثلاً ترمذی میں بسند حسن مشکوٰۃ شریف اور دیگر کاتبی کتب حدیث میں ہے: سرکار علیہ السلام نے فرمایا: کنت نبیاً و آدم بین الروح

والجسد۔ میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے یعنی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

حدیث نمبر ۲۱:- صحیح بخاری صفحہ ۲۸۱، ۷۴۱، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، مطبوعہ کراچی۔ سرکارِ علیہ السلام نے چیلنج کر کے فرمایا: سلونی عما شتم۔ جو مرضی چاہے مجھ سے پوچھو۔ صحابہ نے جرح نہ کی کہ آپ غیب نہیں جانتے۔ معلوم ہوا صحابہ کا اس پر اجماع ہے حضور غیب دان کلی عالم ماکان وما یکون ہیں۔

حدیث نمبر ۲۲:- صحیح بخاری صفحہ ۵۵۹ جلد ۱، مطبوعہ کراچی۔ ترجمہ:- حدیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے ہم لوگوں کے ہمانے خطبہ دیا تو قیامت تک ہونے والی کوئی بات بھی نہ چھوڑی جس کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا جس کو بھولنا تھا وہ بھول گیا۔

فائدہ: معلوم ہوا میرے آقا عالم علیہ السلام ماکان وما یکون ہیں۔

حدیث نمبر ۲۳:- صحیح بخاری صفحہ ۶۲۷ جلد ۱، صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کی طرح صوم وصال کے روزے رکھنے شروع کئے تو کمزور ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ایتکم مثلی۔ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو۔ دوسری حدیث میں ہے: انی لست مثلكم۔ میں تمہاری مثل بالکل نہیں ہوں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو ائمانا بئرمثلکم کہلوا یا یہ تعلیم تواضع لیے ہے یعنی تواضعاً ایسا فرمائیں حقیقتاً مثل نہیں۔

دیکھو تفسیر معالم التنزیل بغوی، کبیر، خازن، مدارج النبوة وغیرہ۔

حدیث نمبر ۲۴:- صحیح بخاری صفحہ ۶۱ جلد ۱۔ ایک شخص نے پوچھا قیامت کب آئے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا کچھ جمع کر رکھا ہے۔ وہ بولا بجز آپ کی اور آپ کے رب کی محبت کے کچھ جمع نہیں کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان مع من احببت۔ تو اس کے ساتھ (قیامت کے دن) ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: المرء مع من احب۔ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔

حدیث نمبر ۲۵:- صحیح بخاری صفحہ ۸۰۹ جلد ۱، ان العین نائمة والقلب يقظان۔ حضور ﷺ کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: تنام عینای ولا ینام قلبی۔ سر کار ﷺ نے فرمایا: میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے۔ حدیث نمبر ۲۶:- صحیح بخاری صفحہ ۸۳۶ جلد ۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی آیات کے نزول سے پہلے سرکار ﷺ نے فرمایا: واللہ ما علمت فی اهل الا خیرا۔ خدا کی قسم میں اپنی اہلیہ (عائشہ صدیقہ) میں بجز خیر کے اور کچھ نہیں دیکھتا۔

فائدہ: منکر و حضور ﷺ کی قسم کو مان جاؤ۔

حدیث نمبر ۲۷:- صحیح بخاری صفحہ ۴۵ جلد ۱۔ سرکار ﷺ نے فرمایا: وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی یعنی کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنائے۔ حدیث نمبر ۲۸:- صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۱۶۔ سرکار ﷺ نے امام حسن کے بارے فرمایا ہے یہ میرا بیٹا سید (سردار ہے) اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوزخ

گروہوں (علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کے گروہوں) کے درمیان صلح کرادے گا۔
 فائدہ: معلوم ہوا جناب معاویہ مومن کامل ہیں کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرمائی۔

حدیث نمبر ۲۹:- صحیح بخاری صفحہ ۵۱۵ جلد ۳ مترجم مطبع سعیدی کراچی۔ بدر
 میں مارے جانے والے کفار کے بارے فرمایا: وہ سنتے ہیں ما انتم باسمع منهم
 ولكن لا یجیبون۔ فرمایا اے صحابہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو یعنی مردے تم
 سے زیادہ سنتے ہیں لیکن وہ ایسا جواب نہیں دے سکتے۔ (جسے تم سن سکو)

حدیث نمبر ۳۰:- مشکوٰۃ شریف باب المساجد میں عبدالرحمن بن عائش سے
 مروی ہے: سرکار ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے پروردگار کو اچھی صورت میں دیکھا۔
 (یعنی میرے دیکھنے کی صورت اچھی تھی خدا بے صورت ہے) رب تعالیٰ نے اپنا دست
 قدرت (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) میرے سینہ پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے
 اپنے قلب میں پائی فعلت ما فی السموات والارض۔ تمام آسمانوں اور زمین کی
 جملہ اشیاء کا علم مجھے عطا فرمادیا گیا۔

حدیث نمبر ۳۱:- زرقانی علی المواہب میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے
 سرکار ﷺ نے فرمایا: ان اللہ رفع لی الدنا فانا انظر الیہا والی ماہو کائن فیہا
 الی یوم القیامۃ انظر الی کفی ہذا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش
 فرمایا پس میں نے اس دنیا کو اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے کو اس طرح
 دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے کف دست کو دیکھتا ہوں۔ (یا جیسے لوگ کف دست کو دیکھتے ہیں)

حدیث نمبر ۳۲: تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا سنت ہے۔ ابو داؤد شریف صفحہ ۱۱۲ جلد ۱ میں ہے: حضرت وائل رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کو دیکھا جب بھی حضور ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے اور دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے مقابلے میں کئے پھر اللہ اکبر کہا۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۵۱ جلد اول میں ہے: سرکار ﷺ تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔

حدیث نمبر ۳۳: مجمع الزوائد صفحہ ۱۸۲ جلد ۱ میں ہے: سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے۔

کنز العمال صفحہ ۱۸ جلد ۸، مشکوٰۃ صفحہ ۳۷۷، بیہقی، خصائص کبریٰ صفحہ ۲۰۹۔ نماز میں عمامہ باندھنے کی سرکار ﷺ نے تاکید فرمائی۔

جامع صغیر صفحہ ۲۰ جلد ۲ میں ہے: سرکار ﷺ نے فرمایا کہ عمامہ کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرنا بلا عمامہ ستر رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے۔ طبقات ابن سعد صفحہ ۲۵۵ جلد ۱ میں ہے: سرکار ﷺ نے عمامہ کبھی ترک نہیں فرمایا۔

حدیث نمبر ۳۴: ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ ملاحظہ ہو کنز العمال صفحہ ۲۰۵، ۲۰۶ جلد ۴، الدارمی صفحہ ۱۴۶، ابو داؤد صفحہ ۱۱ جلد ۱، بیہقی شریف صفحہ ۳۱ جلد ۲، الدار قطنی صفحہ ۱۰ جلد ۱، مسند امام احمد بن حنبل صفحہ ۱۱۰ جلد ۱، آثار السنن صفحہ ۱، نیل الانظار للشیخ کلثبی صفحہ ۱۹۵ جلد ۲ میں غیر مقلدین کا پیشوا قاضی شوکانی مولانا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنتِ رسول ﷺ ہے۔

حدیث نمبر ۳۵:۔ امام کی اقتداء میں فاتحہ نہ پڑھنے کی حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

بخاری صفحہ ۱۰۸ جلد ۱، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۶۴ جلد ۱، مجمع الزوائد

صفحہ ۱۸۵ جلد ۱، موطا امام مالک صفحہ ۲۱، نسائی صفحہ ۱۲۷ جلد ۱، مسلم شریف

صفحہ ۱۷۲ جلد ۱، بخاری صفحہ ۹۵، ۱۰۱ جلد ۱، ابن ماجہ صفحہ ۶۱، دارقطنی صفحہ ۱۲۲،

۱۲۵، کنز العمال صفحہ ۱۲۹ جلد ۲، طحاوی صفحہ ۱۲۸ جلد ۱۔

نبی پاک ﷺ کا فرمان کہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے

دارقطنی صفحہ ۱۲۲، ۱۲۳، طحاوی صفحہ ۱۲۸ جلد ۱، کنز العمال صفحہ ۱۳۱، ۱۳۲، جلد ۲۔

صحابہ کرام امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے

ملاحظہ ہو: موطا امام محمد صفحہ ۷۸، ۷۹، ترمذی صفحہ ۴۲ جلد ۱، موطا امام مالک

صفحہ ۲۸، ۲۹، طحاوی صفحہ ۱۲۹ جلد ۱، بیہقی صفحہ ۲ جلد ۱، مجمع الزوائد

صفحہ ۱۸۵ جلد ۱، دارقطنی صفحہ ۱۴۶۔ لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب کا حکم

صرف امام و مفرد کے لیے ہے۔ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ جائز ہے۔ ملاحظہ ہو: ترمذی

صفحہ ۴۲ جلد ۱، موطا امام مالک وغیرہ۔

حدیث نمبر ۳۶:۔ آمین آہستہ کہنا سنت ہے۔ ملاحظہ ہو: طحاوی صفحہ ۳۴ جلد ۱،

بیہقی صفحہ ۵۷ جلد ۲۔

حدیث نمبر ۳۷:۔ زکوع و سجود میں رفع یدین نہ کرنا حکمِ مصطفیٰ اور سنتِ مصطفیٰ ﷺ

ہے۔ بخاری صفحہ ۱۰۹، ۱۱۰، جلد ۱، ترمذی صفحہ ۳۸، ۴۰، جلد ۱، ابوداؤد صفحہ ۱۳۱ جلد ۱،

احکام الاحکام صفحہ ۷۲، نسائی صفحہ ۱۵۸، ۱۶۱، ۱۷۰، جلد ۱۱، ابن ماجہ صفحہ ۱۷۰،
 شریف صفحہ ۱۶۹، ۱۷۰، جلد ۱، طحاوی صفحہ ۱۲۲، جلد ۱، کنز العمال صفحہ ۲۰۲، ۲۰۳، جلد ۱،
 ابو داؤد صفحہ ۱۲۲، ۱۱۶، جلد ۱، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۱۵۹، ۱۶۰، جلد ۱، مسند امام
 احمد بن حنبل صفحہ ۳۸۸، جلد ۱۔

حدیث نمبر ۳۸: سرکار علیہ السلام نے رکوع و سجود میں رفع یدین سے منع فرمایا۔
 ملاحظہ ہو: مسلم شریف صفحہ ۱۸۱، جلد ۱، صحابہ کرام و سرکار ﷺ کی نماز میں صرف کھلی
 بار تحریمہ میں رفع یدین ہوتا تھا۔ ملاحظہ ہو: مجمع الزوائد صفحہ ۱۲۸، جلد ۱، بیہقی
 صفحہ ۷۸، ۸۰، جلد ۲، طحاوی صفحہ ۱۲۲، کنز العمال صفحہ ۲۰۳، جلد ۱۔

حدیث نمبر ۳۹: سرکار ﷺ کا ارشاد: تین رکعت وتر واجب ہیں۔ ملاحظہ ہو:
 ابو داؤد صفحہ ۲۰۸، جلد ۱، کنز العمال صفحہ ۱۹۵، ۱۹۶، جلد ۲، تین رکعات وتر اور
 دعائے قنوت سرکار ﷺ نے رکوع سے پہلے پڑھنی۔ ملاحظہ ہو: دار قطنی صفحہ ۱۷۵،
 ۱۷۶، مجمع الزوائد صفحہ ۹۷، جلد ۱، دار قطنی صفحہ ۱۷۳۔

حدیث نمبر ۴۰: نماز تراویح ۲۰ رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ سرکار ﷺ ہمیشہ ۲۰
 رکعات تراویح پڑھتے تھے۔ ملاحظہ ہو: مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۹۲، جلد ۱، ابن
 السنن صفحہ ۵۶، جلد ۲، مجمع الزوائد صفحہ ۷۲، جلد ۱، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ ۳۹۳،
 جلد ۲، بیہقی صفحہ ۳۹۶، جلد ۲، سنن الکبریٰ للبیہقی صفحہ ۱۹۱، جلد ۱، طحاوی
 صفحہ ۱۱۹، جلد ۱، کنز العمال صفحہ ۲۹۸، جلد ۲، کتاب الاذکار للذہبی صفحہ ۸۲، عن
 الطالبین منسوب بہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ

داڑھی کی

شرعی حیثیت

ضابطہ نمبر ۱:-

ارشادات خداوندی ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

ان ارشادات عالیہ قرآنیہ کا خلاصہ مطلب:

۱:- واجب الاطاعت، مکمل نمونہ برائے اطاعت رسول ﷺ کی ذات ہے۔

۲:- اس اولی الامر کی اطاعت واجب ہے جو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے۔

۳:- جو پیرزادہ یا امام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان نہیں اس کا

قول و فعل واجب الاطاعت نہیں، جو خود گمراہ ہے دوسرے کو کیا ہدایت کرے گا۔

ضابطہ نمبر ۲:-

مندرجہ ذیل کتب معتبرہ سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کی واڑھی

(ریش) مبارکہ لمبی، گھنی، کثیر بالوں والا، قبضہ (چار انگل) سے ہرگز کم نہ تھی۔

نمبر ۱:- صحیح مسلم۔ نمبر ۲:- ابن عساکر۔ نمبر ۳:- ترمذی فی الشمائل۔

نمبر ۴:- طبرانی کبیر۔ نمبر ۵:- بیہقی فی الشعب۔ نمبر ۶:- بیہقی فی الزمانی۔

نمبر ۷:- بیہقی فی الدلائل۔ نمبر ۸:- ابن عساکر فی التاریخ۔

نمبر ۹:- ابن عساکر فی التاریخ عن ابی ہریرۃ۔ نمبر ۱۰:- بیہقی عن علی بن

ابی طالب - نمبر ۱۱:۔ ابن عساکر عن عمر بن الخطاب - نمبر ۱۲:۔ ابن عساکر عن انس - نمبر ۱۳:۔ ابن عساکر حضرت انس سے اور سند کے ساتھ - نمبر ۱۴: کتاب الشفا از قاضی عیاض حضور ﷺ کی ریش مبارک سینہ منور کو بھرے ہوئے تھی۔

نمبر ۱۵:۔ شرح شفا از علامہ علی قاری حنفی ایسا ہی شامل ترمذی میں ہے۔

اگر کوئی اس کے خلاف یعنی قبضہ سے کم داڑھی رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل لائے۔

نہ نجر اٹھے گا نہ کوئی شمشیر ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں ایک حوالہ پیش کرو اور انعام حاصل کرو۔

ضابطہ نمبر ۳:

مندرجہ کتب احادیث معتبرہ میں حضور علیہ السلام کا صریح حکم ہے کہ

داڑھی لمبی رکھو (جو قبضہ سے کم نہ ہو)

نمبر ۱:۔ مؤطا امام مالک - نمبر ۲:۔ مسند امام احمد - نمبر ۳:۔ صحیح بخاری - نمبر ۴:۔ مسلم - نمبر ۵:۔ ابوداؤد - نمبر ۶:۔ ترمذی - نمبر ۷:۔ نسائی

نمبر ۸:۔ ابن ماجہ - نمبر ۹:۔ طحاوی - نمبر ۱۰:۔ رواہ ابن عدی - نمبر ۱۱:۔

شرح معانی الآثار - نمبر ۱۲:۔ طبرانی کبیر - نمبر ۱۳:۔ بیہقی - نمبر ۱۴:۔

ابونعیم فی حلیۃ الاولیاء - نمبر ۱۵:۔ صحیح ابن حبان - نمبر ۱۶:۔ رواہ ابن

ابی شیبہ - نمبر ۱۷:۔ طبقات ابن سعد - نمبر ۱۸:۔ سیرت حلبیہ - نمبر ۱۹:۔

تاریخ الخمیس - نمبر ۲۰:۔ خطیب بغدادی عن ابی سعید خدری -

نمبر ۲۱:۔ اخرجہ البزار عن عائشہ - نمبر ۲۲:۔ اخرجہ ابوداؤد فی ستہ عن

ابن عمر - نمبر ۲۳:۔ والنسائی عن روفیع -

ان کتب معتبرہ میں داڑھی بڑھانے اور مونچھیں پست کرنے کا حکم ہے۔ کسی کو ہرگز ان سے کم رکھنے کا حکم نہیں ہے اور قبضہ سے کم رکھنے کا حکم پیش کرے جو قبضہ سے کم داڑھی رکھنا ہے وہ حکم اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تارک اور منکر ہے۔ کیا منکر حکم رسول ﷺ لائق امامت ہوسکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔

ضابطہ نمبر ۴:-

کیا قبضہ (چار انگل) داڑھی رکھنے کا کوئی ثبوت ہے؟

۱:- اخرج ابن ابی شیبہ عن ابی زرعه قال کان ابو ہریرۃ یقبض علی لحيته فیاخذها افضل عن القبضہ۔

۲:- صحیح بخاری کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحيته فما فضل اخذه۔

۳:- فتح الباری شرح بخاری: فيمسك من اسفل ذقنه باصابعه الاربعه ملتصقة فیاخذها من اسفل عن ذالك لتسبب لحيه بقدر الضرورة۔

۴:- اخرج محمد بن الحسن فی کتاب الآثار عن ابن عمر انه كان يقبض علی لحيته ثم يقص ماتحت القبضہ۔

۵:- اخرج ابو داؤد والنسائی رایت ابن عمر يقبض علی لحيته فيقطع ما زاد علی الكف۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں وہ بھی اس پکڑ کر نیچے پچی ہوئی داڑھی کتراتے تھے۔ اگر قبضہ چار انگل کی کوئی حیثیت نہیں تو صحابہ کرام علیہم السلاوٰن مٹھی میں پکڑ کر نیچے والے بال کول کتراتے تھے؟

میں پکڑنے کا کیا مطلب؟ معلوم ہوا قبضہ کی شرعی حیثیت ہے۔

ضابطہ نمبر ۵:-

تعال صحابہ و بزرگان دین

۱:- حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چار انگل سے کم داڑھی رکھنے والے کی گواہی رد فرمادی۔
(قوت القلوب، احیاء العلوم)

۲:- حضرت عمر بن الخطاب اور قاضی مدینہ عبدالرحمن قبضہ سے کم داڑھی رکھنے والے کی شہادت رد فرمادیتے تھے۔
(قوت القلوب، احیاء العلوم)

۳:- آخری زمانے میں داڑھیاں کترنے والے آئیں گے وہ نرے بے نصیب ہوں گے۔
(دقائق الطريقة عن کعب احبار)

۴:- طحاوی علی مرقی الفلاح اور طبرانی میں ہے: حضرت عمر نے ایک مرد کی قبضہ سے زائد داڑھی کٹوائی۔

۵:- طحاوی میں اسماعیل تابعی کہتے ہیں: حضور علیہ السلام کے صحابہ حضرت انس و حضرت وائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی داڑھیاں لمبی تھیں۔

۶:- طحاوی میں ہے: حضرت عثمان ابن عبداللہ تابعی کہتے ہیں: حضور علیہ السلام کے صحابہ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ابوسعید خدری، ابواسید ساعدی، رافع بن خدیج، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میں نے دیکھا وہ موچھیں کتراتے اور داڑھیاں بڑھاتے تھے۔

۷:- تاریخ الخلفاء للسیوطی اور کتاب الاستیعاب میں ہے: مولا علی کی داڑھی

موٹھوں اور سینے کو پر کئے ہوئے تھی۔

۸:- تاریخ الخلفاء اور ابن عساکر میں ہے: سیدنا عثمان غنی کبیر اللحية تھے۔ یعنی لمبی داڑھی والے تھے۔

۹:- کتاب الاستیعاب میں حضرت عثمان کے بارے کبیر اللحية عظیماً آیا ہے۔ اگر کسی صحابی نے چار انگل سے کم داڑھی رکھی ہے تو حوالہ درکار ہے۔ بفضل خدا اس کے خلاف کوئی حوالہ نہیں ملے گا۔

ضابطہ نمبر ۶:-

کتب فقہ کے ارشادات

۱:- بحر الرائق، فتح القدير، غنیہ شرح منیہ، در المختار، طحاوی علی مراقی الفلاح حاشیہ درر غرور میں ہے: داڑھی ایک مشیت سے کم کرنا کسی امام کے نزدیک جائز نہیں۔ ایسا کرنا ایرانی آتش پرستوں، یہودیوں، ہندوؤں اور فرنگیوں کا فعل ہے۔

۲:- ہدایہ، تبیین الحقائق شرح کنز، تکملة بحر الرائق، غنیہ شرح منیہ، حاشیہ کنز، حاشیہ تنویر، رد المختار میں ہے: اس فعل بد کے مرتکب کو اسلامی حکومت شرعی سزا دے کہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہو۔

۳:- شرح مصابیح، شرح مشکوٰۃ للطیبی، مرقاة شرح مشکوٰۃ للقاری، مجمع البحار، لمعات شرح مشکوٰۃ للشیخ محقق بلخ سے: داڑھی تراشنا یعنی قبضہ سے کم رکھنا پارسیوں کا کام تھا اور اب زہرہ کا فحشوں کا شعار ہے۔ یعنی فرنگی

اور ہندو اور وہ فرقہ جس کا دین سے کچھ تعلق نہیں جو قلندر یہ کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلامی حدود کو ان سے پاک کرے۔

۴۔ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں: داڑھی قبضہ سے کم کرنا پارسیوں کا کام تھا شرع شریف نے منع فرمایا۔

۵۔ کواکب الداری شرح صحیح بخاری اور مجمع البحار میں ہے: کس قدر بد عقل ہیں وہ لوگ جنہوں نے مونچھیں بڑھائیں اور داڑھیاں (قبضہ سے) پست کیں برعکس اس خصلت کے جس پر تمام امم انبیاء کی فطرت ہے ان لوگوں نے داڑھیاں پست کر کے اصلی خصلت ہی بدل دی۔

۶۔ مفہم شرح مسلم للقرطبی، اتحاف السادة المتین میں ہے: داڑھی نہ موٹا نا جائز ہے نہ چننا نہ (مٹھی سے کم) کترنا۔

۷۔ کتاب الوجیز، کتاب النوازل، نصاب الاحتساب میں ہے: مرد کو (قبضہ سے کم) داڑھی کا ٹنا جائز نہیں۔

۸۔ در المختار میں بحوالہ مجتبیٰ ہے: داڑھی (مٹھی سے کم) کا ٹنا حرام ہے۔

۹۔ تبیین الحقائق شرح کنز میں ہے: (مٹھی سے کم) داڑھی کے بال نہ کٹائے کیونکہ یہ مثلہ ہے۔

مذاهب اربعہ کا فیصلہ

۱۰۔ عرف الشذی میں ہے: ایسے داڑھی کترانا جو کہ قبضہ سے کم ہو جائے مذاہب اربعہ میں حرام ہے۔

۱۱۔ عالمگیری میں ہے: داڑھی قبضہ سے زائد ہو تو کترانے میں حرج نہیں۔ امام محمد

نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا کہ اگر داڑھی ایک مشت سے بڑھ جائے تو منھی میں پکڑ کر نیچے پچی ہوئی داڑھی کترنا سنت ہے۔ ہمارا یہی معمول ہے۔ ابن الاثیر نے فرمایا اسے کھینچنا میں اسی طرح نقل کیا۔

۱۲۔ فتح الباری شرح بخاری میں ہے:-

داڑھی منڈانے والے ان آتش پرستوں سے بدتر ہیں جو قبضہ سے کم کر کے کترتے ہیں۔

شرعی فیصلہ:- اقوال و افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع خلفائے راشدین و صحابہ کرام اقوال فقہاء سے ثابت ہے قبضہ (چار انگل) کے برابر داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس واجب کا تارک اعلانیہ فاسق ہے۔ اگر گناہ گناہ کو سمجھے تو گنہگار اور اگر اس فعل کو جائز اور خلال سمجھے تو کافر ہے۔

بحوالہ تفسیر جمل، فتویٰ مولانا عبدالکریم، صدر مدرس انوار العلوم ملتان

واستاد صاحبزادگان پیرسواگ

اعلانیہ فاسق (قبضہ سے کم داڑھی رکھنے) والے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تجزیہ واجب الاعادہ ہے۔ یہ مسئلہ مندرجہ ذیل کتب فقہ میں ہے: رد المحتار، البدائع والصنائع ہدایہ، قدوری، جوہرہ نیرہ، صغیری شرح منیہ، طحاوی شرح وقایہ عمدۃ الرعاہ، مراقی الفلاح، ملخص، املاد الفلاح۔

اعتراض: ابو داؤد شریف میں ہے: حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے وقت بد کے پیچھے پڑھ لو اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہو؟

جواب: اسی حدیث کے تحت حاشیہ ابو داؤد میں ہے: یہ حدیث صحیح ہے اور اس

کی سب طرق ضعیف ہیں۔ بدعتی اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں صحیح حدیث میں ہے۔ ولیؤمکم خیار کم تم میں سے اچھے لوگ امامت کرائیں۔ روایت کیا اس کو حاکم نے اور دارقطنی نے روایت کیا جعلوا ائمتکم خیار کم۔ اپنے امام نیک لوگوں کو بناؤ۔ بعض علماء کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ جہاں لفظ مطلقاً مکروہ آئے وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند صفحہ ۱۵۰، جلد ۱ میں ہے:-

صلوا خلف کل برو فاجر کا مطلب صرف یہ ہے کہ نماز فاجر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری روایت احادیث اور نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ مکروہ ہوتی ہے اور مکروہ بھی تحریمی۔ جیسا کہ شامی میں منقول ہے۔

۱:- اگر آپ دیوبندی علماء کو حق مانتے ہیں تو صدر دیوبند کا رسالہ داڑھی کی شرعی حیثیت کا مطالعہ کریں۔

۲:- اگر آپ بریلوی علماء کو حق مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب لمعة الضحیٰ کا مطالعہ کریں۔

۳:- اگر آپ خیر آبادی ہیں تو شاہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ پڑھیں۔

۴:- اگر آپ سلیمانی ہیں تو آپ شبیہ شاہ سلیمان ملاحظہ فرما کر اپنے قول سے توبہ کریں۔

۵:- اگر آپ کچھ بھی نہیں اور شتر بے مہار ہیں تو خاتمے کی فکر کریں۔ میں اپنا ایک عزیز دوست اور چشتی بھائی سمجھ کر دست بستہ عرض کرتا ہوں اجماع کونہ توڑیں اور بے عملت پیرزادوں کو خوش نہ کریں۔ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ

اگر مؤمن ہو تو خدا اور رسول (عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم) کو راضی کرو۔
فقیر نے آپ سے نافع السالکین کے بارے میں پوچھا تھا اللہ کتاب میں لکھا ہے
غوث زمان شاہ سلیمان نے نجدیوں کو قرن الشیطان شیطان کا گروہ یا شیطان کا
سینگ فرمایا ہے۔ میں چشتیوں کا مرید اور نقشبندیوں کی مراد ہوں۔ شاہ سلیمان کے
مرید کی نماز قرن الشیطان نجدی کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کو ہدایت بخشے۔



عصر حاضر کے فرق باطلہ کے رد میں اپنی نوعیت کی عام فہم مکمل و جامع تفسیر

عقائد، احکام اور مسائل کا عظیم مرجع

مشترکاً مفتی محمد رفیع الدین صاحب مدظلہ العالی
والسید ابوالحسن علی رضا صاحب مدظلہ العالی

درود قرآن اور فہم قرآن

یہ تفسیر عوام و خواص اور علماء و طلباء کے لئے یکساں مفید ہے۔

السلامة والسلامة والسلامة
نزد درویش کا جہان روبرو ہے